

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
كَمِ دِينَ مَانُوتَ أَتَمَّ أَنْ بَلَّغْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا مَعْرُوفًا  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنِيبِ

ایزدمقان سحیفہ عجمیہ و حدیث غرات رب الی اللہ  
مقبول بارگاہ شہ کوئین حضرت محمد ﷺ  
مُسَمَّیْ بِهِ

# صَلَوَاتُ الرَّسُولِ

الجزء السادس عشر

فِي عَظَمَتِهِ وَعِزَّتِهِ ﷺ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## فہرست مجموعہ رسالت الرسول

- 1- الجزء الثالث عشر (تیرواں پارہ) حضور ﷺ کی دعا و التجاء کے بارے میں۔
- 2- الجزء الرابع عشر (چوبدواں پارہ) حضور ﷺ کے کلام کے بارے میں۔
- 3- الجزء الخامس عشر (پندرہواں پارہ) حضور ﷺ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں۔
- 4- الجزء السادس عشر (سولہواں پارہ) حضور ﷺ کی عزت و عظمت کے بارے میں۔
- 5- الجزء السابع عشر (سترہواں پارہ) حضور ﷺ کی شفاعت اور وسیلہ کے بارے میں۔
- 6- الجزء الثامن عشر (اٹھواں پارہ) حضور ﷺ کی قدر و اقتدار کے بارے میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِظْمَةِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظہیل عزت " بسم اللہ الرحمن الرحیم " کے اور بظہیل عظمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِبِدْرَقَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم " کے اور بظہیل رہبرئی " بسم اللہ الرحمن

الرَّحِیْمِ وَبِعِظْمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

الرحیم کے اور بظہیل عظمت " بسم اللہ الرحمن الرحیم " کے تمام ثنا میں اللہ رب العالمین

الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ

کے لیے ہیں جو غایت رحمت والا۔ مہربان۔ روز جزا کا مالک ہے۔ تیری ہی

نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ

عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہیں راہ راست پر۔ راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور جو گم گشتہ راہ ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ سَرَى اِلٰی مَقَرِّ الرَّحْمَةِ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے معراج فرمایا قرار گاہ رحمت

وَحِجَابِ الْعِظْمَةِ وَالْمَنَادِیْ یُنَادِیْ هَذَا رَفِیقُ الْاُلَّةِ وَالشَّفِیْقُ

اور حجاب عظمت تک اور منادی حق کہتا تھا یہ ہیں اُمت کے رفیق اور خلق خداوند تعالیٰ

لِخَلْقِ اللّٰهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَفَلَ مِنْ

پر شفیق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو معراج سے لوٹے

مَسْرَاةً وَاَعْلَامُ عِزَّةٍ ظَاهِرَةٌ وَعِظْمَتُهُ فَاخِرَةٌ وَاَنْوَارُ

جیکہ ان کی عز و جاہ کے پرچم غالب تھے اور عظمت کے جھنڈے فخر کنال تھے اور ان کی طلعت مبارکہ



طَلَعَتْهُ السَّعِيدَةُ بِأَهْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے انوار غالب تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي جَلَّ عُرُوسٌ عِزَّةَ الْمَيْتِينَ عَلَى مَعَالِي قُصُورِ أَهْلِ

کہ جلوہ گر ہوا ان کی پائیدار عزت کا عروس اہل علیین کے بلند و بالا محلات

عَلِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عُرُوسٌ

پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جلوہ گر ہوا اللہ کی

عُظْمَةِ اللَّهِ وَعِزَّتِهِ مِنْ مَّظَاهِرِ الْإِنْسَانِيَّةِ عَلَى غُرَبِ

عظمت و عزت کا عروس ان کے مظاہر انسانیت سے عنایت ربانیہ

أَفَاقِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے آفاق کی پیشانیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَيَّقَظُهُ جِبْرَائِيلُ مِنْ مَنَامِهِ إِلَى مَحْمَلِ تَعْظِيمِهِ وَ

جنہیں جگایا جبریل نے نیند سے ان کے مقام تعظیم اور

مُكَلَّلِ عِزَّتِهِ وَمُنْحَلِ عِظَمَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مرصع تاج عزت اور عطا عظمت کے مقام کی طوت۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي لَمَّا جَمَعَ الْبُرَاقُ عِنْدَ رُكُوبِهِ عَلَيْهِ نَادَاهُ جِبْرَائِيلُ

کہ جب سرشتی کی براق نے آپ کے سوار ہوتے وقت تو کہا اسے جبریل نے

اسْكُنْ فَمَا رَكِبَكَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَلَا أَعَزُّ مِنْهُ لَدَيْهِ

سکون سے کام سے کیونکہ نہیں سوار ہوا تجھ پر ان جیسے عزت و عظمت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نہ معزز اس کے پاس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے لیے آسمانوں کے دروازے

بَابًا بَابًا وَاخْتَرَقَتْ لَهُ حُجُبَ الْعِزَّةِ حِجَابًا وَكَانَتْ رُءُوسَاءُ

یکے بعد دیگرے کھولے گئے اور پھاڑے گئے ان کے لیے محابات عزت ایک ایک کر کے اور روحانی



الرُّوحَانِيْنَ تَهَيِّئْهُ وَعُظْمَاءَ الْمُقَرَّبِيْنَ تُحَيِّئْهُ اَللّٰهُمَّ

کے سرداران کو تہنیت کتے تھے اور مقربین کے رؤساء انہیں ہدیے پیش کرتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ بَالِغَتِ الْمَلَائِكَةُ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو معراج پر پہلے اور انتہاء کر دی ملائکہ نے

فِي تَعْظِيْمِهِ وَاكْرَامِهِ وَاِعْزَازِهِ وَاِسْتِلاَمِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

ان کی تعظیم و تکریم اور اعزاز میں اور ہدیہ سلام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَبَقَ اَهْلَ الْفَضْلِ وَالْتَّقْدِيْمِ

سیدنا محمد پر جو معراج پر پہلے جبکہ سبقت لے جا چکے تھے ارباب فضیلت اور سرمخیوں سے

اِلَى مَحَلِّ الْفَخْرِ وَالتَّعْظِيْمِ وَهُوَ فِي عِزَّةِ اللّٰهِ وَعَظْمَةِ اللّٰهِ

طرف مقام فخر و تعظیم کے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت میں مستغرق تھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن

زَهَتْ بِهٖ بَيْتُ الْعِزَّةِ وَ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

کی بدولت فخر حاصل کیا بیت العزت و الرحمت نے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي غَدَّتْ بِهٖ النَّفُوسُ مُعْتَزَّةً وَّ الْقُلُوبُ فِي عِزَّةِ

محمد پر کہ جن کی بدولت نفوس عزت والے ہوئے اور دلوں نے عزت

وَعَظْمَةِ اللّٰهِ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و عظمت پائی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَرَّنَ اللّٰهُ الْيَمْنَ وَالتَّوْفِيْقَ بَيْنَ عَظْمَتِهِ وَطَلَعَتْ

کہ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا ہے یمن اور توفیق کو ان کی عظمت کے یمن و برکت سے اور طلوع ہوا

عِزَّتُهُ عَلٰی اَفْقِ خَلْقِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

ان کا آفتاب عزت مخلوق کے افق پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللهُ حَقَّهُ اَعْظَمَ الْحَقُّوقِ بِعَظَمَتِهِ

آل اطہار پر کہ اللہ نے بنا دیا ہے ان کا حق سب حقوق سے عظیم تر بسبب ان کی عظمت کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَعْمَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب

الرَّجُلُ لِعِزَّازَتِهِ عَلٰى رَبِّهِ وَكَرَامَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

بہت اچھی شخصیت ہیں بسبب معزز و مکرم ہونے کے رب تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ الْبِلَّةِ وَالِدِيْنَ وَالْاِخْلَاصِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ملت و دین کے لیے اور اخلاص

وَالْيَقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

یقین کی شہیر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ اِلَّا عِزًّا اَتَمَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

پر جو انتہائی معزز اور کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَعِزِّ النَّاسِ نَفَرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل امجاد پر جو سب انسانوں سے معزز جماعت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَعِزِّ مَنِ انْتَصَرَ بِاللهِ وَاسْتَنْصَرَ بِحُرْمَتِهِ

اور آپ کی آل پر جو عزیز تر ہیں اللہ سے مدد پانے والوں میں اور عزیز تر ہیں ان تمام سے جن کی حرمت

وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَاهِهِ وَقَبُولِهِ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

و عزت اور جہاد و شرف اور قبولیت کے طفیل نصرت طلب کی گئی۔ اے اللہ بے انتہاء صلوٰۃ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِعِزَّتِكَ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جیسے کہ تیری عزت کی اور اس کے

عَدَدِ عِزَّتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اعداد کی انتہاء نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر



مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِزَّتِهِ وَعَدَدِ عِزَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بے انتہاء جیسے کہ نہیں انتہاء ان کی عزت اور عزت کے اعداد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِإِحْسَانِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جیسے کہ نہیں انتہاء تیرے احسان کی

وَعَدَدِ إِحْسَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِإِحْسَانِهِ وَعَدَدِ إِحْسَانِهِ اللَّهُمَّ

آل امجاد پر جیسے کہ نہیں حد ان کے احسان کی اور نہ اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

بے انتہاء صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء

لِعَظَمَتِكَ وَعَدَدِ عَظَمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تیری عظمت اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ بے انتہاء صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعَظَمَتِهِ وَعَدَدِ عَظَمَتِهِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء ان کی عظمت اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

بے حد صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد

لِرَحْمَتِكَ وَعَدَدِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تیری رحمت اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ بے حد صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِرَحْمَتِهِ وَعَدَدِ رَحْمَتِهِ

آپ کی آل امجاد پر جیسے کہ حد نہیں ان کی رحمت اور اس کے اعداد و شمار کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا

اے اللہ صلوٰۃ نامحدود نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس طرح کہ



نَهَايَةَ لِعِلْمِكَ وَعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

لا محدود ہے علم تیرا اور غیر محدود ہیں معلومات تیرے۔ اے اللہ لا محدود صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِلْمِهِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ غیر محدود ہے ان کا علم اور

عَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کے معلومات۔ اے اللہ بے حد صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِحُجُودِكَ وَعَدَدِ جُودِكَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد تیرے جود اور اس کے شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد

لِحُجُودِهِ وَعَدَدِ جُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کے جود نوال اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِحِلْمِكَ وَعَدَدِ حِلْمِكَ اللَّهُمَّ

کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء تیرے حلم کی اور اس کے عدد و شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء

لِحِلْمِهِ وَعَدَدِ حِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کے علم اور اس کے عدد و شمار کی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِكِرَمِكَ وَعَدَدِ كِرَمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء تیرے کرم اور اس کے عدد و شمار کی۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اجماع پر جیسے کہ بے حد ہے





بِكْرَمِهِ وَعَدَدِ كَرَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُورِكَ

کرم ان کا اور لامحدود ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلامتی و برکات نازل فرما اپنے نور

الْعَزِيزِ وَشُعَاعِكَ الْغَالِبِ وَرُوحِكَ السَّارِيِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ

عزیز اور شمع غالب اور روح پر جو سرایت کئے ہوئے ہے ہرزہ کائنات میں۔ اے اللہ

وَبِعِزَّتِهِ وَبِشَرَفِهِ وَبِقَبُولِهِ اللَّهُمَّ اجْبُ بِعِزَّتِهِ وَعِزَّتِكَ

بطیفیل ان کی حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے۔ اے اللہ قبول فرما بطیفیل ان کی عزت اور اپنی عزت کے

يَا مُعِزُّ يَا عَزِيزُ الْمُنِيْعُ الْغَالِبُ عَلَى جَمِيعِ أَمْرِهِ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ

اے عزت دینے والے اے عزیز بلند و بالا۔ غالب تمام امور پر جس کے برابر کوئی شے نہیں

أَعِزَّنِي بِالْأَحْوَالِ الْمُرْتَدَّةِ إِلَى الْأَحْوَالِ الْقَوِيَّةِ بِالْمَلَكَةِ

مجھے عزت بخش ایسے احوال کے ذریعے جو قوی احوال کی طرف رہنائی کریں بیب عرش و کرسی

الْعَرْشِيَّةِ وَالْكُرْسِيِّ الْقَوِيَّةِ الْمَفْرَقَةِ الْقِتَالَةِ لِأَعْدَاءِ

والے ملائکہ کے جو قوی اور پیراگندہ کرنے والے اور قتل کرنے والے ہیں نفراد

الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْتَعِدِّينَ الطَّالِبِينَ لِلْكَمَالَاتِ الْآخِرَوِيَّةِ اللَّهُمَّ

کے اور ارباب استمداد کمالات اخرویہ کے طلب کاروں کے اعلاء کو۔ اے اللہ

أَنْتَ الْغَالِبُ ذُو الْعِظْمَةِ وَالْقُدْرَةُ الْبَاهِرَةُ وَالْحِكْمَةُ الْعَالِيَّةُ

تو ہی غالب ہے نمایاں عظمت و قدرت اور عالی حکمت والا ہے۔

أَعْطِنِي عِزَّةً عَظْمَةً غَالِبًا لَا جُرَى دِينَ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ بِحُبِّ

مجھے عطا فرما عزت اور عظمت اور غلبہ تاکہ جاری کر سکوں اللہ کے دین اور ذکر کو بیب حب

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَدَّتْ أَفْهَامَ الْعُقُولِ وَحَيَّرَتْ النَّفُوسَ عِنْدَ

الہیہ کے۔ بند ہو گئے افہام عقول کے اور حیرت زدہ ہو گئے نفوس وقت

الْمُطَالَعَةِ وَذَابَتْ الْإِبْدَانُ عِنْدَ الْمَشَاهِدَةِ وَعِنْدَ شَرْقِ

مطالعہ کے اور پگھل گئے بدن وقت مشاہدہ کے اور تیرے جمال کے کمال



جَمَالِكَ اجْعَلْنِي غَالِبًا قَادِرًا عَلَى نَفْسِي الْأَمَارَةَ وَالْعُبُورِي فِي

ظہور کے بنا دے مجھے غالب و قادر اپنے نفس امارہ پر اور راہ راست کے

الطَّرِيقِ الْجَادَةِ وَإِنْ غَالِبَ أَحَدًا بِالنُّقُولِ وَالْجَارِحِ فَأَقْلِعْهُ

عبور پر۔ اور اگر کوئی غالب آنے کی کوشش کرے زبان اور اعضاء سے تو اسے اکھیڑ پھینک

وَأَجْبِعْهُ إِلَى تَفْرِيقَةٍ إِنْ كَانَ قَاصِدًا إِلَى السُّوءِ وَالْإِهَانَةِ

اور مجھ سے جدا کر اگر میرے ساتھ برائی اور اہانت کا قصد رکھتا ہو

دَاعِيًا مَرَوِّعًا إِلَى الْإِيذَاءِ إِلَّا أَنْتَ إِنْ كُنْتَ رَاضِيًا بِهِ فَإِنِّي

اور ایذا و تخریفات کا داعیہ رکھتا ہو لیکن اگر تو اس سے راضی ہو تو میں بھی

أَرْضَى بِهِ أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَنِيعُ الْغَالِبُ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ فَلَا يُقَاوِمُكَ

اس ایذا و تکلیف پر راضی ہوں گا۔ اے اللہ تو بلند و بالا اور غالب ہے ہر امر پر تیرے سامنے نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے

وَلَا يُصَادِمُكَ أَحَدٌ اجْعَلْنِي مَنِيعًا غَالِبًا عَلَى كُلِّ جَنِّيٍّ وَرُوحِيٍّ

اور نہ ٹکرے سکتا ہے مجھے بھی ناقابلِ تسخیر و غالب بنا دے ہر جن اور نومی روح

وَرُوحَانِيٍّ حَتَّى تَغَيِّرَ دَعْوَتِي أَفْعَالَهُمْ إِلَى إِيْمَانِهِمْ مُنْقَادَةً

اور روحانی مخلوق پر سستی کہ کر دے میری دعوت ان کے افعال کو بے اثر و رانجا لیکہ وہ تابعدار۔

مُطِيعَةً زَمِنَهُ إِلَى أَفْعَالِهِمْ إِنْ أَرَادَ عَبْدُكَ الدَّاعِي وَإِنْ قَصَدَ

اطاعت گزار اور بے دست و پا ہوں اپنے افعال میں اگر تیرا دعا گو بندہ ایسے چاہے اور اگر قصد کرے

الغَلْبَةَ وَالْقَهْرَ فَاسْلُبْ الْبَاعِثَةَ وَالْفِعْلَ مِنْهُ وَعَظِلْ الْقُوَى

غلبہ اور قہر کا تو سلب فرما اس سے جذبہ اور فعل اور معطل فرما ان کے

الْفَاعِلَةَ الْمُتَحَرِّكَةَ مِنْهُ إِلَى هَذَا الدَّاعِي سِوَى الْقَصْدِ بِالْإِحْسَانِ

توڑنے متحرک فاعلہ کو اس دعا گو کے لیے سوائے احسان

وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُدَارَاةِ الدِّيْنِيَّةِ خَالِصَةً لِّكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى

و حسن خلق اور دینی رواداری کے قصد کے جو خالص تیرے لیے ہو بغیر دعوائے



صَدَارَةٌ وَإِدْعَاءُ جَاهٍ فَيَا إِلَهَ كُلِّ شَجَرٍ ذِي أُصُولٍ قَوِيَةٍ وَ

صدارت کے اور طلب جاہ کے ترانے سے الہ ہر شجر کے جو مضبوط تنوں والے ہیں اور

جِبَالٍ رَّاسِيَّاتٍ حَتَّىٰ جَعَلْتَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَالِبًا عَلَىٰ جُنْدِ

پائیدار پہاڑوں کے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا فرعون کے

فِرْعَوْنَ حَتَّىٰ أَمِنَ السَّحَرَةُ وَالتَّقَمَ الْعَصَا الْحَيَاتِ الْبَاطِلَةَ وَ

شکر پر یہاں تک کہ جادوگر ایمان لائے اور آپ کا عصا نکل گیا جھوٹے سانپوں اور

الْأَفَاعِي السَّمُومِيَّةِ وَجَعَلْتَ سُلَيْمَانَ حَاكِمًا عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

زہریلے اژدہوں کو اور تو نے سلیمان علیہ السلام کو حکم بنایا جن و انس اور

وَمَرْدَةِ الشَّيَاطِينِ فَاجْعَلْنِي بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

سرکش شیاطین پر تو مجھے بھی بنا بظہیر عزت اپنے نبی محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ قَادِرًا وَقَاهِرًا

علیہ وسلم کے اور بظہیر حرمت تمام انبیاء و اولیاء کے غالب اور قاهر

عَلَىٰ أَعْدَائِي وَكُنْ لِي مُعِينًا وَنَاصِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اپنے اعداء پر اور میرا مددگار اور ناصر ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَاقِبِ صَلَوةٍ تُعَاقِبُ بِهَا لَنَا بَرَكَةَ دَائِمَةَ الْإِتِّصَالِ وَالتَّوَالِي

آخر الزمان نبی پر جس صلوات کی بدولت ہمیں مسلسل اور لگاتار برکتیں عطا کرے جو

مُتَعَاقِبَةٌ بِتَعَاقِبِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ط

پے درپے ہوں دنوں اور راتوں کے تسلسل کے مطابق اور اچھی عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ طَهْ صَلَوةٍ تَمْدَحُنَا بِهَا وَبِطَائِبِهَا طَلَبُ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما طہ نبی پر کہ عطا کرے اس صلوات کے طفیل اور طہ کی طہارے کے طفیل طلب

الْأَبْلَجِ وَهَدَايَةَ الْإِبْهَجِ وَالْأَنْهَجِ طَهْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

روشن و نزلانی محبوب کی اور ہدایت بارونق اور واضح و کشادہ راہ کی طہ۔ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر



الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّ صَلَاةٍ تَخْصُنَا بِهَا

قرآن تاکر شفقت میں پڑو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما یسین پر کہ جس صلوٰۃ کے ساتھ ہمیں مخصوص ٹھہرائے

وَبِنْدَاءِ يَا أَيُّهَا بِحَبَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَبِسِرِّ سِينِهَا فِي أَسْرَارِ

اور اس کی یاد کی نداء کے ساتھ بطفیل مجتبت رحمانیہ کے اور ساتھ سین کے

الرَّبَّانِيَّةِ يَسِّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ط عَلَى

سر کے اسرار ربانیہ میں یسین قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی۔ بیشک تو البتہ مرسلین میں سے ہے راہ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى طَاهِرِ صَلَاةٍ تُطَهِّرُنَا

راہ راست پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی طاہر پر جس صلوٰۃ کے طہیل ہمیں پاک

بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْأَهْوَالِ الرَّدِّيَّةِ إِنَّ اللَّهَ

فرمائے تمام نفسانی خیالات اور رومی احوال سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ

يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور اچھی طرح طہارت رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

مُطَهِّرِ صَلَاةٍ تُطَهِّرُنَا بِهَا عَنْ قَاذُورَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالشَّهَوَاتِ

فرما مطہر نبی پر جس صلوٰۃ کے ذریعے ہمیں پاک فرمائے بشری آلودگیوں اور شیطانی

الشَّيْطَانِيَّةِ بِطَهَارَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَاطْهَرُوا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شہوات سے ساتھ کامل طہارت "اچھی طرح طہارت حاصل کرو"۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى طَيِّبِ صَلَاةٍ تُطَيِّبُنَا بِهَا بِطَلَبِ الطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ بِطَيِّبِ


طیب نبی پر کہ پاکیزہ فرمائے ساتھ اس صلوٰۃ کے طیب مطیب کی طلب کے لیے ساتھ اس پاکیزہ

كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ط

کلمہ طیبہ مانند پاکیزہ درخت کے ہے جس کی بنیاد زمین میں راسخ اور شاخیں آسمان میں ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا صَلَاةٍ تُعْظِمُنَا بِهَا بِعِظَةِ بِلَاغَةٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سید نبی پر کہ ہمیں معظم بنا دے بسبب اس صلوٰۃ کے ساتھ اس عظمت کمال



سِيَادَةِ كَرَامَةٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور سیادت و کرامت کے بیشک تم سب عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى رَسُولٍ صَلَّوَةٌ تُرْسِلُنَا بِهَا إِلَى عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ

سلام نازل فرما رسول گرامی پر کہ پہنچاتے ہیں اس صلوٰۃ کے ذریعے فردوس اعلیٰ کے

مِنَ الدَّرَجَةِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

بالاخانوں والے درجات عالیہ تک کہ ان سے بلند کوئی درجہ نہیں وہی ہے جس نے بھیجا

رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى

اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر اور کافی ہے

بِاللَّهِ شَهِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّ صَلَّوَةٌ تُنَبِّئُنَا بِهَا

اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی کریم پر کہ خبردار کرے ہمیں اس صلوٰۃ کے ذریعے

بِالْأَدَابِ وَالْحِكْمِ وَتَوْفِقُنَا بِهَا لِلْأَدَابِ وَالْحِلْمِ يَا أَيُّهَا

آداب اور حکمتوں پر اور توفیق دے اس کے ذریعے آداب و حکمتوں کی۔ اے ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ

والو نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ الرَّحْمَةِ صَلَّوَةٌ تَرْحَمُ بِهَا صُدُورَنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما رسول رحمت پر جس صلوٰۃ کے طفیل رحمت فرمائے ہمارے سینوں پر

بِأَنْوَارِ أَسْرَارِهَا أَنْوَارِ رَحْمَتِكَ الرَّحِيمِ الْعَظِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

ساتھ آشاد اسرار اور انوار رحمت کے۔ اے رحیم و عظیم " اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قِيَمِ صَلَّوَةٌ تُقِيمُنَا

مگر سراسر رحمت واسطے تمام جہانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مدبر و منتظم جس صلوٰۃ کی بدولت قائم

بِهَا عَلَى الدِّينِ الْقِيَمِ الْمُقِيمِ ذَلِكَ الدِّينِ الْقِيَمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

رکھے ہیں اپنے دین قدیم اور پائیدار پر وہی ہے دین قدیم اور پائیدار لیکن اکثر لوگ



النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ جَامِعِ صَلَاةٍ تَجْمَعُ

لوگ نہیں جانتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما جامع الکملات نبی پر کہ جمع کرے

بِهَافِيْنَا حُبِّكَ وَحُبِّ الْعَبْدِ الَّذِي يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ حُبِّكَ رَبَّنَا إِنَّكَ

اس صلوٰۃ کے ذریعے ہم میں اپنی محبت اور اس عمل کی محبت جو ہمیں قریب کرے تیری محبت کے۔ اے رب ہمارے بیشک

جَامِعِ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُقْتَفِ

تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن میں جس میں شک نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما آخری نبی پر

صَلَاةٍ تُوْرَثُنَا بِهَا وَرَاثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَوَقْفِينَا عَلَىٰ

کہ وراثت بنائے اس کی بدولت ہمیں انبیاء اور صالحین کا "اور تہیجے لائے ہم

أَثَارِهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُقْتَفِ صَلَاةٍ تَسْتَقِيمُنَا بِهَا

ان کے آثار و نشانات کے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما آخر الزمان نبی پر کہ سیدھا کرے ہمیں اس کے طفیل

بِاسْتِقَامَةِ الْمُحِبِّينَ وَوَرَاثَةَ الْمَحْبُوبِينَ وَوَقْفِينَا مِنْ بَعْدِهِ

محبین والی درستگی کی مانند اور محبوبین والی وراثت (عطا کرے)" اور بعد ان کے لائے ہم

بِالرُّسُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رَسُولِ الْمَلَا حِمِ صَلَاةٍ تُهْدِنَا

رسولوں کو۔" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد رسول جہاد و قتال پر کہ مدد فرما ہم کرے ہمیں

بِهَافِيْنَا فَتُوحَاتِ الْمَكِّيَّةِ وَظُهُورَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْكَمَالَاتِ

اس صلوٰۃ کی بدولت فتوحات مکیہ اور مدنی غلبات اور کمالات الہیہ

الْإِلَهِيَّةِ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

والی " یہ امداد فرمائے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار ملائکہ کے ساتھ

مُسَوِّمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رَسُولِ الرَّاحَةِ صَلَاةٍ

جو مخصوص نشانات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما رسول راحت پر ایسی صلوٰۃ کہ

تُرِيحُنَا بِهَا بِرَاحَةِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعُرْفَانِ فَرُوحِ

راحت پہنچائے بطویل اس کے راحت ذکر والی اور توحید و عرفان کے اندر فکر والی۔ پس راحت



وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ كَامِلٍ صَلَوةً

اور با آرام معیشت ہے اور جنت ہے نعمتوں والی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کامل بنی پر کہ کامل

تکلیفنا بہا بکمالات الاخلاق الرضیة والآیات والأوصاف

کریے ہیں بطیفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ پسندیدہ اخلاق اور کمالات کے اور پسندیدہ آیات و اوصاف کے

المرضیة بکمال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم

بسبب اس کمال کے "آج کے دن کامل کیا میں تمہارے لیے تمہارا دین اور مکمل کیا تم پر اپنی

نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیناً اللہم صلِّ وسلِّم علی

نعمت کو اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

اکلیل صلوة تکلل بہار عروسنا باکلیل لطائف السریة

سرتاج انبیاء پر کہ تاج پہنائے ہمارے سروں کو بطیفیل اس صلوٰۃ کے تاج لطائف سریہ

والطاف الخفیة اللہ لطیف بعبادہ یرسرق من یشاء وهو

اور الطاف مخفیہ کا "اللہ لطف فرماتے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ رزق دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی

القوی العزیز اللہم صلِّ وسلِّم علی مدثر صلوة تدثرنا بہا

توانا وغالب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مدثر بنی پر کہ اوڑھائے ہمیں بطیفیل اس صلوٰۃ

کساء التیس والیشال یا ایہا المدثر قم فاندرو ربک

کے چادر وجود و تحقق اور تعین و تشخص کی "اے چادر اوڑھنے والے اچھے پس ڈرائے (غذاب نار سے) اور رب کی

فکبر وثیابک فطہر اللہم صلِّ وسلِّم علی مزمیل صلوة

کبریائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مزمیل بنی پر کہ

تزملنا بہا رداء سائر بلطفک الخفی الخفی الخفی

پہنائے ہمیں بطیفیل اس کے ڈھانپنے والی چادر ساتھ اپنے لطف کے جو سرا سر مخفی و پوشیدہ ہے خصوصاً توجہ والہ ہے

بالموحدین بتزمیل الکلمة یا ایہا المزمیل اللہم صلِّ

ساتھ موحدین کے بسبب پہنارے اس کلمہ کے یا ایہا المزمیل۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُنَا بِهَا بِمَرَاتِبِ الْعُلْيَا فِي قَابِ

وسلام نازل فرما اپنے مخصوص عبد پر کہ خدمت گزار بنائے ہمیں بسبب اس صلوات کے مراتب عالیہ کے ساتھ متصف فرما کر قاب

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ حَبِيبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوسین او ادنیٰ کے مقام میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما حبیب اللہ پر جس صلوات کے ذریعے

نُحِبُّ بِهَا إِلَيْنَا مَحْبُوبِيَّتِكَ بِحُبِّ قُلِّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

محبوب ہو جائیں ہمارے ہاں اپنی شان محبوبیت کے لائق ساتھ اس محبت کے۔ فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَفِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صفی اللہ پر کہ

تَصْطَفِينَا بِهَا بِاصْطِفَاءِ زَكِيَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ إِنْ اللَّهُ

چن لے ہمیں بطریق اس کے ساتھ پاکیزہ پسندیدہ سرمدی چناؤ کے۔ بے شک اللہ نے

اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَكُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُمَّ

چن لیا انہیں تم پر اور زیادہ کیا انہیں از روئے وسعت علمی اور جسمانی کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاجِينَا بِهَا بِنَجْوَةِ رُمُوزِ

صلوات و سلام نازل فرما نبی اللہ پر جس صلوات کے طفیل تو ہم کلامی فرمائے ساتھ ہمارے ساتھ سرگوشی

الْعُرْفَانِ بِبَحْرِ عُرْفَانِ أَصْلِكَ وَبِفَجْوَةِ رُمُوزِ تَوْحِيدِ

رموز عرفان کے اپنی حقیقت کے بحر عرفان میں اور اپنی توحید

وَصْلِكَ كَمَا قُلْتَ وَقَرَّبْنَا نَا نَحِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

وصل کے رموز کے کثادہ میدان میں جیسے کہ تو نے فرمایا اور ہم نے قریب کیا انہیں بطور ہم کلام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

كَلِيمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلِّمْنَا بِهَا بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ

فرما کلیم اللہ پر کہ کلام فرمائے ہم سے بطریق اس کے اور کلمہ صدق و خلاص کے

بِكَلَامِ وَكَلِمِ اللَّهِ مُوسَىٰ تَكَلِّمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

مانند اس کلام کے اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یقینی کلام۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما





خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُهُ تَخْتُمُنَا بِهَا بِخَاتَمِ التَّاجِينَ وَالرَّاجِينَ مَا

خاتم الانبياء پر کہ مرگائے ہم پر بسبب اس صلوات کے مراہل نجات اور اہل رجاہ کی " نہیں

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

تھے محمد کریم تم میں سے کسی مرد کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَاتِمِ الرُّسُلِ صَلَوَاتُهُ تَبْعُنَا بِهَا مَعَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما خاتم الرسل پر ایسی صلوات کہ اٹھائے ہیں بطفیل اس کے ساتھ

النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ بِتَفْضُلِ تِلْكَ الرُّسُلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

انبياء و مرسلین کے ساتھ اس فضیلت کے "وہ عظیم الشان رسل کہ ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو

بَعْضٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحِيٍّ صَلَوَاتُهُ تُحْيِينَا بِهَا حَيَوَةً

بعض پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما زندہ فرمانے والے نبی پر کہ عطا فرمائے ہیں بطفیل اس کے

كَلِيمَةٍ أَبَدِيَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ

پاکیزہ ابدی زندگی پس تحقیق اللہ زندہ ہے پہلے ہر زندہ سے اور زندہ ہے بعد ہر زندہ کے اور زندہ ہے

قَوْقُ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ دُونَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ لَمْ يَرِثِ الْحَيَوَةَ مِنْ كُلِّ حَيٍّ

زائد حیات کے ساتھ ہر صاحب حیات سے اور صاحب حیات ہے کہ باطن و مخفی ہے ہر زندہ سے اور ایسا زندہ ہے کہ نہیں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُذَكَّرِ

وارث ہوا حیات کا کسی زندہ سے "اللہ نہیں ہے جو برحق مگر وہی ہی قیوم" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نصیحت گرنبی پر

صَلَوَاتُهُ تَذَكِّرُنَا بِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ

کہ یاد دہانی کرائے ہیں بطفیل اس کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی۔ وہ اللہ کی

آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَاصِرِ صَلَوَاتُهُ

آیات سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مددگار نبی پر کہ

تَنْصُرَنَا بِهَا نَصْرَةً كَامِلَةً بِأَشَائِرِ بِشَائِرِ يَوْمِئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

مدد فرمائے تو ہماری بطفیل اس کے مدد کامل ساتھ ان اشارات و نشانات کے "اس دن خوش ہوں گے مومن



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بِنَصْرِ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْصُورٍ صَلَوَاتُكَ تُوَيِّدُنَا بِهَا

ساتھ اللہ کی مدد کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما منصور نبی پر کہ تقویت بختے ہمیں بطیفیل اس کے اپنی غالب

بِنَصْرِكَ الْعَزِيزِ نَصْرًا مُّوَزَّرًا بِالْقُرْآنِ الْمُبِجِدِ وَيُنْصِرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

نصرت کے ساتھ اور قوی امداد کے ساتھ جو قوت پائے قرآن مجید کے ساتھ اور مدد فرمائے گا تیری اللہ تعالیٰ غالب امداد کیساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَوَاتُكَ تَرْحَمُنَا بِهَا بِتَرْحِيمِ تَكْرِيمِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نبی رحمت پر کہ رحم فرمائے ہم پر بطیفیل اس صلوات کے جو رحم و کرم

تَصْرِيحِ تَشْرِيحِ شَائِبِ الشُّهُودِ مِلًّا سَجَالِ زَلَالِ فُضَالِ فَيُوضِ وَ

صریح و وسیع کرنے والا ہو شہود کی بارشوں کو جو افضال و فیوض کے صاف پانی کے بھرے ڈولوں کی مانند ہو اور تیرا

رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی نَبِيِّ التَّوْبَةِ صَلَوَاتُكَ تَقْبَلُ

بے نیاز رب رحمت والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نبی توبہ پر کہ قبول فرمائے بسبب اس کے

بِهَاتِ تَوْبَتِنَا وَتَغْسِلُ بِهَا حَوْبَتَنَا وَتَقْضِي بِهَا دِيُونَنَا وَتُصَلِّحُ بِهَا أَحْوَالَنَا

ہماری توبہ اور دھوئے ہمارے گناہ اور ادا فرمائے ہمارے قرض اور درست فرمائے ہمارے احوال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ خالصے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلٰی عَلِيِّ صَلَوَاتُكَ تَعَلِّمُنَا بِهَا الْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ الْعُلُومَ الِى هِيَقَاتِ

علم نبی پر کہ سکھائے ہمیں بطیفیل اس صلوات کے علوم لدنیہ اور مدنی علوم روز

يَوْمَ مَعْلُومٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی حَرِيصٍ عَلَيْكُمْ صَلَوَاتُكَ تُحَرِّصُنَا

قیامت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اہمیت پر حرص نبی پر کہ ہمیں حرص بنا دے

بِحَرِصٍ مَا عَنْتُمْ بِالْيَوْمِ مَنِ رَعَوْفٍ رَّحِيمٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اس حرص کے ساتھ "گراں ہے اس رحیم پر جو تمہیں مشقت میں ڈالے، مومنین کے ساتھ بہت مہربان رحم فرمائے وہی ہے اللہ

شَهِيدِ صَلَوَاتُكَ تُشْهِرُنَا بِهَا بِشَهِيرِ الشَّرَافِ وَتَيْسِّرُ الِى رَجَافِ الْعَوَارِفِ

صلوات و سلام نازل فرما شہیر نبی پر کہ شہرت دے ہمیں بطیفیل اس صلوات کے ساتھ عادات شریفہ کے اور سہل فرمائے معارف کے عطیات



المَعَارِفِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَهِيدِ

کے محرک شدید کو۔ پس یقین رکھو کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ، اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شاہد نبی پر

صَلْوَةٌ تَشْهَدُ نَابِهَا بِشَهَادَةِ أَسْرَارِ الْحَقِّ الْأَزَلِ وَمُشَاهَدَةِ أَنْوَارِ

کہ مشاہدہ کرانے میں بطیفیل اس کے حق ازل کے اسرار کا اور سابق و اولین انوار کا

السَّوَابِقِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ

ساتھ اس شہادت کے ”یے شک ہم نے بھیجا ہے طرف تمہاری ایسا رسول جو تم پر گواہ ہے“

أَلَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَهِيدِ صَلْوَةٌ تَشْهَدُ بِهَا شُهُودُنَا فِي مُشَاهَدَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شہید نبی پر کہ تو گواہی دے بطیفیل اس کے ہمارے حاضر ہونے کی

عُرْفَانِ وَحُدَّةِ اللَّهِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنی وحدت کے عرفان کے مشاہدہ میں ”اور تو ہر شے پر مطلع ہے“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى مَشْهُودِ صَلْوَةٌ تَشْهَدُ نَابِهَا إِلَى شُهُودِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ بِشُهُودِ

نازل فرما مشہود نبی پر کہ شاہد بنائے ہمیں ملک حق مبین کے شہود کا ساتھ اس

شَهَادَةِ وَشَهِيدٍ وَمَشْهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَشِيرٍ صَلْوَةٌ

شہادت کے ”اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور قسم ہے مشاہدہ کئے ہوئے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما بشیر نبی پر

تُبَشِّرُنَا بِهَا بِأَشَارَةِ بَشَارَةٍ كِبَارَةٍ فَبَشْرَةٍ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

کہ بشارت دے ہمیں بطیفیل اس کے ساتھ اس اشارت و بشارت اور بشارت کے ”پس بشارت دے اسے مغفرت اور بزرگ اجر کی“

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُبَشِّرِ صَلْوَةٌ تَبَشِّرُنَا بِهَا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِلَّهِ بِبَشَارَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مبشر نبی پر کہ بشارت دے ہمیں بطیفیل اس کے بشارت دینے اور ڈراتے ہوئے ساتھ اس

نَذَارَةٍ فِي اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا أَوْ مُبَشِّرًا أَوْ نَذِيرًا لِلتَّوْمِنُوا بِاللَّهِ

بشارت و انداز کے جو محض اللہ کے لیے ہے ”بیشک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد اور مبشر و نذیر بنا کر تاکہ تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ

وَأَرْسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُنذِرِ صَلْوَةٌ تَنْذِرُنَا بِهَا مِنْ

اور اس کے رسول کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما منذر نبی پر کہ ڈرانے میں ہمیں بطیفیل اس کے



خَشِيَّتِكَ يَا نَذَارًا لِمَا تَنْذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ط

اپنی خشیت سے ساتھ اس انذار کے "تم صرف اسے ڈرتے ہو جو ذکر و قرآن کی اتباع کرے اور جن سے خوف کھانے حالت غیب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِ صَلَاةٍ تَنُورُنَا بِهَا نُورٌ مُنْتَهَى الْعَارِفِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نور مجسم پر کہ نورانی بنا ہے ہیں بظیفیل اس کے ساتھ نور کے جو منتہا ہے اہل عرفان کا

إِلَى مَرْكَزِ جَلَالِ نُورِ الْمُبِينِ اللَّهُ نُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ

طرف نور مبین کے مرکز جلال کے " اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سِرَاجِ صَلَاةٍ تَبْهَجُنَا بِهَا بِهَجَّةٍ قَمَرِ حَقَائِقِ صِدْقِ انبِيَّتِكَ

و سلام نازل فرما سراج منیر پر کہ رونق و نورانیت بخشے بظیفیل اس کے اپنے صمدانی حقائق کے ماہتاب والی رونق و نورانیت

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا

بارک ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنائے ان میں چراغ (آفتاب) اور نورانی

مُنِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِصْبَاحِ صَلَاةٍ تُصْبِحُنَا بِهَا

چاند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مصباح پر کہ روشن فرمائے ہیں بظیفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ

بِقِصَاحَةٍ صَرَاحَةٍ صَبَاحَةٍ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

اس واضح اور صریح نورانیت و صباحت کے " کیفیت اس کے نور کی مانند کیفیت اس چراغ کے ہے جو طاق میں ہو

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هُدَى صَلَاةٍ تَهْدِينَا

اور وہ چراغ شیشہ میں ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مجسم ہدایت پر کہ ہدایت دے ہیں مخلوق میں سے

بِهِمَا مِنَ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا

بظیفیل اس کے حق تعالیٰ کی طرف " اور کہا انہوں نے سب ثناء اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی اور ہم ذاتی طور پر

كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَهْدِيِّ صَلَاةٍ

ہدایت پانے کے لائق نہیں تھے اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مہدی نبی پر کہ ہدایت دے

تَهْدِينَا بِهَا طَرِيقَ مَجْبَتِكَ وَقُرْبَ وَصْلِ أَصْلِكَ بِصِرَاطِ اهْدَانَا

ہمیں بظیفیل اس کے اپنی محبت اور قرب و وصل اصل کے راستہ کی ساتھ اس راہ کے



الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنِيرِ صَلَاةٍ تُتَوَرَّنَا بِهَا

جلا ہمیں راہ راست پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما منیر نبی پر کہ منور فرمائے ہیں بطفیل

بِلَوَامِعِ بَوَارِقِ شَوَارِقِ نُورٍ ذَاتِكَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي

اس کے اپنے نور ذات کے اسرافات اور تجلیات اور انوار کے ساتھ " اور بعض لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں

اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ تعالیٰ میں بغیر علم اور رشد و ہدایت کے اور روشن کتاب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما داعی نبی پر

دَاعِ صَلَاةٍ تَدْعُونَا بِهَا إِلَى تَوْحِيدٍ بَقَاءِ شَهْوَدِ وَصَلِّكَ وَذُرْوَةِ لِقَاءِ

کہ بلائے ہمیں بطفیل اس کے طرف اپنی توحید و بقا اور شہود و وصل کے اور اپنے وجود اصلی کی لقاء والے

وَجُودِ أَصْلِكَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا

بلندتر مقام کے " اور جو عبادت کرے اللہ کے ساتھ دوسرے الٰہ کی نہیں دلیل اس کے لیے اس پر تو حساب اس کا

حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَدْعُوِّ صَلَاةٍ تَدْعُونَا بِهَا

صرف اس کے رب تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما بلائے ہوئے نبی پر کہ بلائے ہمیں بطفیل اس صلوٰۃ

بِدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ الْحَقُّ حَقٌّ وَقِيلَ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ

کے واسطے دعوت خلق الی الحق کے اور وہی حق حقیقی ہے " اور فرما دیجئے پکارو اللہ کو یا رحمن کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُجِيبِ صَلَاةٍ تُجِيبُنَا بِهَا دَعَاءَ نَاجِحِينَ نُنَاجِيكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مجیب نبی پر کہ بطفیل اس صلوٰۃ کے قبول فرمائے ہماری دعا میں جبکہ ہم تجھ سے

رَاغِبًا وَافِيًا بِوَفَاءِ عَهْدِكَ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مناجات کریں از روئے رغبت کے اور رفاہ عہد کرتے ہوئے " میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعا کو جبکہ وہ مجھ سے سوال کرے۔

وَسَلِّمْ عَلَى مُجَابِبِ صَلَاةٍ تُجِيبُنَا بِهَا سُؤَالَ النَّاجِحِينَ نَسْأَلُكَ رَاجِعًا خَائِفًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مقبول الدعاء نبی پر کہ بطفیل اس کے قبول کرے ہمارے سوال کو جبکہ ہم سوال کریں امید رکھتے ہوئے

كَافِيًا بِاجَابَةِ دَعْوَةِ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خوف کھاتے گفتا کرتے ساتھ قبولیت دعا کے " مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ  
طِينٍ عَلِيمٍ الَّذِي عَلَّمَ  
الْقُرْآنَ بِالْقَلَمِ وَمَنْ يَعْزُبْ  
عَنْ قَوْلِ الْغَالِي

حَفِي صَلَوةً تَحْفِي بِهَا وَالطُّفْنَا بِحَفِي حَفِي حَفِي لُطْفِكَ الْخَفِي الْخَفِي الْخَفِي

شیخ نبی پر کہ شفقت فرمائے بظہیر اس کے اور لطف و کرم فرما ہم پر ساتھ اپنے خفی ترین لطف خفی کے

الْخَفِي وَيَا كَرَامٍ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور ساتھ اس اکرام و اعزاز کے "ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے اپنے رب بیشک وہ ہے مجھ پر شیخ سے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَيَّ عَفْوِ صَلَوةٍ تَعْفُو بِهَا عَنَّا خَطَايَا نَا الْجَدِيَّةِ وَالْحَقِيَّةِ بِأَنَّكَ

سلام نازل فرما درگزر فرمانے والے نبی پر کہ مٹائے بسبب اس کے ہم سے جل و خفی خطائیں کیونکہ تو

عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ قَاعُفٌ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

درگزر فرمانے والا ہے اور عفو کو پسند فرماتا ہے پس ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى وَرَبِّي صَلَوةً تُؤَلِّينَا بِهَا بِلَايَةَ الْحَقِّ وَبِرُودِ أَدَةِ الْحَقِيَّةِ الْحَقِي

نازل فرما ولی نبی پر کہ ہم سے دوستی فرمائے بظہیر اس کے حقیقی دوستی اور خفی حقیقت کی محبت

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

نہیں اس کے لیے اللہ کے علاوہ ولی اور شفیع " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما برحق نبی پر

حَقِّ صَلَوةً تُحَقِّقُنَا بِهَا بِحَقِّ الْحَقِّ وَحَقِيَّةِ الْمَحْمَدِيِّ وَهُوَ الْحَقُّ

کہ مستحق فرمائے ہمیں بظہیر اس کے خفائی حق اور حقیقت محمدیہ کے ساتھ اور وہی حق ہے۔ اور

وَيَسْتَسْتَبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِيَّيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہم سے معلوم کرتے ہیں آیا وہ حق ہے؟ فرما دو۔ ہاں اور قسم ہے رب تعالیٰ کی بیشک وہ حق ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى قَوِيِّ صَلَوةٍ تُقَوِّي بِهَا قُوَّتَنَا الرُّوحِيَّةَ بِتَقْوِيَّةِ الْإِيمَانِ وَالْإِيْقَانِ

نازل فرما صاحب قوت نبی پر کہ عطا کرے ہمیں بظہیر اس کے روحی قوت ساتھ ایمانی و ایقانی تقویت کے

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ آمِينَ صَلَوةً تُؤَمِّنُ بِهَا

بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی و عزیز ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما امین نبی پر کہ امین بنائے بظہیر اس صلوات کے

بِأَمِينِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمَا قَالَ

اپنے امین شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کو بسبب اس کے جو فرمایا اس



الْأَمِينُ الْكَامِلُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللَّهُمَّ

امین کامل نے جیسے کہ کلام مجید میں ہے۔ بیشک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔" اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَا مَوْءُونَ صَلَوةً تَفْرِجُ بِهَا عَنَّا ضَيْقَ الْكُونِينِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما مامون نبی پر کہ دور فرمائے ہم سے بظفیل اس کے کونین کی تنگی  
وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا نَطِيقُ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَا مَوْءُونَ ط  
اور نہ ڈال ہم پر دونوں جہان میں جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ بیشک تیرے رب کے عذاب اطمینان نہیں ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَرِيمٍ صَلَوةً تُكْرِمُنَا بِهَا بِنُزْلِكَ مَنْزِلًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما کریم نبی پر کہ مکرم بنائے ہمیں بظفیل اس کے ساتھ اپنی مہمانی کے عزت اور  
لِلْكَرَامَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِتَنْزِيلِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَسِرَاقٍ كَرِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

مغفرت والی منزل میں ساتھ نازل فرمائے" واسطے ان کے مغفرت ہے اور عزت والا رزق۔ اے اللہ صلوات  
وَسَلِّمْ عَلَى مُكْرِمٍ صَلَوةً تُكْرِمُنَا بِهَا بِابْتِلَاءِ كَرَامَةِ بِالتَّكْرِيمِ وَالتَّعْظِيمِ

اور سلام نازل فرما صاحب اکرام نبی پر کہ اکرام بخشتے ہمیں بظفیل اس کے تکریم و تعظیم والی کرامت اور  
وَالْتَبَجِيلِ وَالتَّجْلِيلِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ

تکظیم و جلال والی نعمت کے ذریعے" لیکن انسان جب آزمائے اسے اس کا رب پس عزت اور نعمت دے  
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَكِينٍ صَلَوةً تُمَكِّنُنَا

تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صاحب مکات نبی پر کہ ٹھکانا بخشتے ہمیں  
بِهَامَدٍ أَرْجُ فَنَاءَ الْأَطْلَقِ إِلَى مَعَارِجِ بَقَاءِ الْمَطْلُوقِ بِأَنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ

فناء مطلق کے معارج سے ترقی دے کر بقا مطلق کے بلند مقامات تک بسبب اس کے" بیشک وہ قول ہے بزرگ رسول کا  
كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَتِينٍ

جو صاحب قوت ہے مالک عرش کے پاس جاگزیں ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صاحب مکات نبی پر  
صَلَوةً تُثَبِّتُنَا بِهَا بِحَبْلِ الْمَتِينِ بِحُرْمَتِ وَأُمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي

کر ثابت رکھے ہمیں بظفیل اس کے ساتھ مضبوطی (قرآن) کے حرمت اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں بیشک میری خفیہ



مَتِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُبِينٍ صَلَوةٌ تُبَيِّنُ لَنَا بِهَا حَقًّا مَنْ

تدبیر پا ئیدار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی مبین پر کہ واضح کرے بظیفیل اس کے ہم پر حق کو اپنی

حُجُبِ غُيُوبٍ وَحَدِيثِكَ وَالْعُرَفَاءُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ الْمُبِينُ

وحدت کے محبات غیوب سے اور عرفاء جانتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُؤَمِّلٍ صَلَوةٌ تُؤَمِّلُ بِهَا أَمَلَنَا فِي دَرَاكِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اُمید دلانے والے نبی پر کہ اُمید والا بنائے بظیفیل اس کے ہماری آرزوں کو حقائق اشیاء

حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ وَهُوَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا اللَّهُمَّ

کے پانے میں جیسے کہ وہ ہیں۔ اور وہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں از روئے ثواب کے اور بہتر ہے از روئے آرزو مندی کے۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى وَصُولٍ صَلَوةٌ تُوَصِّلُنَا بِهَا بِحُصُولِ قَبُولِ أُصُولِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما واصل فرمانے والے نبی پر کہ واصل فرمائے ہمیں بظیفیل اس صلوٰۃ کے اصول و وصول تک بسبب حصول قبول

وَصُولٍ بِوَصْلِ أَصْلِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے بسبب وصل اصل کے جس کے وصل کا اللہ نے امر فرمایا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى ذِي قُوَّةٍ صَلَوةٌ تُقَوِّي بِهَا هِمَمَنَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ فِي اللَّهِ إِنَّ

صاحب قوت نبی پر کہ قوی بنائے بظیفیل اس کے ہماری ہمتوں کو اللہ کی راہ میں استقامت پر۔ بیشک اللہ ہی

اللَّهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ذِي حُرْمَةٍ

ہمت روزی رسال۔ صاحب قوت۔ صاحب استقام ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محترم نبی پر کہ محترم

صَلَوةٌ تُحَرِّمُنَا بِهَا بِحُرْمَاتِ قُرْبِكَ عَنْ قُرْبَاتِ بَعْدِكَ فِي جِهَادِ

بنائے ہمیں بظیفیل اس کے قرب کی عزتوں کے ساتھ دور کرتے ہوئے مقامات بعد سے جہاد نفس میں

النَّفْسِ وَالْحُرْمَاتِ قِصَاصُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ذِي مَكَانَةٍ

اور حرمت والی اشیاء قابل قصاص ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب مکانت نبی پر

صَلَوةٌ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتَنَا وَتُبَلِّغُ بِهَا حُجَّتَنَا وَتُقَدِّجُ بِهَا كُرْبَتَنَا وَتُقَرِّجُ

کہ بلند فرمائے بظیفیل اس کے ہمارے درجہ کو اور روشن کرے ہماری دلیل کو اور دور کرے رنج و کرب کو اور کشائش بخشتے ہیں عزت





بِهَاعْرِبْتَنَا إِلَى يَوْمٍ يُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
سے اس دن تک جب تلواریں گامناوی قریبی مکان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

ذِي عِزِّ صَلَوَةٍ تَعْرُتَابَهَا بِعِزِّ جَلَالِكَ وَبِجَلَالِ عِزَّتِكَ وَجَمَالِ  
معزز نبی پر کہ عزت بختے ہیں بطفیل اس کے اپنے عز جلال و جلال عزت و جمال عظمت

عُظْمَتِكَ وَعُظْمَةِ جَمَالِكَ وَكَمَالِ قُدْرَتِكَ وَقُدْرَتِ كَمَالِكَ إِنَّ  
اور عظمت جمال و کمال قدرت اور قدرت کمال کے ساتھ " بے شک تمام عزت

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ذِي فَضْلِ صَلَوَةٍ  
اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب فضل نبی پر کہ فضیلت بختے

تَفَضَّلْنَا بِهَا بِفَضِيلَةِ إِيَّاهُمْ فَضْلٍ عَظِيمَتِكَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ  
ہیں بطفیل اس کے اپنی عظمت کا ملکہ کے الہام کی فضیلت کے ساتھ " اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُطَاعٍ صَلَوَةٍ تُطِيعُنَا بِهَا شَرِيعَةَ  
ہے۔ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مطاع خلائق پر کہ اطاعت گزار بنائے ہیں بطفیل اس کے شریعت

الْمُحَمَّدِيَّةِ وَطَرِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةِ وَحَقِيقَةَ السَّرْمَدِيَّةِ وَمَعْرِفَةَ  
محمدیہ طریقت احمدیہ۔ حقیقت سمردیہ اور معرفت النبیہ کا بسبب اس

الْإِلَهِيَّةِ بِاطَاعَةِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
اطاعت کے " اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُطِيعٍ صَلَوَةٍ تُطِيعُنَا بِهَا الْقَالَ وَالْحَالَ إِلَى ذَلِكَ الْقَالَ وَالْحَالَ  
اپنے مطیع فرمان پر کہ اطاعت گزار بنائے ہیں قال و حال میں مطابق اس قال و حال کے " جو اطاعت کرے

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَدَمِ  
رسول اللہ کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سچے پیشوا

صِدْقِ صَلَوَةٍ تُقَدِّمُنَا بِهَا إِلَى صِدْقِ الْبَصْدِ وَقَيْنِ الْمُقَرَّبِينَ  
پر کہ آگے بڑھائے ہیں بطفیل اس کے تصدیق کئے ہوئے مقررین محبوبین کے صدق تک جو



الْمَحْبُوبِينَ الْمُبَشِّرِينَ وَبَشِيرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ

یہ بشارت دئے گئے ہیں " اور بشارت دو اہل ایمان کو کہ ان کے لیے ہے سچی پیش قدمی

عِنْدَكَ رَبَّهُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي رَحْمَةِ صَلَوةٍ تَرْحِمُنَا بِهَا

رب تعالیٰ کے ہاں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سراپا رحمت نبی پر کہ رحمت فرمائے ہم پر بظیفیل اس

مِنْ أَمْوَاجٍ بِحَرْجُودٍ إِحْسَانِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَلَا

کے اپنے وسیع ترین احسان وجود کے سمندر کی امواج سے جس کا نہ کنارہ ہے اور نہ انتہاء ہے

غَايَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

غور سے سنو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي بُشْرَى صَلَوةٍ تُبَشِّرُنَا بِهَا بِغَايَةِ بَدَايَةِ نَهَايَةِ آيَةِ لَمْ

و سلام نازل فرما سراپا بشارت نبی پر کہ بشارت دے ہمیں بظیفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ غایت بدایت اور نہایت آیت کے انہی کے

الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

یہ ہے بشارت حیات دنیا اور آخرت میں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

غَوْثِ صَلَوةٍ تُغِيثُنَا بِهَا يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعْتَنَّا أَنْ

فریاد رس نبی پر کہ فریاد رس ہی فرمائے ہماری بظیفیل اس صلوٰۃ کے اے فریاد رس فریادوں کے ہماری فریاد کو پہنچ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

نہیں معبود برحق مگر تو۔ تو پاک ہے۔ بیشک میں ظلم و تعدی والوں سے تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي غَيْثِ صَلَوةٍ تَسْقِينَا بِهَا مِنْ شَرَابِ مُشَاهَدَاتِ مَحَبَّتِكَ

و سلام نازل فرما مجسم باران رحمت پر کہ پلائے ہمیں بظیفیل اس کے اپنے مشاہدات محبت کی شراب کے ساتھ اس

بِسْقَايَةِ نَهَايَةِ وَسَقْتَهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي

سقایت کے اور پلایا انہیں ان کے رب نے پاکیزہ مشروب " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

غِيَاثِ صَلَوةٍ تُغِيثُنَا بِهَا غِيَاثًا مُغِيثًا يَا مُغِيثُ اَعْتَنَّا بِرَحْمَتِكَ الَّتِي

فرما فریاد رس پر کہ فریاد رس ہی فرمائے ہماری بظیفیل اس کے ساتھ سیراب کرنیوالی بارش کے اے مغیث ہماری امداد فرما ساتھ



وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نِعْمَتِ اللَّهِ صَلَوةً

رحمت کے جس نے ہر شئی کا احاطہ کر رکھا ہے، اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنی مجسم نعمت پر کہ انعام فرمائے ہم پر  
تَنْعِمَنَا بِهَا مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

بطفیل اس کے ساتھ ان حضرات کے جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کے ساتھ جن پر غضب کیا گیا اور نہ مگرہوں کے

الضَّالِّينَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ هِدَايَةَ اللَّهِ صَلَوةً تَهْدِي

ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے مجسم ہدیہ پر کہ بطفیل اس کے ہمیں ہدیہ

لَنَا بِهَا هِدَايَةَ الْعُرْفَانَ بِهِدَايَةِ الْهَدَايَةِ وَارِنِي مُرْسَلَةً إِلَيْهِمْ

وے ہدایت عرفان کا بسبب اس ہدیہ ہدایت کے۔ بے شک میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کے

بِهِدَايَةِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ عُرْوَةَ الْوُثْقَى صَلَوةً تَثْبِتُنَا

عظیم ہدیہ“ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما عروہ وثقی“ پر کہ ثابت قدم رکھے ہمیں بطفیل اس کے

بِهَا أَبَدًا أَبَدًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ مضبوط سہارے کے جس میں انقطاع نہیں ہے اور اللہ سننے جانتے والا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صِرَاطِ اللَّهِ صَلَوةً تُسَلِّكُنَا بِهَا مَسْلَكَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے صراط اور سبیل ذات پر کہ چلائے بطفیل اس کے ہمیں اپنے عباد

صِرَاطِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

صالحین کے راہ سلوک پر ” جن پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ

يَحْزَنُونَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ صَلَوةً

ہوں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سراپا مستقیم پر کہ بطفیل اس کے ہمیں

تُسْتَقِيمُنَا بِهَا هِدَايَةَ كَامِلَةً بِدَعَاءِ إِهْدَانِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

استقامت بخشنے ہدایت کاملہ پر بطفیل اس دعا کے ” چلا ہمیں راہ راست پر “

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ ذَكَرَ اللَّهُ صَلَوةً تَطْمِينُنِي بِهَا قَلْبِي كَمَا قَالَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ذکر اللہ پر کہ مطمئن ہوں ساتھ اس صلوات کے ہمارے قلوب جیسے کہ فرمایا



اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آگاہ رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ

الْقُلُوبُ ط اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيْفِ اللَّهِ صَلَاةٌ تَقْطَعُ بِهَا

ہی تسلی پاتے ہیں قلوب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیف اللہ پر کہ قطع فرماوے بظہیر اس صلوٰۃ کے بارے

هُوَ اجْس قُلُوبِنَا بِالسُّيُوفِ الصَّارِمَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

دلوں کے بڑے خیالات ساتھ کاٹنے والی تلواروں کے حکم دینے والے ہیں نیکی کا اور

وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرَاتِ الشَّامِلِ نَصْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ ط

منع کرنے والے ہیں برائیوں سے۔ اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے جو سب کو شامل و محیط ہے

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى حِزْبِ اللَّهِ صَلَاةٌ تَغْلِبُنَا بِهَا بِذِكْرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اللہ کی جماعت پر ایسی صلوٰۃ کہ غالب آئے ہم پر ساتھ اس کے جذبہ ذکر

وَعَلْبَةِ الْفِكْرِ الْإِرَانِ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

اور غالبہ فکر آگاہ رہو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ صَلَاةٌ تَثْقِبُ بِهَا طُرُقَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِجُودِ

روشن ستارے پر ایسی صلوٰۃ کہ روشن کرے بسبب اس کے ہمارے راستے راہ خدا میں ستاروں کے

الْكَوَاكِبِ وَبِثَقُوبِ النَّجْمِ الثَّاقِبِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُصْطَفَى

نظور اور روشن ستارے کی روشنی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مصطفیٰ کریم پر

صَلَاةٌ تَصْطَفِينَا بِهَا فِي الْمَقَامَاتِ الْأَصْطَفَاءِ وَالْكَرَامَاتِ

ایسی صلوٰۃ کہ چن لے ہمیں بظہیر اس کے پسندیدہ مقامات اور مقبول بزرگیوں اور

الْإِرْتِضَائِيَّةِ وَالْإِرْتِقَائِيَّةِ وَلَقَدْ اصْطَفَيْتَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

ترقیوں میں۔ البتہ تحقیق چن لیا ہے ہم نے انہیں دنیا میں اور بے شک وہ

الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ط اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُجْتَبَى صَلَاةٌ

آخرت میں البتہ صالح لوگوں سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج مجتبیٰ پر ایسی صلوٰۃ کہ

تَجْتَبِينَا بِهَا يَا جُتَبَاءَ الْعُطُوفَةِ الرَّؤُوفَةِ فَاجْتَبِهِ رَبُّهُ فَعَلَهُ مِنْ

چن لے ہیں اس کے طفیل ساتھ اس لطف و رافت والے چناؤ کے "پس چن لیا تمہیں ان کے رب سے پس کر دیا نہیں

الضَّالِّحِينَ ۙ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُتَّقِي صَلَوةٍ تَنْتَقِينَا بِهَا

صالحین میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما پاکیزہ ذات پر ایسی صلوٰۃ کہ پاکیزہ فرمائے ہیں بطفیل اس کے

بِكْرَامِ ذِي الْكُرَامِ لَكَ وَبِجَلَالِ ذِي الْجَلَالِ لَكَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

اپنے اہل کرامت کی بزرگی اور جلالت والوں کی جلالت کے ساتھ "با برکت ہے تیرے رب کا نام

ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ اُمَّيَّ صَلَوةٍ تُعَلِّمُنَا

جو جلال و اکرام کا مالک ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما امی نبی پر ایسی صلوٰۃ کہ سکھائے ہیں

بِهَا حَقَائِقَ الْاِمَانِي بِفَصَاحَةٍ بَرَاعَةٍ وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ

بطفیل اس کے تمناؤں کے حقائق ساتھ فصاحت اور برتری کے "اور ان میں سے بعض امی ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو

الْكِتَابِ اِلَّا اَمَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُخْتَارِ صَلَوةٍ تَخْتَارُ

ماسوائے کھوکھلی آرزوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنے مختار پر ایسی صلوٰۃ کہ اختیار فرمائے

لَنَا بِهَا بِجَبِيلٍ حَمِيدٍ اِخْتِيَارِكَ فِي جَمِيْعٍ تَوَجَّهْتَنَا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا

ہمارے لیے بسبب اس کے اپنے خوبصورت قابل ستائش اختیار کو ہمارے جملہ توجہات میں "اور رب تیرا پیدا کرتا ہے

يَنْشَأُ وَيَخْتَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ اَجْرِي صَلَوةٍ تُجِيرُنَا بِهَا اَجْرًا

جو چاہتا ہے اور اختیار فرماتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مستحق اجر پر ایسی صلوٰۃ کہ پہنچائے بطفیل اس

عَظِيْمًا وَاللَّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ جَبَّارِ صَلَوةٍ

کے ہیں اجر عظیم اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما جبار پر ایسی صلوٰۃ

تُجِيرُنَا بِهَا عَلَيَّ الْحَسَنَةِ وَتُجِيرُنَا بِهَا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنْ

کہ مجبور کرے تو بسبب اس کے ہیں نیکی پر اور دور کرے بسبب اس کے ہم سے برائیاں۔ اور نکلے ہیں سرکشی سے

التَّمَرُّدِ الْبَاعِثِ لِقَوْلٍ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

جو باعث ہے ان کی سرکشی سے "اور نہیں ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبِي الْقَاسِمِ صَلَوَاتُ تَقْسِيمٍ بِهَا عَلَيْنَا وَعَلَى ذُرِّيَّتِنَا كَأَسَاكِينِ الْفَرْدُوسِ

ابو القاسم پر کہ جس صلوات کے ذریعے تقسیم فرمائے ہم پر اور ہماری اولاد پر جنت الفردوس کے جام

وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور پلائے جاتے ہیں اس میں جام جن میں زنجبیل کی آمیزش ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

أَبِي الطَّاهِرِ صَلَوَاتُ تَطْهَرُنَا بِهَا وَذُرِّيَّتِنَا بِطُهورِ طُهورِ سُرُورٍ وَإِنَّا بِرِيْدِ

ابو الطاہر پر کہ جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے ہمیں اور ہماری اولاد کو ساتھ طہور اور طہور اس سرور کے جزین بنست

اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ

کہ ارادہ رکھتا ہے اللہ کہ لے جائے تم سے پلیدی اے اہل بیت اور پاک کرے جیسے کتنی بے طہارت کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَبِي الطَّيِّبِ صَلَوَاتُ تَطْيِّبُنَا بِهَا بِتَطْيِيبِ الطَّيِّبِ

صلوات و سلام نازل فرما ابو الطیب پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں پاک کرے اس پاکیزہ ترین طہارت کے

الطَّيِّبِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ " اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَبِي إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ تَثْبِتُنَا بِهَا مَعَ أَوْلَادِنَا عَلَى بَلَدِ خَيْلِ

و سلام نازل فرما ابو ابراہیم پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں بمع اولاد کے ثابت قدم رکھے ملت خلیل اللہ پر

اللَّهُ وَبِسُودَةِ حَبِيبِ اللَّهِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ

اور حبیب اللہ کی محبت پر لے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُشَفِّعِ صَلَوَاتُ تَقْبَلُ بِهَا فِينَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ

صلوات و سلام نازل فرما مقبول الشفاعت پر جس صلوات کے طفیل قبول کی جائے ان کی شفاعت ہمارے حق میں جس دن نہ نفع

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

وے گا شفاعت کسی کی مگر جس کو رحمن اذن دے اور اس کا قول پسند کرے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ شَفِيعِ صَلَوَاتُ تَشْفَعُ لَنَا بِهَا بِشَفَاعَةِ حَسَنَةَ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ

و سلام نازل فرما ہمارے شفیع پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں حسین شفاعت عطا کرے کہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے

مِنْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَالِحِ صَلَوةٍ تُصَلِّحُنَا بِهَا صَلاَحَ

صلی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اس سراپا صلاح و تقویٰ پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں محبت شریفی کے

الْمَحَبَّةِ الشَّرِيفَةِ وَفَلَاحِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ بِرِيَاحِ رَوْاحِ فَصَاحِ

اہل بنائے اور بلند تر درجہ والی فلاح بطفیل ان روح پرور کشادگی بخش ہواؤں کے۔

وَالصُّلْحِ خَيْرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُصَلِّحِ صَلَوةٍ تُصَلِّحُ بِهَا

اور صلح سراسر خیر ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مصلح پر جس صلوات کے طفیل اصلاح فرمائے

أَحْوَالَنَا بِهَدَايَةِ الْوَلَايَةِ وَبِرَشَادَةِ الْبَغَايَةِ مِنَ الْمُصَلِّحِ اللَّهُمَّ

ہمارے احوال کی ساتھ ہدایت ولایت کے اور ساتھ طلب و آرزو کی درستگی کے اس مصلح سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُهَيِّمِ صَلَوةٍ تَحْفَظُنَا بِهَا بِوُجُودِ شَهُودِكَ الْمَوْهِنِ

صلوات و سلام نازل فرما نگہبان پر کہ محفوظ فرمائے ہمیں بطفیل اس کے اپنے وجود و شہود کے ساتھ امن دینے والے

الْمُهَيِّمِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَادِقِ

نگہبان۔ عزیز۔ جبار۔ صاحب کبریا، اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صادق پر

صَلَوةٍ تُصَدِّقُنَا بِهَا بِتُصَدِّقِ الْقَالَ وَتُحَقِّقُ الْحَالَ وَفَنُ أَصْدَقِ

کہ سچا کرے ہمیں بطفیل اس کے ساتھ تصدیق اقوال کے اور تحقیق حال کے اور کون ہے زیادہ سچا

مِنَ اللَّهِ قِيلًا ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُصَدِّقِ صَلَوةٍ تُصَدِّقُ

اللہ تعالیٰ سے ازرے قول کے اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما تصدیق کرنے والے پر کہ اس صلوات سے

بِهَارِجَاءَ بَقَائِنَا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهُمَّ صَلِّ

سچا کر دے ہماری بقاء کی اُمید کو اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے ازرے بات کے اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَدِّقِ صَلَوةٍ تُصَدِّقُنَا بِهَا أَصْدَقَ الْقَوْلِ فِي الذِّكْرِ

و سلام نازل فرما مجسمہ صدق پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں سب سے زیادہ صدق عطا کرے قول میں

وَأَنْجَحَ الْحَوْلَ فِي الْفِكْرِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ سَرِيكَ صَدَقًا وَعَدْلًا ط

اور کامیاب ترین قوت فکر کی اور کامل ہوئے کلمات تیرے رب کے ازرے صدق و عدل کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوةً تَهْدِينَا بِهَا إِلَى

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سید المرسلین پر جس صلوات کے طفیل ہمیں ہدایت عطا کرے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مَحَبَّتِكَ وَعِرْفَانِكَ كَمَا قُلْتَ لِسَيِّدِنَا

صراطِ مستقیم کی طرف جو کہ تیری محبت اور عرفان کی راہ راست ہے جیسے کہ تو نے فرمایا ہمارے سردار

رَسُولِكَ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ

اور اپنے رسول کو بے شک آپ البتہ برحق مرسلین میں سے ہو راہ راست پر ہو۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ الْمُتَّقِينَ صَلَوةً تُعْطِينَا بِهَا إِمَامًا كَامِلًا

صلوات و سلام نازل فرما امام المتقین پر جس صلوات کے طفیل ہمیں کامل و اکمل امام عطا

مُكْمَلًا وَاتَّقِنَا بِهَا عَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَفِتْنِ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا رَبَّنَا

کرے اور بچائے ہمیں ہمارے نفوس کے شرور سے اور اموال و اولاد کے فتنوں سے۔ لے رب ہمارے

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

بخش ہمیں ہماری بیویوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقین کا امام بنا دے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ صَلَوةً تُشَدِّدُ بِهَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نورانی اعضاء والوں کے قائد ہر جس صلوات کے طفیل مضبوطی سے باندھ

زَمَانَنَا عَلَى صِرَاطِ الْإِسْتِقَامَةِ بِقَائِدِ الْغُرِّ الرَّضِيِّينَ صِرَاطِ الَّذِينَ

دے ہماری لگاموں کو راہ استقامت پر نورانی چہروں والے پرندگان کے مقامات سے جو راہ ہے ان کی

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَلِيلِ الرَّحْمَنِ صَلَوةً

جن پر تو نے انعام فرمایا لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما خلیل رحمن پر جس صلوات کے طفیل ہمیں

تُوَدِّدُنَا بِهَا بُوْدَادٍ رَشَادٍ إِزْدِيَادٍ خُلُوصٍ خُصُوصٍ خَصَائِصٍ

عطا فرمادے مودت اور راست روی - خلوص وافر اور خصائص رحمن والی خصوصیت

الرَّحْمَنِ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَرِّ

(کا عس) اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محو کار پر





صَلَاةٌ تُبَرِّرُ بِهَا أَقْوَالَنَا وَأَعْمَالَنَا وَأَحْوَالَنَا كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ

کہ نیک بنادے بطویل اس صلوٰۃ کے ہمارے اقوال اور اعمال و احوال یقیناً بیشک ابراہار کا نامہ اعمال

لَفِي عِلِّيِّينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُبَرِّرِ صَلَاةٍ تُبَرِّرُ الْإِبْرَارَ إِنَّ

البتہ علیین میں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما برواحسان والے پر جو ابراہار کو برواحسان والا

الْإِبْرَارِ لَفِي تَعِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَجِيهِ صَلَاةٍ تُوَجِّهُ

کردے بیشک ابراہار البتہ تعیم میں ہیں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما وجاہت والے پر جس صلوٰۃ کے طفیل

لَنَا بِهَا بِجَمَالٍ وَجْهَكَ وَجَلَالَ عَظَمَتِكَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ

آبرو مند کرے ہمیں جمال ذات اور جلال عظمت کے ساتھ " وجاہت والے بن دنیا و آخرت میں

الْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَصِيحِ صَلَاةٍ

اور مقربین سے ہیں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما خالص نصیحت گر پر

تُنْصِحُنَا بِهَا بِنَاصِحِ تَوْحِيدِكَ وَأَمْحَاضِ تَمْجِيدِكَ وَلَا

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں خالص کردے اپنی خالص توحید اور کامل بزرگی کے لیے اور نہیں

شَرِيكَ لَكَ فِي الْهَيْبَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْصَحُ لَكُمْ اللَّهُمَّ

شریک تیرے لیے الوہیت میں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے " اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَاصِحِ صَلَاةٍ تُنْصِحُنَا بِهَا بِاخْلَاصِ التَّفَرُّدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ناصح پر جس صلوٰۃ کے طفیل خالص کردے ہمیں ساتھ اخلاص تفرید کے

بَطُولِ تَعَبُّدِكَ لَمْ تَعْلَمْ مَا هَيْبَتِكَ اللَّهُ قَالَ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝ ط

اپنی عبادت کی قوت سے۔ بے علم ہیں ہم تیری حقیقت سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں تمہارے لیے قابل اعتماد ناصح ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَكَيْلِ صَلَاةٍ تُوَكِّلُنَا بِهَا الْخَيْرَاتِ بِوَكَاةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کار ساز پر کہ جس صلوٰۃ کے طفیل تو خیرات میں ہماری کار سازی فرمائے ساتھ وکالت

الْحَقِّ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُتَوَكِّلِ

حق کے " اور کہا انہوں نے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اچھا کار ساز ہے وہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما متوکل پر



صَلَاةٌ تَتَوَكَّلْنَا بِهَا عَلَى ذَاتِكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں متوکل بناوے اپنی ذات پر ہمارے تمام امور میں " اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ

فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَفِيلِ صَلَاةٍ تُكْفَلُ بِهَا الْقَضَاءُ حَوَائِجِنَا

اسے کافی ہے۔ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کفیل پر کہ جس کے طفیل کفالت فرمائے ہماری تمام

كَفِيلًا مُكْفَلًا مُتَكْفِلًا مُكْبَلًا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ اللَّهُمَّ

حاجات کے پورا کرنے میں کامل کفیل، مکمل متکفل، جیثیت میں " اور تحقیق بنا لیب ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل " اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَفِيعِ صَلَاةٍ تَشْفِقُنَا بِهَا بِشَفَقَةِ حَمْدِ الْحَامِدِينَ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شفیع پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہم پر شفقت فرمائے ستائش کرنے والوں کی حمد والی

وَبِوَحْدَةِ تَوْحِيدِ الْمُوَحِّدِينَ إِنَّ سَابِقَ وَإِسْعَ الْمَغْفِرَةِ ۗ اللَّهُمَّ

شفقت اور موحدین کی توحید والی وحدت کے ساتھ " بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والی ہے " اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُقِيمِ السُّنَّةِ صَلَاةٍ تُقِيمُنَا بِهَا عَلَى السُّنَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سنت قائم کرنے والے پر ایسی صلوٰۃ کہ اس کے طفیل قائم فرمائے ہمیں سنت

وَالْجَمَاعَةِ بِأَقَامَةِ حُدُودِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى الْغَسَقِ

اور جماعت پر ساتھ قائم کرنے ان حدود کے " قائم کرو نماز کو سورج ڈھلنے کے وقت سے رات کی تاریکی

اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

پھانے تک اور نماز فجر کو۔ بے شک نماز فجر میں حاضری دی جاتی ہے ملائکہ کیل و نماز کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُقَدَّسِ صَلَاةٍ تُقَدِّسُنَا بِهَا قَلْبَ الْجَزُوعِ بِالتَّقْوَى وَ

و سلام نازل فرما پاکیزہ نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل پاک فرمائے بیصبر دلوں کو ساتھ تقویٰ کے اور حریم نفس

نَفْسِ الْهَلُوعِ عَنِ الْهَوَىٰ بِتَقْدِيسِ طُوبَىٰ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

کو خواہشات نفس سے مانند مقدس و ادنیٰ طوبیٰ کی تقدیس کے " وہ اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر

إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ

وہی۔ جو شہنشاہ۔ بہت پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما (نبوی) روح



الْقُدْسِ صَلَوةً تَقْدِسُ بِهَا وَجُوهَنَا كُرُوحَ الْقُدْسِ الْمُقَدَّسِ

مقدس پر کہ پاک فرمائے اس صلوات کے طفیل ہمارے چہروں کو مانند روح قدس مقدس کے ساتھ

بِالتَّفَرُّدِ وَالتَّجَرُّدِ بِرُؤَايِهِ لَوَائِحِ سَوَائِحِ وَأَيْدِنَا كَبُرُوحِ الْقُدْسِ ط

یکٹانی اور یکسوئی کے ساتھ ان پاکیزہ ہواؤں۔ تجلیوں اور کیفیات ظاہرہ کے " اور تقویت دی ہم نے انہیں ساتھ روح القدس

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ الْحَقِّ صَلَوةً تُحَقِّقُ بِهَا وَثُوقَنَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما روح حق پر جس صلوات کے طفیل کثابت فرمائے ہمارا اعتماد حقیقت

بِحَقِيْقَةِ حَقِّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

حق کے ساتھ۔ اور فرما دو آگیا حق اور دور ہو گیا باطل۔ بے شک باطل دور ہونے والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ الْقِسْطِ صَلَوةً تُقْسِطُ لَنَا بِهَا مَحَبَّةً ط

اے اللہ صلوات و سلام ہو روح عدل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں حصہ عطا فرمائے اہل عدل کی

الْمُقْسِطِينَ وَبِحَكْمِ فَاحِكْمِ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ط

محبت سے اور اس حکم سے " پس حکم کرو درمیان ان کے عدل کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ عدل والوں کو پسند کرتا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَافِ صَلَوةً تُكْفِينَا بِهَا كِفَايَةَ وَرَايَةَ وَدَاذَةَ

اے اللہ درود و سلام ہو کفایت فرمانے والے پر کہ بطفیل اس کے کفایت فرمائے اس کفایت اور محبت و موت اور

نَصَادَةَ كَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور نصرت کی " کافی ہے اللہ تعالیٰ از روئے محبت کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ از روئے مددگار ہونے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو کفایتی

مُكْتَفٍ صَلَوةً تُكْفِينَا بِهَا بِتَوَجُّهِ الْمَحَبَّةِ الذَّاتِيَّةِ الْجَاذِبَةِ إِلَى شُهُودِ

پر جس کے طفیل کفایت فرمائے ہمیں محبت ذاتیہ کی توجہ کے ساتھ جو کش کرنے والی ہو تیری جلالیت کے شہود

مُطْلَقِ جَلَالِيَّتِكَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مطلق کی طرف " اور کافی ہے تیرا رب بطور ہادی اور مددگار کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى بِالْبَلِغِ صَلَوةً تُبَلِّغُنَا بِهَا إِلَى نَيْلِ بَقَاءٍ لَا يَزَالُ إِنَّ اللَّهَ بِالْبَلِغِ أَمْرُهُ

(کفایت مراتب خلق تک) پہنچنے والے پر کہ پہنچائے بطفیل اس کے لازوال بقا کے حصول تک۔ بیشک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا



قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُبَلِّغِ

اپنے امر تک بتقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حد مقرر کر دی ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو تبلیغ رسالت فرمانے والے

صَلَاةٍ تُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مَا لَا نَهْيَاةَ لَهَا وَهُوَ هَذَا بَلِّغْ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پہنچائے آخری حدوں تک جن کی انتہاء ہمیں ہے اور یہی ہے تبلیغ واسطے

لِلنَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ شَافٍ صَلَاةٍ تَشْفِينَا بِهَا عَنْ

انسانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شافی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں شفا بخشنے

أَسْقَامِ الْخَطِيئَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

ظاہرہ اور باطنہ خطاؤں والی بیماریوں سے " اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن سے وہ جو

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللَّهُمَّ

سراسر شفا اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسران و نقصان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَاصِلِ صَلَاةٍ تُوَصِّلُنَا بِهَا إِلَى الْمَحَبَّةِ وَالْهُدَى مِنْ

درود و سلام ہو واصل عزت پر کہ جس کے طفیل ہمیں واصل فرمائے محبت و مودت تک یعنی

تَعْطِيفِ تَأْلِيفِ تَأْلِيفِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

اس عنایت و الفت اور ازالہ شدت تک محبت رکھتے ہیں ان سے مانند محبت باری تعالیٰ کے اور ایمان والے زائد ہیں

حُبًّا لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَوْصُولِ صَلَاةٍ تُوَصِّلُنَا بِهَا

محبت الہیہ میں۔ اے اللہ درود و سلام ہو شرف و وصل سے شرف پر کہ جس صلوٰۃ کے صدقے میں وصل عطا کرے

بِحُصُولِ وَصُولِ قَبُولِ تَدْبِيرِ تَيْسِيرِ تَسْخِيرِ تَسْبِيرِ أَسْرَارِ أَنْوَارِ

ہمیں ساتھ حصول و وصول اور قبول کے۔ تدبیر اور سہولت مہیا کر کے ساتھ تسخیر ان ازار کے اسرار کی سیر کے

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَابِقِ صَلَاةٍ تَسْبِقُنَا

اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ محبت رکھتے ہیں اس سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سبقت لیجانے والے پر جس صلوٰۃ کے

بِهَافِي زُمْرَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

طفیل سبقت دے ہیں مقربین کی جماعت میں " اور سبقت والے ہی سبقت والے ہیں وہی مقرب ہیں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِقِ تَسَيُّفِنَا بِهَا إِلَى لِقَائِكَ فِي يَوْمٍ وَسَاعَةٍ

اے اللہ درود و سلام ہو چلانے والے پر کہ جس کی بدولت تو ہمیں چلائے اپنی ملاقات کی طرف بابرکت

وَوَقْتِ مُبَارَكَةٍ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهُمَّ

دن اور ساعت اور وقت میں اور آئے گا ہر نفس جبکہ ساتھ اس کے ہوگا ہائیکے والا اور گواہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَادِ صَلَاةٍ تَهْدِينَا بِهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہادی خلعت پر کہ جس صلوات کی بدولت ہدایت فرمائے ہمیں عارفوں کے

الْعَارِفِينَ وَمَرْكَزِ جَلَالِ نُورِ الْمُبِينِ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

سدرة المنتہی تک اور نور میں کے مرکز جلال تک۔ پس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو ان پر خوف نہیں

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُهْتَدِ صَلَاةٍ تَهْدِينَا بِهَا

ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اے اللہ درود و سلام ہو ہدایت یافتہ ذات اقدس پر کہ جس کی بدولت ہمیں ہدایت

أَسْرَارِ وَجُودِكَ الْأَعْلَى مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دے اپنے وجود اعلیٰ کے اسرار کی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُقَدِّمِ صَلَاةٍ تُقَدِّمُنَا بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الْمَوْقِفِ فِي مَوَاقِفِ

و سلام ہو سب کے پیشوا پر جس صلوات کی بدولت آگے بھیجے ہمیں مقربین کے موافقت سے کسی موقف کے

الْمُقَرَّبِينَ وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

درجہ تک۔ اور آئے ہم طرف ان کے اعمال کے پس کر دیا ہم نے انہیں سورج کی روشنی میں نظر آنے والے بکھرے ذرات

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَزِيْزِ صَلَاةٍ تُعَزِّزُنَا بِهَا بِعَزِيْزِ أَعْرَازِنَا تُعَزِّزُنَا

کی مانند۔ اے اللہ درود و سلام ہو عزیز نبی پر جس درود کے طفیل عزت بخشے ہمیں اپنے پیارے اعزاز اور عزت کے

عَزَّتِكَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى فَاضِلِ

غلبہ کے ساتھ اور اللہ عزیز ہے انتقام لینے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صاحب فضیلت نبی پر

صَلَاةٍ تَفْضِلُنَا بِهَا بِفَضْلِكَ الْكَامِلِ وَلُطْفِكَ الْكَامِلِ وَوَصْلِكَ

جس صلوات کی بدولت ہمیں فضیلت بخشے اپنے فضل کامل اور لطف کامل اور وصل دائم کے ساتھ



الْحَاصِلُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

وہ اللہ کا فضل ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک

الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُفَضَّلٍ صَلَوَةٌ تَفْضِلُنَا بِهَا

ہے " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مفصل نبی پر جس صلوات کے طفیل نصیب بختے

بِتَوَاتُرٍ مُتَّصِلٍ مُفَضَّلٍ فَضْلِ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ

ہیں ساتھ متواتر مسلسل اور مزید فضل کے " جو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل

وَرِضْوَانًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى فَاتِحِ صَلَوَةٍ تَفْتَحُ لَنَا بِهَا

اور رضامندی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو نقطہ آغاز نبوت پر جس صلوات کے طفیل منکشف کرے ہم پر

مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ لِخَزَائِنِ السِّرِّ الْمَكْنُونِ فِي مَكْنُونِ السِّرِّ مِنْ سِرِّ

غیب کی چابیاں مخفی رازوں والے خزانوں کی جو سرمنون ہیں تیرے

سِرِّكَ فِي جَنَّاتِ الْمَعَارِفِ وَبِقِتْحِ رِثَاكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ

سر الاسرار میں سے معارف کے سینوں میں اور بطفیل اس فتح کے " بیشک ہم نے فتح دی ہے آپ کیلئے فتح مبین

لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبِعَمَلِ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ

تاکہ بخشے آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ جو پہلے گزرے آپ کی امت کے ذنوب اور جو بعد میں ہوں گے اور کامل کرے اپنی نعمت تم

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُفْتَاِحِ

پر اور تمہیں گامزن کرے صراط مستقیم پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہر خیر کی مفتاح پر

صَلَوَةٍ تَفْتَحُ لَنَا بِهَا بَهْجَةً مَسْرَّةً مَيْسِرَةً مُفْرِحَةً مُفْتِحَةً وَهُوَ الْفَتْاحُ

جس صلوات کے طفیل کھولے ہمارے لیے بہجت اس مسرت ميسرہ کی جو موجب فرحت اور کشائش ہے وہی ہے کھولنے والا سر اسرار کا

الْعَلِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُفْتَاِحِ الرَّحْمَةِ صَلَوَةٌ تَفْتَحُ لَنَا بِهَا أَبْوَابَ

جلتے والا خالق کا۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو مفتاح رحمت پر جس دروازے کے طفیل کھولے ہمارے لیے دروازے

أَسْرَارِ الْغَيْبِ بِلَطَائِفِ عَوَاطِفِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

اسرار غیب کے ان عنایت کے لطافت کے ساتھ " اور اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے نہیں جانتا انہیں بقاضائے ذات



إِلَّا هُوَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُفْتَاِحِ الْجَنَّةِ صَلَوَةٌ تَفْتَحُ لَنَا بِهَا

مگر وہی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مفتاح جنت پر جس صلوات کے طفیل کھولے ہمارے لیے عزینے

مَفَاتِيحِ كُنُوزِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ بِفَتْوَحِ فَتَحْنَا عَلَيْكُمْ أَبْوَابَ

حقائق اشیاء کے خزانوں کے جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں ساتھ اس کشائش کے کھول دئے، ہم نے ان پر دروازے

كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى عِلْمِ الْإِيمَانِ صَلَوَةٌ تَعْلِمُنَا بِهَا

ہر شئی کے " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ایمان کے پرچم پر جس صلوات کے طفیل متاثر کرے میں ان ا

بِعَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ لِيَزِدَّادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ط

علامات ایمان و اسلام کے ساتھ " تاکہ نائد ہو جائیں از روئے ایمان کے ساتھ ایمان کے " ط

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى عِلْمِ الْيَقِينِ صَلَوَةٌ تَيَقِّنُنَا بِهَا بِعَلَامَاتِ

اے اللہ صلوات و سلام ہو یقین کے پرچم پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عطا کرے یقین علامہ کے

عِلْمِ الْيَقِينِ الْعُلَمَاءِ وَعَيْنِ يَقِينِ الْخُلَفَاءِ وَحَقِّ يَقِينِ الْأَنْبِيَاءِ

علم یقین اور خلفاء کے عین یقین اور انبیاء کلام کے حق یقین کی علامات کے ساتھ

وَبِعِلْمِ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ط اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

اور ساتھ اس علم کے " ہرگز نہیں اگر جا تو تم علم یقین کے طور پر " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما خیرات

دَلِيلِ الْخَيْرَاتِ صَلَوَةٌ تَدُلُّنَا بِهَا بِدَلَالِ الْخَيْرَاتِ وَشَوَارِقِ

کے رہبر و رہنما پر جس صلوات کے طفیل ہماری رہنمائی فرمائے ساتھ دلائل خیرات اور روشن انوار کے اور

الْأَنْوَارِ وَتُخَيِّرُنَا بِهَا بِخَيْرِ خِيَارِ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط

فضیلت دے ہیں اپنے انبیا و ابرار والی خیر و بھلائی کے ساتھ " پس سبقت لے جاؤ خیرات کی طرف

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ صَلَوَةٌ تُصَحِّحُ لَنَا بِهَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما امر حسنہ کی درستگی فرمانے والے پر جس صلوات کے طفیل درست فرمائے ہمارے لیے

بِصَحَاحِ فَصَاحِ فُرَاحِ فُرَاحِ مُعَادِنِ ذَخَائِرِ سَرَائِرِ

درستگی کشادگی۔ فرصت خالصہ صریحہ کے ساتھ (ان) اسرار کے ذخائر کی کانون کو



إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

بیشک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُقِيلِ الْعَثَرَاتِ صَلَوَةٌ تَقِيلُ بِهَا عَثْرَاتِنَا كُلُّهَا إِنَّ اللَّهَ

لغزشتات سے درگزر فرماتے والے پر جس صلوٰۃ کی بدولت ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ بیشک اللہ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَفْوَحَ

بخشتا ہے تمام تر ذنوب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما غزشتات سے اعراض فرمائے

عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَوَةٌ تَصْفِيهِ بِهَا عَنْ زَلَلِنَا الْغَيْرِيَّةِ بِفَضْلِ

والے پر جس صلوٰۃ کے طفیل اعراض فرمائے ہماری غیریت والی لغزش سے ساتھ اس فضل کے

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَا اللَّهُ عَلَيْنَا صَلِّ

اپھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ نیکی یہاں تک انہوں نے درگزر کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ صَلَوَةٌ تَشْفَعُ بِهَا فِينَا عِنْدَ اللَّهِ مَنْ

سلام ہو صاحب شفاعت پر جس صلوٰۃ کے طفیل شفاعت کرے ہمارے حق میں اللہ کے ہاں

ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ

کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب مقام

الْمَقَامِ صَلَوَةٌ تُعْطِي لَنَا بِهَا دَرَجَةَ الْخَائِفِينَ فِي مَقَامِ الْعُلَىٰ وَأَمَّا

محمود پر جس صلوٰۃ کے طفیل عطا کرے ہمیں ارباب خوف کا درجہ مقام اعلیٰ میں " اور لیکن

مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَذَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ


جو خوفزدہ ہو گیا اپنے رب کے حضور قیام سے اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے تو یقیناً جنت ہی اس کا

الْمَأْوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ الْقَدَمِ صَلَوَةٌ تُثَبِّتُ

ٹھکانا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب قدم ثابت پر جس صلوٰۃ کے طفیل ثابت رکھے

بِهَا أَقْدَامَنَا عَلَى طَاعَتِكَ وَإِمْتِثَالِ أَوْامِرِكَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ

ہمارے قدموں کو اپنی اطاعت پر اور احکام کی تعمیل پر۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو





أَمَّنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ بِالْعِزِّ

ساتھ پائیدار قول کے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما عزت و اعزاز کے ساتھ مخصوص نبی

صَلَاةٌ تَعَزُّنَا بِهَا بِأَعْزَانِ الْقُرْبِ وَالرَّفْعَةِ وَالرَّفِيعَةِ وَبِأَعْزَانِ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل اعزاز بخشتے ہیں قرب اور رفعت رفیعہ کے ساتھ اور ساتھ اعزاز قرب

الْقُرْبِ وَالذَّلَّةِ وَالذَّلِيلَةَ بِأَنَّكَ تَعَزُّنَا مِنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ

اور تواضع و انہاری کے بسبب اس کے " کہ تو عزت دیتا ہے جسے چاہے اور نگوں سار کرتا ہے جسے چاہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو مجھ کے ساتھ

مُحْضَرًا بِالْبُحْدِ صَلَاةٌ تَمْجِدُنَا بِهَا وَتَمْجِدُ تَعْظِيمَ عَظَمَةِ كِبْرِيَايَةِ

مخصوص ذات اقدس پر جس صلوٰۃ کی بدولت ہمیں بزرگی بخشتے اور طفیل تمجید و تعظیم اور عظمت کبریائی کے

تَعَالَىٰ إِنَّهُ حَبِيدٌ مَجِيدٌ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَخْضَرًا بِالشَّرَفِ

بیشک وہی لائق حمد و ثناء بزرگی والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شرف سے مخصوص ذات پر جس صلوٰۃ کے

صَلَاةٌ تَشْرَفُنَا بِهَا بِشَرَفِ الْإِلَهَامَاتِ الْقُدْسِيَّاتِ وَالْمَلْهَمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ

طفیل ہمیں مشرف فرمائے الہامات قدسیہ اور ملہمات مقدسہ کے شرف کے ساتھ

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ

پس وحی کی طرف اپنے عبد خاص کے جو وحی کی " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب

الْوَسِيلَةِ صَلَاةٌ تُوَصِّلُنَا بِهَا إِلَىٰ مَعَارِفِ الرَّبَّانِيِّ وَسِرِّ الْبَرِّيِّ

الوسیلہ پر کہ جس کی بدولت واصل فرمائے ہمیں معارف ربانیہ اور اسرار احسانہ تک

بِوَسِيلَةٍ وَكَيْلَةٍ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس وسیلہ و وکالت کے " اور طلب کرو طرف اس کے وسیلہ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ صَاحِبِ السَّيْفِ صَلَاةٌ تُقَلِّدُنَا بِهَا بِسَيْفِ الْهَيْبَةِ وَالشَّدَّةِ

صاحب سیف پر جس صلوٰۃ کے طفیل حائل کرے ہمارے گلے میں ہیبت و شدت اور قوت کی



وَالْقُوَّةَ وَالْمَنَعَةَ مِنْ بَأْسِ الْجَبْرُوتِ بِنُصْرَةِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

اور جبروت کی شدت سے بچاؤ کی تلوار ساتھ اس نصرت کے " اور نہیں مدد مگر صرف

عِنْدَ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ صَلَاةً

اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل ہو صاحب فضیلت پر جس صلوات کے طفیل

تَفْضِلُنَا بِهَا بِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ بِفَضْلِ فَضِيلَةٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

فضیلت بخشے ہمیں اپنی بارگاہ کے قریب کرنے والے امور کے ساتھ بڑے سہلہ اس فضل و فضیلت کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

بے عطا کرتا جس کو چاہے اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

صَاحِبِ الْإِذَارِ صَلَاةً تُؤَزِّمُنَا بِهَا إِذَارَ الْفَقْرِ الْفَقْرُ فُخْرِي وَالْفَقْرُ

تمہد والے نبی پر جس صلوات کے طفیل ہمیں اوڑھائے فقر کی (یہ) چادر فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ

مِنِّي وَبِأَسِ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ

سے ہے اور لباس تقویٰ ہی بہتر ہے " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما حجت و برہان و

الْحُجَّةِ صَلَاةً تَبْدِجُ بِهَا حُجَّتَنَا وَتُقَدِّجُ بِهَا صُدُورَنَا وَتُقَرِّجُ بِهَا مَقُولَنَا

نبی پر جس صلوات کے طفیل ہماری دلیل کو روشن بنائے اور ہمارے سینے کشادہ فرمائے اور ہماری آرزوں میں کشائش پیدا

لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ

کرتے تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے تمہارے اور حجت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صاحب تسلط نبی پر

السُّلْطَانِ صَلَاةً تَبَيِّنُ بِهَا بُرْهَانَنَا وَتُشَدِّدُ بِهَا بُنْيَانَنَا وَتَيَقِّنُنَا

جس صلوات کے طفیل ہماری برہان کو واضح کرے اور ہماری بنیاد کو مستحکم فرمائے اور کامل و راسخ فرمائے

بِهَا إِيقَانَنَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ

ساتھ اس کے ہمارے یقین کو ساتھ واضح علیہ و تصرف کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو چادر اوڑھنے والے نبی پر

الرِّدَاءِ صَلَاةً تُسِيلُ عَلَيْنَا بِهَا كُنْفَ سِتْرِ حِجَابِ نَظَافَةِ مَلَا حَةِ وَ

جس درود کے طفیل لٹکائے ہم پر جوانی و اطراف (اس) نظافت و ملاحیت والے سترو حجاب کے



ثِيَابِكَ فَطَهَّرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ

اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو، اے اللہ درود و سلام ہو بلند تر درجہ والے نبی پر

صَلَاةٌ تَرْفَعُنَا بِهَا مِنْ حَضِيضِ التُّدَانِ إِلَى الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ

جس درود کے طفیل بلند فرمائے ہمیں آلودگی کی پستیوں سے طرف (اس) بلند و بالا درجہ کے

الْعُلَى الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

”وہ لوگ کہ جن کے لیے ہیں بلند تر درجات“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

صَاحِبِ التَّاجِ صَلَاةٌ تُتَوَجَّنُ بِهَا بِتَاجِ مَهَابَةِ كَبِيرِيَاءِ جَلَالِ

صاحب تاج پر جس صلوٰۃ کے طفیل پہنائے ہیں تاج (اس) عبادت و کبریائی، جلال و شہنشاہی

مَلَكُوتِ عِزِّ عَظْمَةِ اللَّهِ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور عزت و عظمت الہیہ کا ”بیشک عزت و علیہ تمام اللہ ہی کے لیے ہے“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى صَاحِبِ الْمَعْرِفِ صَلَاةٌ تُلْبَسُنَا بِهَا خَلْعَةَ الْكَلَالِ إِقْبَالَ إِجْمَالِ

خود والے نبی پر کہ پہنائے ہمیں اس صلوٰۃ کے طفیل خلعت تاج پوشی۔ اقبال مندی جمال و جلال سے

إِجْلَالِ وَصَلِّ جَنَّتِكَ وَلِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اتصاف اور جنت تک رسائی کی ”اور لباس ان کا جنت میں ریشم ہے“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى صَاحِبِ الْإِوَاءِ صَلَاةٌ تَحْشُرُنَا بِهَا أَفْضَلَ الْفَضْلِ مَعَ الْعَطَاءِ

لواء (محمد) والے نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارا حشر فرمائے افضل ترین احوال میں بمع قابل ستائش عطا کے

الْأَحْمَدِ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ

نیچے لواء الحمد کے ”اسی کے لیے ہے ملک اور اسی کے لیے ہے حمد“ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ صَلَاةٌ تُسِيرُنَا بِهَا بِسِيرِ سِرِّ اسْرَارِ

سلام نازل فرما صاحب معراج پر جس صلوٰۃ کے طفیل سیر کرائے ہمیں دان اسرار و اسرار کے

سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ

کے سر اور سرار کی ”پاک ہے وہ ذات اقدس جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو رات کے وقت مسجد الحرام سے



إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْقَضِيْبِ

مسجد اقصیٰ تک " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب عصا نبی پر ایسی

صَلَاةً تَقَطُّعُ بِهَا عَنَّا حُجُبَ الْكِبَارِ الْإِنَانِيَّةِ وَعُجْبَ الْكُدَارِ الْغَيْرِيَّةِ

صلوٰۃ کہ قطع کرے بظیفیل اس کے ہم سے حجابات تکبر و انانیت اور فخر و تاز غیریت کے میل پھیل کا

بِقَضْبِ الْعَيْنِيَّةِ الْإِرَانِ حُزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ عینیت کے عصا کے " آگاہ رہو بیشک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہے " اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْبِرَاقِ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا إِلَى طُرُقِ

و سلام نازل فرما صاحب براق پر جس صلوٰۃ کے طفیل بلند فرمائے ہمیں اپنی بارگاہ

بِحُبُوْحَةِ حَضْرَةِ أَحَدِيَّتِكَ كَبُرُّقِ الْبُرُوقِ الْبِرَاقِ فِقْرًا وَإِلَى

احدیت کے وسطی راہوں کی طرف مانند براق کی روشن بجلی کے ۔ پس بھاگو طرف

اللَّهُ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْخَاتِمِ صَلَاةً تَخْتِمُ

اللہ کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب خاتم پر جس صلوٰۃ کے طفیل پرتگائے

بِهَائِنِي صُدُورَنَا بِخَتْمِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ ط وَخَاتَمَهُ مَسْكَ وَ

ہمارے دلوں میں ساتھ نقش ۔ محمد رسول اللہ کے اور اس کا آخری گھنٹ مانند کستوری کے خوشبودار

فِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّا فِيسِ الْمُنْتَفِسُونَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہے اور اس میں ہی چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

صَاحِبِ الْعَلَامَةِ صَلَاةً تَعْلِمُنَا بِهَا بَعْلَامَاتِ سَبْحَاتِ

امتیازی علامت والے نبی پر کہ متاثر کرے ہمیں بظیفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ

أَنْوَارِ اسْرَارِ انْوَارِ النُّبُوَّةِ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ط

انوار و اسرار نبوت کے انوار کے علامات و نشانات کے جنہیں ہم نے دی ہے کتاب اور حکومت و نبوت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْبُرْهَانِ صَلَاةً تُحَرِّسُنَا بِهَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب برہان پر جس صلوٰۃ کے طفیل محفوظ فرمائے ہمیں ساتھ اس



بِحِمَايَةِ كَفَايَةِ وَقَايَةِ حَقِيقَةِ بُرْهَانِ حُرْبِ أَمَانِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

حمایت و کفایت اور وقایت اور حقیقت برہان اور حصارِ امان کے " اے لوگو

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَاحِبِ

تحقیق آیا تمہارے پاس عظیم برہان تمہارے رب کی طرف سے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب بیان

الْبَيَانِ صَلَوَةٌ تُبَيِّنُنَا بِهَا عَلَيْنَا مَعْضَلَاتِ حُرُوفَاتِ عَرَبِيَّاتِ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل واضح کر دے ہم پر مشکل حروف اور لائین عقد سے

الْقُرْآنِ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا

قرآن کے " اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو البتہ دیکھتے تم اس کو خشوع کرنیوالا پھٹنے والا

مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ فَصِيحِ اللِّسَانِ صَلَوَةٌ

خشیتِ اللہ سے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما فصیح اللسان نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل منشف

تَفْصِيحٌ لَّنَا بِهَا بِالْفَصَاحَةِ وَالْبِرَاعَةِ وَالْبِلَاغَةِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

کر دے ہم پر فصاحت اور عمدگی اور بلاغت کو " اے رب میرے کشادہ فرما میرے لیے

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ۗ اللَّهُمَّ

میرا سینہ اور آسان فرما میرا معاملہ اور کھول دے میری زبان کا عقد - تاکہ میری بات سمجھ سکیں " اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُطَهِّرِ الْجَنَانِ صَلَوَةٌ تُطَهِّرُنَا بِهَا جَنَانَنَا بِطَهَارَةِ

درود و سلام ہو دلوں کو پاک کرنے والے نبی پر جس درود کے طفیل پاک فرمائے ہمارے دلوں کو ایسی طہارت

الرِّكِيَّةِ الرَّضِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ بِأَنَّهُمْ أَنَا سَيِّتَطَهَّرُونَ ۗ اللَّهُمَّ

و تزکیہ کے ساتھ جو پسندیدہ و مقبول ہو " بسبب اس کے کہ وہ لوگ طہارت میں کوشش کرنے والے ہیں " اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رَوْفٍ صَلَوَةٌ تَعْطِفُ لَنَا بِهَا بِرَأْفَةٍ رَحْمَةً رِّقَّةً ثُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل ہو رُوف نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل عنایت فرمائے ہمیں رُوفت . رحمت اور رقت " پھر

تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوْفٌ

مزم ہوتے ہیں اعضاء اور قلوب ان کے ذکرِ الٰہی کی طرف اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ رُوفت



رَّحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي رَحِيمِ صَلَاةٍ تَرْحُمُنَا بِهَا بِعَفْرَتِكَ

ورحیم ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما رحیم نبی پر جس صلوات کے طفیل ہم پر رحم فرمائے ساتھ اپنی

وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مغفرت و رحمت اور فضل کے پس بے شک تو عفو رحیم ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى أُذُنِ خَيْرِ صَلَاةٍ تُسْمِعُنَا بِهَا كَلِمَاتِ الْحَقِّ وَالْيَقِينِ وَيَقُولُونَ

خیر کے (سننے والے) مجسم قوت سامعہ پر جس صلوات کے طفیل ہمیں سنوائے کلمات حق اور یقین کے۔ اور کہتے ہیں

هُوَ أَذُنٌ قُلُّ أذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي صَاحِبِ الْإِسْلَامِ

کہ وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سراسر کان ہیں۔ فرمادیجئے سراسر کان ہیں خیر کے تمہارے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صحیح اسلام والی ہستی

صَلَاةٍ تُسَلِّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْفِتَنِ وَالْأَسْقَامِ وَالْأَفَاتِ وَ

پر جس صلوات کے طفیل ہمیں سلامت رکھے تمام فتنوں۔ بیماریوں آفات اور

الْعَاهَاتِ وَاللَّهُ يَدُ عَوَالِي دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عیوب و نقائص سے" اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف سلامتی والے گھر یعنی جنت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ صَلَاةً تُغَمِّسُنَا بِهَا فِي بَحَارِ أَنْوَارِكَ وَأَسْقِنَا

سید کونین پر جس صلوات کے طفیل ہمیں غوط دے اپنے انوار کے سمندروں میں اور پلائے ہمیں

مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ بِسَيَادَةِ سَيِّدِنَا وَأَوْحَاوُورًا أَوْ نَبِيًّا لِقَبْلِ الصَّالِحِينَ

اپنی محبت کا شراب بطفیل سیادت سید کے اور عورتوں سے دور رہنے والے اور نبی صالح حضرت نبی اکرم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي عَيْنِ التَّعْيِيمِ صَلَاةً تُنْعِمُنَا بِهَا بِنِعْمَائِهِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نعمتوں کے سرچشمہ پر جس صلوات کے طفیل ہمیں مشرف فرمائے ان کی عام نعمتوں

الشَّامِلَةِ وَالْآيَةِ الْكَامِلَةِ بِتَنْعِيمِ تَكْرِيمِ تَعْيِيمِ نَمِّ لَتَسْلُنَ يَوْمَئِذٍ

اور کامل نعمات سے ساتھ اس نعمت رسائی۔ کرم بخش عمومی کے "پھر تم ضرور باعز و ضرور سوال کئے جاؤ گے اس دن

عَنِ التَّعْيِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي عَيْنِ الْغُرِّ صَلَاةً تُقَوِّدُنَا بِهَا

نعمتوں کے متعلق" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مجسمہ نورانیت پر جس صلوات کے طفیل تیری طرف قیادت کریں



إِيَّاكَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ بِغُرْنُورٍ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً

ہماری روشن جبینوں اور نورانی اعضاء والوں کے قائد ساتھ اس واضح نور کے " اور ڈال دی ہے میں نے تجھ پر

مَّتِي وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَعِدِ اللَّهُ

محبت اپنی طرف سے اور تاکہ تجھے بنایا جائے میری نگاہوں کے سامنے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اللہ تعالیٰ کی مجسم سعادت

صَلَوَةٌ تُسْعِدُنَا بِهَا يَا سَعَادَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْمَغْفِرَةَ ط وَأَمَّا الَّذِينَ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں سعادت مند کرے ساتھ سعادت کرامت اور مغفرت کے " لیکن جو سعادت مند

سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ خَطِيبِ الْأُمَمِ صَلَوَةٌ

ہیں پس وہ جنت میں ہیں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما تمام امتوں کے خطیب پر

تُنَجِّنَا بِهَا مِنَ الشَّدَايِدِ وَالْأَهْوَالِ وَالْهَبَاطِ وَالْبِيَاطِ وَ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نجات عطا فرمائے شدائد اور ہولناکیوں سے اور پستیوں اور نیستیوں سے اور

شَدَدِ دُنَا مُلْكُهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخَطَابِ ط اللَّهُمَّ

مضبوط کر دیا ہم نے ان کا ملک اور دی ہم نے ان کو حکمت اور واضح خطاب - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ عَلِمَ الْهُدَى صَلَوَةٌ تَعَلِّمُنَا بِهَا بِهَدَايَةِ الْهَجَارِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہدایت کے علم مجسم پر جس صلوٰۃ کے طفیل سکھائے ہمیں تیز چال رہبری

وَوَلَايَةِ الْوَهَّارِ وَرِعَايَةِ الرَّهَّارِ وَعِنَايَةِ الْعَجَّارِ وَ

اور بہت روشن اور تیزی سے بھڑکنے والی محبت فتنہ و فساد سے نگہداشت اور ادنیٰ لوگوں پر عنایت

إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

بیشک آپ ہدایت دیتے ہو صراطِ مستقیم کی طرف - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

كَاشِفِ الْكُرْبِ صَلَوَةٌ تَكْشِفُ بِهَا عَنَّا كُرْبَاتِ زَلْزَلَةِ

غم و اندوہ دور کرنے والے نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور کرے ہم سے اندوہ زلزلہ شوق

الشُّوقِ وَوَلَوْلَا ذُو قُورٍ وَإِنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ

کے اور ولولہ ذوق کے " اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی نقصان تو نہیں دور کرنے والا اس کو



لَهُ الْإِهْوَاطُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي رَافِعِ الرَّتَبِ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ

مگر وہی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مراتب کے بلند کرنے والے نبی پر جس صلوات کے طفیل

بہا مرتبتنا من مراتب عبودية الكثرة من الخلق إلى

بلند فرمائے ہمارے مرتبہ کو کثرت مخلوق کے مراتب عبودیت سے

معبودية الوحدة في الحق بإشارة بشارة ترفع درجات

طرف عبودیت وحدت کے حق تعالیٰ میں ساتھ اس اشارہ و بشارت کے ہم بلند کرتے ہیں درجات

مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

جس کے بلند کرنا چاہیں اور ہر صاحب علم سے اوپر علم والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عز العرب صلوة تعزنا بها بروح العرب الأكرم و بروح

عرب کے سراپا عزت پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عزت بخشے ساتھ عرب کی مکرم روح کے اور عجم کی

العجم الأعظم وبسيد العرب والعجم والله عزير ذو

عظیم تر روح کے بظہیر سید عرب و عجم کے " اور اللہ عزیز انتقام لینے

انتقامه اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي صَاحِبِ الْفَرَجِ صَلَوَةٌ تُقَرِّبُ

والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما کشائش و فراخی عطا کرنے والے پر جس صلوات کے

بها همومنا كلها من بداية الفروج الفلوج إلى

طفیل دور کرے ہم سے تمام تر ہوم کشائش و کشادگی کی ابتداء سے لے کر عروج

نهاية العروج الولوج مآلها من فروج اللهم صل

اور وصول کی انتہاء تک و نہیں ہیں ان کے لیے سوراج اور درزیں۔ اے اللہ صلوات و

وسلم على رافع الدارج صلوة ترفعنا بها عندك اعلى

سلام نازل فرما رافع الدرجات پر جس صلوات کے طفیل بلند فرمائے ہمیں اپنے ہاں

الدرجات وتقرّب بها درجاتنا لدى العرش بالرفعة

اعلیٰ درجات پر۔ اور قریب کرے ہمارے درجات عرش اعظم کے نزدیک ساتھ





وَالْعِزَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَرِيمِ الْمَخْرَجِ صَلَوَةٌ تَكْرِمُنَا

رفعت اور عزت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما برتر مقام ظہور والے پر جس صلوات کے طفیل

بِهَا مِنْ خُرُوجِ فَنَاءِ السَّفَلِيِّ الْأَزَلِيِّ إِلَى بَقَاءِ الْعُلُويِّ الْأَبَدِيِّ

ہیں عطا کرے فناء سفلی ازلی سے نکل کر بقاء علوی ابدی تک رسائی کا شرف

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے انسان کس نے مغرور کیا تجھے ساتھ اپنے رب کریم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى ذِي الْقِبْلَتَيْنِ صَلَوَةٌ تُقْبِلُنَا بِهَا مِنْ قِبْلَةِ الْقِبْلَتَيْنِ وَكَعْبَتَيْهَا

فرما دو قبلہ والے نبی پر جس صلوات کے طفیل قبول کرے ہمیں دونوں قبلوں کے قبلہ سے اور دونوں کے

الْقِبْلَتَيْنِ وَاجْعَلْهَا نَانُورًا وَسُرُورًا مِّنْ أَقْصَى إِلَى قِبْلَةِ تَرْضَاهَا

کعبہ سے اور بنا دے اس کو ہمارے لیے نور و سرور اقصیٰ سے اس قبلہ تک جو تجھے پسند ہے

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ

پس پھیر لو اپنے منہ کو مسجد حرام کی جانب۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما رسولِ الثقین

الثَّقَلَيْنِ صَلَوَةٌ تُخَفِّفُنَا بِهَا ثِقَالَ الدَّارَيْنِ وَشَقَاوَةَ الْكُونَيْنِ

پر جس صلوات کے طفیل خفیف کرے ہم سے بوجھِ ثقلین کا اور شقاوتِ کونین کی۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

اے گروہ جنوں اور انسانوں کے اگر استطاعت رکھتے ہو کہ نکل سکو آسمانوں اور زمین

وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے اطراف سے تو نکل جاؤ۔ نہیں نکل سکو گے مگر ساتھ غلبہ و تسلط کے (جو تم میں نہیں ہے) اے اللہ درود و سلام

عَلَى صَاحِبِ الْفُرْقَانِ صَلَوَةٌ تُفَرِّقُنَا بِهَا فِيمَا بَيْنَ فَنَاءِ أَنَا نَبِيَّةِ

ہو صاحب فرقان پر جس صلوات کے طفیل جدا کرے ہمیں طبیعتِ انسانیہ کی فناء

الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَبِقَاءِ شُهُودِ الْوَحْدَانِيَّةِ الْاَلُوْهِيَّةِ الْاَحْدَايَةِ

انانیت اور شہودِ وحدانیتِ حدیہ کی بقاء کے درمیان (پھنس کر رہنے) سے



تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

با برکت ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے عبد خاص پر۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى صَاحِبِ الْكُوْثِرِ صَلَوةً تُسْقِيْنَا بِهَا مِنْ شَرَابِ حَوْضِ

صاحب کوثر پر جس صلوات کے طفیل ہمیں پلائے حوض کوثر کے شراب سے

الْكُوْثِرِ شَرِبَةٌ هَنِيبًا مَّرِيئًا لَا نَظْمَاءَ بَعْدَهَا أَبَدًا ۗ الْاَبَدِكَ مَا

ایسا شربت نوشگوار کہ نہ پیاسے ہوں اس کے بعد کبھی بھی۔ جیسے کہ

ظَهَرَ مِنْ وَحْدَةِ الْحَالِ اِلَى كَثْرَةِ الْمَقَالِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثِرَ

ظاہر ہوا حال کی وحدت سے قال کی کثرت تک۔ بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحِرْ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ بیشک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَلِّ

وسلام ہو سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جس درود کے طفیل کھول دے تمام

بِهَا الْعُقَدَ وَرَوْحَاتِكُمْ بِهَا الْكُرْبُ وَتَرْحُمَاتُنَا بِهَا الْعُطْبُ

عقدے اور راحت ہو کہ کھولے بطفیل اس کے کرتیں اور رحمت ہو کہ نازل کی جائیں بطفیل اس کے ہلاکتیں

وَتَكْرِيمًا تُقْضٰى بِهَا الْاِرْبُ يَا رَبُّ يَا اَللهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا

اور تحريم ہو کہ پوری کی جائیں بطفیل اس کے حاجتیں۔ یا رب۔ یا اللہ۔ یا حی۔ یا قیوم۔ یا ذا الجلال

ذَ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۗ نَسْئَلُكَ مِنْ فَضَائِلِ لُطْفِكَ وَمِنْ

والا کرام۔ سوال کرتے ہیں تجھ سے تیرے لطف و کرم کے فضائل کا اور

غَرَائِبِ فَضْلِكَ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ ۗ اللَّهُمَّ اِنَا عِبْدٌ اَضْعَفُ اُمَّتِهِ

الو کھے فضل کا یا کریم یا رحیم۔ اے اللہ میں وہ عبد ہوں جو ان کی تمام امت کے

اَنْتَ وَلِيْنَا وَمَوْلَانَا خُذْ بِيَدِيْنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِيْنَا وَتُوصِلْنَا

ضعیف تر ہوں تو ہی ہمارا ناصر و مددگار ہے۔ دستگیری فرما ہماری گمراہی سے۔ ہدایت دے اور واصل فرما



إِلَى ذَاتِكَ فَاجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَسَلَامِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اپنی ذات تک۔ پس بنادے ہماری تمام صلوات اور سلاموں کو دنیا میں ہوں یا آخرت میں

مُكَفَّرَةً لِّجَمِيعِ الْخَطِيئَاتِ رَافِعَةً لِّجَمِيعِ الدَّرَجَاتِ مُكْفَلَةً لِّجَمِيعِ

کفارہ واسطے ہماری تمام خطاؤں کے اور بلندی کرنے والے ہمارے تمام درجات کے، کفالت کرنے والے

الْحَسَنَاتِ وَالْخَيْرَاتِ مُحَصَّلَةً بِكَمَالِ حُبِّكَ وَذِكْرِكَ بِخُلُوصِ

واسطے تمام حسنت اور خیرات کے، مہیا کرنے والے ہمارے تیری کامل محبت اور ذکر کے بسبب خلوص سے

السِّرِّ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ بِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَنَتَائِجِهِ بِجَمِيعِ

ظاہر و باطن میں بمع کمال ایمان اور اس کے نتائج کے بمع تمام برکات

الْبَرَكَاتِ وَالْكَمَالَاتِ حَفِيظَةً بِجَمِيعِ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ وَكَمَالِ

اور کمالات کے۔ محافظ ہو ساتھ کامل عفو و عافیت کے اور کمال علم کے

الْعِلْمِ وَبِتَوْفِيقِ كَمَالِ الْعَمَلِ بِهِ بِحُسْنِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ

اور ساتھ عمل کامل کی توفیق کے ساتھ حسن طاعات اور عبادات کے

حَصِينَةً عَنْ كُلِّ كُرْبٍ وَهَمٍّ وَغَمٍّ وَعَنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَ

محفوظ رکھنے والے ہوں ہر کرب اور غم و اندوہ سے اور تمام آفات و نقائص سے

الْعَاهَاتِ وَالْوَسْوَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَعَنْ جَمِيعِ لَعِبٍ وَ

اور وساوس و بلیات سے۔ اور تمام لہو و لعب سے اور تیرے

لَهُوٍّ وَعَنْ جَمِيعِ غَيْرِ مَرْضِيَّاتِكَ وَغَيْرِ مَرْضِيَّاتِ رَسُولِكَ

تمام ناپسندیدہ امور سے اور تیرے رسول کے ناپسندیدہ امور سے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَسَلَامِنَا وَسِيلَةً وَشَفِيعَةً وَ

اے اللہ بنادے ہماری تمام صلوات اور تسلیات کو وسیلہ اور شفیع اور

هَادِيَةً بِجَمِيعِ الْحَالَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ بِالْقُوَّةِ الْكَامِلَةِ

رہنما تمام حالات اور تمام زمانوں میں ساتھ کامل قوت کے



وَبِالْعِزَّةِ الشَّامِلَةِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

اور محیط عزت و ذلیلہ کے واسطے صراط مستقیم کے راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ

یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی اور

حَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَافِقًا ذَلِكِ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

اچھے ہیں وہ از روئے رفیق ہونے کے۔ وہ عظیم فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے

عَلَيْهَا رَبَّنَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جَمِيعَ دَعَوَاتِنَا

از روئے علیم ہونے کے۔ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما۔ بیشک تو ہی سنے والا ہے ہماری تمام دعاؤں

وَرِيَّاتِنَا وَحَاجَاتِنَا بِالْخَيْرِ بَعْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ

اور نیات و حاجات جو خیر سے منبسط ہیں بظہیر لا الہ الا اللہ کی عزت اور بظہیر محمد

رَسُولِ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

رسول اللہ کی رحمت کے اور ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَحْدَكَ

کے لیے ہیں۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے۔ نہیں معبود برحق مگر تو۔ تو پاک ہے۔ یگانہ ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُحَوَّلٌ

نہیں کوئی شریک تیرے لیے۔ ہر چیز کا خالق ہے اور بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ ہر حال

كُلِّ حَالٍ يَا مُحَوَّلَ الْحَالِ حَوْلَ حَالِنَا إِلَىٰ أَحْسَنِ الْحَالِ بِحَقِّ

کو بدلنے والا ہے۔ اے ہر حال کو بدل دینے والے بدل دے ہماری حالت کو اچھی حالت میں بظہیر

أَفْضَلِ الْمَقَالِ بِجَمِيعِ مَرَاتِبِهِ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

افضل ترین کلام کے اپنے تمام مراتب میں، تو مالک ملک ہے، جلال و اکرام کا مالک ہے

يَا اللَّهُ كَيْفَ أَقُولُ فِي وَصْفِكَ وَمَا أَقُولُ وَمَا أَنَا فِي وَصْفِكَ

اے اللہ کیسے کہوں میں تیری توصیف میں اور کیا کہوں اور میری کیا حیثیت ہے تیرا وصف کرنی



وَقَالَ أَفْصَحُ الْفُصْحَاءِ وَأَبْلَغُ الْبُلْغَاءِ مَوْلَانَا وَهَادِيْنَا

حالانکہ فرمایا سب فصحاء سے فصیح تر اور سب بلغاء سے بیخ تر جو ہمارے مولیٰ اور ہادی برحق ہیں

بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ

تیرے عظیم فضل سے کہ تو پاک ہے میں نہیں احاطہ کر سکتا تیری ثناء کا۔ تو لائق ہے اسی ثناء کا جسے

عَلَى نَفْسِكَ وَقَالَ مَلِكِيكَتِكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ

جو تو نے خود کی ہے اپنی ذات کی۔ اور کہا تیرے ملائکہ نے تو پاک ہے نہیں ہے ہمیں علم مگر وہی جو تو نے

أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ

بتلایا ہے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ پاک ہے تو۔ پاک ہے وہ کہ آسمان میں ہے عرش اس کا

سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَرِّ

پاک ہے وہ کہ زمین میں ہے۔ اس کا ملک اور ظہور قدرت۔ پاک ہے وہ کہ خشکی میں ہے

سَبِيلُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَى رُوحُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

راہ اس کی۔ پاک ہے وہ کہ ہوا میں ہے روح اس کی۔ پاک ہے وہ کہ آگ میں ہے

سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْحَامِ عِلْمُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي

تسلط اس کا۔ پاک ہے وہ کہ ارحام میں ہے علم اس کا۔ پاک ہے وہ کہ قبور میں

الْقُبُورِ قَضَاءُهُ سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بِأَعْيُنِ سُبْحَانَ

ہے قضاء اس کی۔ پاک ہے وہ جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے۔ پاک ہے وہ جس

الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَلْجَأَ وَلَا مَتَجًا إِلَّا إِلَيْهِ إِنَّ

نے پستی میں رکھا زمین کو۔ پاک ہے وہ کہ نہیں جائے پناہ اور نہ جائے نجات مگر طرف اسی کے

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ خَالِقُ الْعَالَمِ بِأَسْرَارِهِ الْعُلُومِ

بیشک اللہ تعالیٰ بیکتا ہے اپنے ملک میں خالق ہے ساتھ اپنے اسرار کے تمام عالم کا علوی ہو یا

وَالسَّقِيَّةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ

سفل اور عرش و کرسی اور آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے بیان ہے اور



مَا فِيهَا جَمِيعَ الْخَلَائِقِ مَقهورُونَ بِقُدْرَتِهِ وَلَا تَتَحَرَّكَ ذَرَّةً إِلَّا

اور جو کچھ ان میں ہے۔ تمام مخلوقات مغلوب ہیں اس کی قدرت سے اور نہیں حرکت کرتا کوئی ذرہ مگر

بِإِذْنِهِ لَيْسَ مَعَهُ مَدْبِرٌ فِي الْخَلْقِ وَلَا شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ حَتَّى قِيَوْمٌ

اس کے اذن سے۔ نہیں اس کے ساتھ شریک کوئی مدبر تخلیق میں اور نہ کوئی شریک ہے اس کا ملک میں زندہ

لَا تَأْخُذُكَ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

و پانندہ ہے نہ اس کو اونگھ اپنی لپیٹ میں لیتی اور نہ نیند۔ تمام غیوب و شہادت کا عالم ہے۔ نہیں مخفی اس پر

شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ

کوئی شئی زمین میں اور نہ آسمان میں جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے اور نہیں گرتا کوئی

مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا سَرَابٍ

پتہ مگر اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکی گہرائیوں میں اور نہیں کوئی تری چیز

وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ

اور نہ خشک مگر لوح محفوظ میں (مذکور) ہے۔ اس نے احاطہ کیا ہر شئی کا از روئے علم اور احاطہ کر

شَيْءٌ عَدَدًا فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ لَهُ الْمَلِكُ وَالْغَنِيُّ

رکھتا ہے ہر شئی کا از روئے عدد و شمار کے کرنے والا ہے جو چاہے۔ صاحب قدرت ہے ہر اس شئی پر جس کو چاہے۔ اسی کے

وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالْعِظَّةُ وَالْبَقَاءُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالثَّنَاءُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ

یہ ملک ہے اور بے نیازی اور اسی کے لیے عزت و عظمت ہے اور بقاء و دوام۔ اور وہ ہے مستحق حمد و ثناء کا۔ اور اسی کیلئے ہیں

الْحُسْنَىٰ لِأَدْفَعِ لِمَا قَضَىٰ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَىٰ يَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ مَا


حسین اسماء نہیں کوئی دور کرنے والا اس کی قضاء کو اور نہیں روکنے والا اس کی عطا کو۔ کرتا ہے اپنے ملک میں جس کا ارادہ

يُرِيدُ وَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ لَا يَرْجُو ثَوَابًا وَلَا يَخَافُ عِقَابًا لَيْسَ

کرتے۔ اور حکم دیتا ہے اپنی مخلوق میں جو چاہے۔ نہ ثواب کی امید رکھتا ہے اور نہ عقاب کا اندیشہ نہ

عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَا عَلَيْهِ حُكْمٌ فَكُلُّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ وَكُلُّ نِقْمَةٍ مِنْهُ

اس پر کسی کا حق ہے (بحسب الذات) اور نہ اس پر کسی کا حکم و نافرمانی ہے۔ اس کی طرف سے ہر نعمت اس کا فضل ہے اور ہر



عَدْلٌ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الْخَلْقِ لَيْسَ

انتہائی کارروائی سراسر عدل ہے۔ وہ نہیں پوچھا جاسکتا جو بھی کرے اور مخلوق پوچھی جاتی ہے۔ وہ موجود ہے مخلوق سے قبل۔ اس کے

لَهُ قَبْلُ وَلَا بَعْدٌ وَلَا فَوْقٌ وَلَا تَحْتَ وَلَا يَمِينٌ وَلَا شِمَالٌ وَلَا أَمَامٌ

یہ قبل نہیں اور نہ اس کے لیے بعد ہے۔ نہ اوپر۔ نہ نیچے۔ نہ دائیں اور نہ بائیں اور نہ آگے اور نہ

وَلَا خَلْفٌ وَلَا كُلٌّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا يُقَالُ مَتَى كَانَ وَلَا آيُنَ كَانَ وَلَا

پیچھے اور نہ وہ کل ہے اور نہ بعض۔ اور نہیں کہا جاسکتا کب تھا؟ اور نہ کہاں تھا؟ اور نہ

كَيْفَ كَانَ كَوْنِ الْأَكْوَانِ وَدَبَّرَ الزَّمَانَ لَا يَنْتَقِدُ بِالزَّمَانِ وَلَا

کیسے تھا؟ اس نے ہی سب موجودات کو موجود کیا اور زمانوں کی تدبیر کی وہ نہ زمانہ سے مقید ہے اور نہ

يَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ وَلَا يَلْحَقُهُ وَهُمْ وَلَا يُكَيِّفُهُ عَقْلٌ وَلَا يَنْحَصِرُ

زمانہ سے مختص ہے۔ نہ اس کو وہم لاحق ہو سکتا ہے اور نہ عقل اس کی کیفیت بیان کر سکتا ہے اور نہ ذہن

فِي الذِّهْنِ وَلَا يَتَمَثَّلُ فِي النَّفْسِ وَلَا يَتَصَوَّرُ فِي الْوَهْمِ وَلَا يُتَكَيَّفُ

میں محصور ہو سکتا ہے اور نہ نفس میں متمثل اور نہ وہم میں اس کا تصور آ سکتا ہے اور نہ عقل میں اس

فِي الْعَقْلِ وَلَا تَلْحَقُهُ الْأَوْهَامُ وَالْأَفْكَارُ جَلَّ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ

کی کیفیت اور نہ ہی اوہام و افکار کی اس تک رسائی ہو سکتی ہے۔ وہ بالاتر ہے شبیہ و نظیر سے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ يَا اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ وَإِسْمُكَ

نہیں اس کی مانند کوئی شئی وہی سنتے جانتے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے اور ذات تیری

أَعْظَمُ مِنْ دَرَكِ جَمِيعِ الْأَبْصَارِ وَكَفَى مَنَّا مِنْ حَيْثُ عَلِمْنَا بَوْسَعِ

عظیم تر ہے تمام ابصار کے ادراک سے۔ اور کافی ہے ہم سے ازرے ہمارے محدود علم کے

إِمْكَانِنَا فِي وَصْفِكَ بِنُورِ السِّرِّيِّ حَالًا وَفِعْلًا بِكُلِّ قَوْلٍ وَسَكُوتٍ

اپنی وسعت و امکان کے مطابق تیری توصیف کرنا اور سری کے ساتھ ازرے حال و فعل کے اور ساتھ ہر قول کے اور سکوت

الْفِعْلِيِّ وَالْحَالِيِّ كَمَا عَلَّمْتَنَا أَسْمَاءَكَ الْحُسْنَى وَأَيَاتِكَ الْعُظْمَى

فعل اور حال کے جیسے کرتے سکھائے ہیں اپنے اسماء حسنی اور آیات عظمیٰ



بَلْ آيَةٌ كَرِيمَةٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

بلکہ ایک ہی آیت کریمہ الحمد للہ یعنی تمام تعریفیات اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے رحمن رحیم ہے

مَا لِكَ يَوْمَ الدِّيْنِ ۙ بَلْ كَفِيْ مَتٰفِيْ وَصْفِكَ الْعَظِيْمِ مَحْضُ كَلِمَةٍ

قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بلکہ کافی ہے ہماری طرف سے تیرے وصف عظیم میں محض یہ کلمہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۙ بَلْ مَحْضُ اِسْمِ اللّٰهِ يٰ اَللّٰهُ يٰ اَللّٰهُ يٰ اَللّٰهُ اَنْتَ تَعْلَمُ

الحمد للہ " بلکہ محض نام اللہ کا یا اللہ - یا اللہ - یا اللہ - تو ہی جانتا ہے اپنے اسماء کمال

كَمَا لِحَقِيْقَةِ اَسْمَائِكَ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَقْبَلُ مِثْلًا كَمَا لِنَعْتِكَ

حقیقت غیب اور شہادت میں۔ پس قبول فرما ہم سے ساتھ اپنی نعت کمال اور

وَتَوْحِيْدِكَ يٰ اَتْمَامُ تَنَابُكَ بِوَصْفِكَ وَتَعْرِيفِكَ يٰ اَسْمَائِكَ

توحید کے ساتھ کمال کرنے ثناء و توصیف کے اور تعریف کرنے کے ساتھ تیرے اسماء عظیمہ

اَلْاَعْظَمِ كَلِمَةً وَّ اَحَدَةً اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

کے ایک ہی کلمہ کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ

لَهُ وَتَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور شہادت دیتے ہیں کہ محمد تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَرْحَمِ الَّذِيْ لَوْلَا هٗ لَمَّا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ نبی ارحم کہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو نہ

خُلِقَ الْجِنَّ وَالْاِنْسُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَالسَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَاللّٰهُمَّ

بیدا کئے جاتے جن و انسان اور نہ ملائکہ اور نہ ہی آسمان اور زمینیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اجماع پر جو محبوب

كَانَ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَبِّ الْمَسْنُوْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور سیاہ مٹی کے درمیان تھے۔ اے اللہ صلوات و





وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَكُونُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ محبوب کہ ہوں گے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ لَوَائِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تمام انبیاء و مرسلین قیامت کے دن ان کے لواء حمد کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

مَنْزِلَةٌ يَغِيْطُهُ بِهَا الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پانی وہ منزلت عظیم کہ رشک کریں گے اس کی وجہ سے ان سے سب اولین و آخرین۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَتْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ہو

بِهَ أُمَّتُهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَقَازِفُونَ عَظِيمًا مِنْهَا الْمُتَّقُونَ ط

گئی ان کی امت خیر ام اور عظیم کامیابی حاصل کی اس امت میں سے متقین نے

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً

پس نہیں جانتا کوئی نفس جو ان کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے بطور ان

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَصَلِّ عَلَى اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

کی جزائے اعمال کے۔ پس اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ و تسلیبات ہوں ان پر

كَلِمًا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكَلِمًا غَفَلَ عَنِ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ط وَعَلَىٰ إِلَهٍ

جب بھی ذکر کریں اس کا ذکر کرنے والے اور جب کبھی غافل ہوں اس کے ذکر سے غافل لوگ اور آپ کی آل

وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

اور اصحاب پر جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اس نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار فرمائی

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ط اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا

ہیں جن کے (راشخار کے) نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور وہ ان جنات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما



هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْمُبَارَكَاتُ عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ الْوَسِيمِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكَ

ہم سے اپنے حبیب محمد سراپا حسن پر بھیجی ہوئی یہ مبارک صلوات۔ ان پر تیری صلوات و

وَسَلَامُكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مَا دَامَ وَجْهُكَ الْكَرِيمُ وَارْتُقْنَا

تسلیات ہوں مطابق تعداد تیری مخلوقات کے (اور دائم ہوں) جس طرح تیری ذات کریم دائم ہے۔ اور عطا فرما ہیں

رُؤْيَتَهُ فِي النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ فِي الْيَوْمِ وَالصَّرِيحِ وَشَفَاعَتَهُ يَوْمَ

ان کا دیدار نیند اور بیداری میں۔ دن میں اور رات میں اور ان کی شفاعت جس دن

لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ وَاقْبِرْنَا

بہ نفع دے گا مال اور نہ ہی اولاد مگر جو حاضر ہوا بارگاہ الہی میں قلب سلیم کے ساتھ۔ اور ہمیں قبر نصیب فرما

فِي الْمَدِينَةِ الطَّيِّبَةِ عِنْدَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُبَشِّرِينَ بِالْقَوْمِ

مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کے پہلو میں جنہیں بشارت دی گئی ہے عظیم کامیابی

الْعَظِيمِ ۝ وَوَقِّتْنَا لِلْمُهَاجِرَةِ فِيكَ وَالتَّزْكِيَةِ وَالْأَعْمَالِ

کی۔ اور ہمیں تزیینت عطا فرما اپنی ذات کے لیے مجاہدہ و ریاضت اور تزکیہ کی نیز اعمال

الصَّالِحَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا غَطَاءَ

صالحہ اور توبہ و استغفار کی۔ اور دور فرما ہمارے قلوب پر سے غفلت کے

الْغَفْلَةِ وَاجْعَلْهَا مَطَالِعَ الْأَنْوَارِ وَمَعَادِنَ الْأَسْرَارِ وَأَسْرِنَا

پر دے اور انہیں بنا دے مطالعہ انوار اور معادن اسرار اور دکھلا ہمیں

وَجْهَكَ فِي الدَّرَاسِينَ كَالْأَوْلِيَاءِ الْكِبَارِ ۝ إِنَّهَا أَمْرٌ إِذَا أَسْرَادُ

اپنی ذات اقدس دارین میں مانند اولیاء کبار کے۔ بے شک امر اس کا یہ ہے جب ارادہ

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِنَا

فرمائے کسی چیز کا کہ فرمائے اسے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ بنا دے ہماری صلوات کو

بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَسَلَامِنَا بِأَحْسَنِ سَلَامٍ ۝ وَدَعَائِنَا بِأَكْمَلِ

افضل ترین صلوات۔ اور سلاموں کو حسین ترین سلام اور ہماری دُعا کو کامل



دُعَاءٍ وَاقْعَةٍ لِّجَمِيعِ اَوْقَاتِنَا كَمَا اَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

ترجمہ دعا جو محیط ہوں ہمارے تمام اوقات کو جیسے کہ تو نے ہمیں حکم دیا ان پر صلوٰۃ و سلام

عَلَيْهِ وَاَجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَسَلَامِنَا وَاقْعًا بَعْدَ دِكْرِكَ

کا۔ اور بناوے ہمارے تمام صلوات و تسلیمات کو اپنی مخلوقات کے اعداؤں سے اس

خَلْقِكَ اَلْفَ اَلْفٍ مَّرَّةٍ فِي كُلِّ اِنْ بِقَدْرِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

لاکھ گن ہر لحظہ و ہر آن میں مطابق تعداد اپنے جملہ معلومات کے ہمیشہ

اِلَى اَبَدِ الْاَبَدِيْنَ كَمَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ مِنْكَ وَمِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ

ہمیشہ تک جیسے کہ لائق ہے تیری طرف سے ان پر اور تمام اہل ایمان کی طرف سے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَللّٰهُ تَقَبَّلْ مِنَّا جَمِيعَ صَلَاتِنَا

برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ قبول فرما ہم سے ہماری تمام صلوات اور

وَسَلَامِنَا وَجَمِيعِ دَعْوَاتِنَا وَنِيَّاتِنَا فَاقْضِ لَنَا وَاَعْطِنَا

تسلیمات اور تمام دعوات اور اچھی نيات پس پوری فرما ہمارے لیے اور عطا فرما ہمیں

جَمِيعَ حَاجَاتِنَا بِالْخَيْرِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ وَنَصْرَتِكَ وَحِفْظِكَ

ہماری تمام حاجات خیر ساتھ اپنی رحمت و کرم نوازی اور نصرت و حفاظت کے اور

وَأَمْنِكَ وَعِزَّتِكَ وَعَظْمَتِكَ وَفَضْلِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

امن و عزت اور عظمت و فضل کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔

وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْحَافِظِيْنَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِيْنَ

اے بہترین مددگار۔ اے بہترین محافظ۔ اے فریادوں کے فریادرس

يَا اَللّٰهُ لَا تَدْرُنَا وَلَا تَكَلُنَا اِلَى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاكَلُنَا

اے اللہ ہمیں نہ چھوڑ اور نہ سوچ ہمارے نفوس کی طرف ہلک بھینکنے کی دیر بھی اور ہماری حفاظت

كَلَاةَ الْوَلِيْدِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوْسِ رَبُّنَا وَرَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ

فرما جیسے (باب) بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاک ہے شہنشاہ۔ بہت پاکیزہ۔ ہمارا رب ہے اور تمام ملائکہ کا



وَالرُّوحِ يَا بَدُوحَ يَا سُبُوحَ يَا قُدُّوسَ اقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَاسِطَ

بالمعوم اور روح امین کا بالخصوص۔ یا بدوح۔ یا سبوح۔ یا قدوس میں تجھے قسم دیتا ہوں

بِالسَّبْعِ الْهَوِيَّةِ وَبِالسَّبْعِ الْأَرْضِيَّةِ شَمُوخًا أَشْخَتْ طَائِشٌ

لے پھیلانے والے سات آسمانوں کے اور سات طبقات ارضیہ کے جو اتنے بلند ہیں کہ بلندی کی انتہا کو پہنچے

طَاشَتْ يَا ذَا التَّوَالِ وَالنَّعْمِ يَا دُودًا بَسِطِ النِّعْمَةَ وَنَزِيلِ

ہونے میں اور اتنے پست ہیں کہ نیستی کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لے جو در عطا اور نعمتوں والے۔ لے جو در اپنی

النِّعْمَةِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اسْتَجِبْ

نعمت عام فرما اور عذاب و عقاب دور فرما۔ یا حنان۔ یا منان۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ میری

دَعْوَتِي اللَّهُمَّ اجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْرًا

دعا قبول فرما۔ اے اللہ مجھے اجر عطا کر میری مصیبت میں اور مجھے بہتر بدل عطا

مَنْهَا اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي وَاجْرُنِي فِيهَا

فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی مصیبت پر ثواب کا طلبگار ہوں مجھے اس کا اجر عطا فرما

وَأَبْدَلْنِي مِنْهَا خَيْرًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ

اور اس کا بہتر بدل عطا کر۔ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اور کے لیے حمد ہے۔ پاک ہے

اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ

اللہ بلند شان عظمت والا اور اس کے لیے حمد ہے۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے رب کے

ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَ

ہر گناہ کے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لے اللہ بنا دے ہماری تمام صلوات و

سَلَامِنَا وَدُعَائِنَا بِأَفْضَلِ صَلَاةٍ وَأَحْسَنِ سَلَامٍ وَأَكْمَلِ

تسلیمات اور دعاؤں کو افضل صلوات اور حسین ترین تسلیمات اور کامل ترین

دُعَاءٍ وَاقْعَةٍ لِجَمِيعِ أَوْقَاتِنَا وَحَالَاتِنَا كَمَا أَمَرْتَنَا فِي

دعوات جو محیط ہوں ہمارے تمام اوقات و حالات کو جیسے کہ تو نے ہمیں امر فرمایا



كُلِّ وَقْتٍ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

ہر وقت ان پر صلوٰۃ و سلام کا برکت یا الرحم الراحمین

الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

اے اللہ اے قبول کرنے والے صلوٰۃ و سلام اور برکت عطا فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ أَحَدُ أَثَارِهَا الْمُرْتَبَةُ عَلَيْهَا أَنْ تُعْطَى

سیدنا محمد کو ایسی صلوٰۃ کہ اس کے آثار مرتبہ میں سے ایک یہ ہو کہ عطا کرے

سُؤَالَ مَنْ تَوَسَّلَ بِاسْمِهِ الْمُبَارَكِ إِلَى حَضْرَتِكَ وَسَلَامًا

مطلوب پر اس شخص کو جو وسیلہ پڑے ان کے اسم مبارک کا تیری بارگاہ میں۔ اور ایسی سلام

مِنْ فُرُوعِهِ الْمُنْشَعِبَةِ أَنْ تُسَلِّمَ مَنْ سَأَلَكَ مُتَوَسِّلًا بِهِ مِنْ

کہ جس پر متفرع امور میں سے یہ بھی ہو کہ تو سلامت رکھے ان کے توسل سے سوال کرنے والے کو

أَهْلِ الْإِبْتِلَاءِ مِمَّا يَخَافُ وَمِنْ سَائِرِ الْأَقَابِ وَالْعَاهَاتِ وَ

اہل ابتلاء کو خوفناک امر سے اور جملہ آفات و بیات سے اور

مُبَارَكَةً مِمَّنْ لَوَانِ مَهَا الْبَيْتَةِ أَنْ تَجْعَلَ فِي رِزْقِ الْمُتَوَسِّلِ بِهِ

ایسی برکت کہ جس کے لوازم میں سے یہ ہو کہ ان کے ساتھ توسل کرتے ہوئے اپنی بارگاہ کی طرف

إِلَى حَضْرَتِكَ بَرَكَةً عَامَّةً تَامَّةً اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

راغب کے رزق میں عام و تام برکت عطا فرمائے۔ اللہم۔ یا اللہ۔ یا رحمن۔ یا رحیم

يَا شَافِي صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى خَلِيكَ وَصَفِيكَ وَحَبِيبِكَ

یا شافی صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما اپنے خلیل و صفی اور حبیب پر

وَنَجِيكَ مُحَمَّدٌ حَمْدُ اللَّهِ وَحَمْدُ اللَّهِ وَشَهَادَةُ اللَّهِ وَشَهَادَةُ

اور ہسٹلام محمد پر جنہوں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے ان کی حمد کی۔ انہوں اللہ کو دیکھا اور اللہ نے کا حقہ

اللَّهُ لَا يَحْمَدُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ وَلَا يَشْهَدُهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

انہیں دیکھا نہیں حمد کر سکتے اللہ تعالیٰ کی کا حقہ مگر وہی اور نہیں دیکھ سکتا انہیں کا حقہ مگر اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام



وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ اسْتَفَاضَ مِنْهُ الْوُجُودَ وَالشُّهُودَ

اور برکت نازل فرما آپ پر اور ان پر جنہوں نے آپ سے وجود و شہود کا فیض پایا

عَلَى حَسْبِ اسْتِعْدَادِهِ اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

اپنی اپنی استعداد کے مطابق - اللہم یا اللہ - یا رحمن - یا رحیم

يَا شَافِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ

یا شافی صلوٰۃ کاملہ نازل فرما محمد کریم پر اور آپ کے آل و اصحاب اور ازواج و دعوات

وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَاشْفِنِي

اور تمام متبعین پر اور سلامتی و برکت نازل فرما آپ پر اور ان سب پر اور مجھے شفا کے کال

شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا بِحُرْمَتِهِ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

فی الفور عطا فرما بطویل ان کی حرمت و عزت کے آمین یا رب العالمین -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ صَلَوةً وَسَلَامًا وَبَرَكَةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر جو صلوٰۃ و سلام اور برکت

كُلُّهَا تَأْتِيهِ مِنْ مَحْضِ فَضْلِكَ وَحُبِّكَ وَعَلَى آلِهِ

تمام سرزد ہو تیرے فضل خالص اور حب خاص سے اور آپ کے

وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنُ

اہل و اصحاب اور تمام اتباع پر - اللہم یا اللہ یا رحمن

يَا رَحِيمُ يَا شَافِي صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

یا رحیم - یا شافی صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر - صلوٰۃ جیسے اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور سلام جیسے اور سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

محمد پر صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم - اور برکت نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

سیدنا محمد پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ صلوات کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو صلوات کہ  
شَامِلَةً لِجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا

شامل ہو تمام صلوات کو اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر ایسی سلامتی جو اپنے جلو میں  
مُتَضَمِّنَةً لِجَمِيعِ التَّسْلِيمَاتِ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرَكَّةً

یہ ہوئے ہو تمام سلامتیوں کو اور برکت نازل فرما سیدنا محمد پر ایسی برکت  
حَاوِيَةً لِجَمِيعِ الْبَرَكَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

جو محیط ہو تمام برکات کو۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکت نازل فرما  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ صَلَاةً وَسَلَامًا وَبِرَكَّةً تَأْشِيَةً مِّنْ

اپنے حبیب سیدنا محمد پر ایسی صلوات و سلامتی اور برکت جو سرزد ہو  
عِلْمِكَ الْقَدِيمِ وَفَضْلِكَ الْعَظِيمِ مُتَضَمِّنَةً لِدَقَائِقِ

تیرے علم قدیم اور فضل عظیم سے سیٹے ہوئے ہو تیری وسیع اور عام  
رَحْمَتِكَ الْعَامَّةِ الْوَاسِعَةِ وَأَسْرَائِرِ لَطْفِكَ

رحمت کے دقائق کو اور تیرے محیط اور کامل لطف کے  
الشَّامِلِ الْكَامِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

اسرار کو۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکت نازل فرما  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

سیدنا محمد پر جو لائق ہیں صلوات و تسلیات اور  
وَالْبَرَكَاتِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ

برکات کے ہر ایک سے پہلے بھی اور ہر ایک کے بعد بھی اور ہر ایک کے ساتھ بھی



أَهْلِيَّةً كَامِلَةً تَامَّةً بِجِسْمِهِ وَبِرُوحِهِ وَبِقَلْبِهِ وَبِجَمِيعِ

بطور کامل و مکمل اہلیت کے باعتبار اپنے جسم اقدس، روح انور اور قلب منیر کے اور تمام

لَطَائِفِهِ وَبِحَقَائِقِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَالِبُ عَلَى الْكُلِّ

لطائف و حقائق کے۔ اے اللہ تو ہی غالب ہے سب پر

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ تو ہی قادر ہے سب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور سیدنا محمد کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَثْرَةِ

اصحاب پر اور سیدنا محمد کے ازواج پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ صُورَةً أَوْ مَعْنَىٰ

عترت و اولاد پر اور جو بھی آپ کی طرف منسوب ہیں از روئے صورت یا معنی کے

صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَعَظَّمْ وَمَجِّدْ وَ

درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ اور سلام اور برکات اور انہیں عظمت و بزرگی اور

كَرِّمَ أَلْفَ مَرَّةٍ بَعْدَ كُلِّ ذِكْرٍ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي

اکرام عطا فرمائے ہر ہر ذرہ کی گنتی و شمار سے دس لاکھ گنا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں

عَاجِزٌ عَنِ إِقَامَةِ سَبَابِ صِحَّتِي وَعَافِيَّتِي إِلَّا أَنْ تُوَسَّلَ

عاجز ہوں اپنی صحت و عافیت کے اسباب مہیا کرنے سے مگر میں نے وسیلہ بنایا ہے

بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ عَلَىٰ مَنْ هُوَ لِهَا أَهْلٌ وَلَا يَرُدُّ سَوَالُ

اس ذات اقدس کی صلوات و تسلیمات کو جو ان کے کا حق اہل ہیں۔ اور رو نہیں کیا جاتا سوال

الْمُتَوَسِّلِ بِمُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

توسل کرنے والوں کا ساتھ محمد مختار کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم





فَاجِبْ سُؤَالِي وَاشْفِنِي وَقَوِّنِي وَصَحِّحْنِي وَاجْعَلْنِي طَوِيلَ

لہذا میرا سوال پورا فرما اور مجھے شفا۔ قوت اور صحت عطا فرما اور مجھے بنا طویل عمر والا

العَمْرُ فِي مَحَبَّتِكَ وَالْإِسْتِقَامَةَ عَلَى شَرِيعَتِكَ اللَّهُمَّ

اپنی محبت میں اور شریعت پر ثابت قدمی میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا خَالِقَ إِلَّا أَنْتَ

صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر۔ اے اللہ نہیں خالق سوائے تیرے

صَلَوَاتِكَ وَتَسْلِيمَاتِكَ وَمُبَارَكَاتِكَ وَتَعْظِيمَاتِكَ وَتَكْرِيمَاتِكَ

تیری صلوات۔ تسلیمات۔ برکات اور تعظیمات و تکریمات اور

وَتَمْجِيدَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

تہجیدات ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ

إِنِّي أَتَوَسَّلُ بِحَبِيبِكَ الَّذِي هُوَ بِحَقِيقَتِهِ لَيْسَ سِوَاكَ

بیشک میں تو سئل کرتا ہوں تیرے حبیب کے ساتھ جو حقیقت میں تجھ سے جدا نہیں ہے

وَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً بِحَقَائِقِهَا فَهِيَ بِحَقَائِقِهَا

اور دیگر تمام اشیاء اگرچہ فی حد ذاتہ شرف والی ہی ہیں مگر وہ اپنے حقائق کے لحاظ سے بھی

أَيْضًا سِوَاكَ كَمَا أَنَّهَا بِصُورِهَا سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَقِيقَةَ

تیرے سوا ہیں جیسے کہ صورتوں کے لحاظ سے جدا ہیں۔ اے اللہ بیشک تیرے حبیب

حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْوَحْدَةُ

محمد کی حقیقت۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہی وحدت کبریٰ

الْكُبْرَى الدَّائِيَّةُ الَّتِي لَا تَزِيدُ عَلَى ذَاتِكَ وَتَشْتَمِلُ

ذاتیہ ہے جو تیری ذات پر زائد نہیں ہے اور مشتمل ہے ان تمام کمالات پر بطور نزل و عکس

عَلَى مَا فِي ذَاتِكَ فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے اجو تیری ذات میں ہیں۔ پس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نے



خَلَقْتَهُ مِنْ ذَاتِكَ وَغَيْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیدا فرمایا اپنے (فیض) ذات سے اور ان کے ماسوا کو پیدا فرمایا

خَلَقْتَهُ مِنْ صِفَاتِكَ الزَّائِدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ

اپنی صفات زائدہ (کے فیض) سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اس ذات

خَلَقْتَهُ مِنْ ذَاتِكَ وَأَشْفِنِي بِحُرْمَتِهِ شِفَاءً تَامًا

پر جسے تو اپنی ذات (کے فیض) سے پیدا فرمایا اور مجھے شفا عطا فرما بطریق ان کی عزت و حرمت کے فوری

كَامِلًا عَاجِلًا بِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ عِنْدَكَ وَعِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ

اور کامل شفا بطریق ان کی عزت و عظمت کے جو تیرے نزدیک اور تمام انبیاء و مرسلین کے

وَالْمُرْسَلِينَ وَعِنْدَ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعِنْدَ مَلَائِكَتِكَ

نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالح بندوں اور مقرب فرشتوں اور

الْمُقَرَّبِينَ وَعِنْدَ كُلِّ مَلِكٍ الْعَوَامِينَ وَمَلَائِكَةِ الْأَعْوَانِينَ

عام ملائکہ اور معاونین ملائکہ کے نزدیک ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعَزَّ النَّاسِ نَفَرًا اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو سب انسانوں سے عزیز تر ہیں جماعت کے لحاظ سے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَدَّدَ مِنَ الْعِزِّ الْمَكِينِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں پر پائیدار عزت کا ہار پہنا جو

بِأَحْسَنِ قِلَادَةِ التَّزْيِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا


حسین ترین زیبائش والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي خَفَقَ لَهُ الْعَرْشُ بِكِبَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لَمَّا وَطِئَتْهُ

محمد پر جن کے لیے جھوم اٹھا عرش اعظم اپنے کمال و عظمت کے باوجود جب آپ نے اس پر رکھے

بِأَقْدَامِهِ وَأَعَزَّهُ بِأَوْلَى عِزِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنے مبارک قدم اور اسے عزت بخشی اپنے اعلیٰ عزم کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّى بِنُورِ حُلَّةِ السِّيَادَةِ فَتَالَهَا

سیدنا محمد پر جو جلوہ گر ہوئے سیادت والی خلعت کے ساتھ پس اس کو حاصل کر لیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُوِّجِرُ بِتَاجِ الْعِزَّةِ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں عزت کا تاج پہنایا گیا

فَادْرَكَ كَمَا لَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پس آپ نے کمال عزت کا احاطہ فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

رَاتَعَ فِي رِيَاضِ الْعِزِّ جَوَادُ عَزْمِهِ اللَّهُمَّ وَبِجَهْدِكَ عَلَى

اسپ عزمت عزت کے سبزہ زاروں میں چرا۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے

مَا جَعَلْتَ حَبِيبَكَ بِحَيْثُ لَوْ لَا حَقِيقَتُهُ لَمَا تَحَقَّقَ الظُّهُورُ

اپنے حبیب کو اس مقام و مرتبہ میں بنانے پر کہ اگر ان کی حقیقت موجود نہ ہوتی تو ظہور کائنات نہ ہوتا

وَلَوْ لَا ظِلُّهُ الْأَوَّلُ لَمَا ظَهَرَتْ الرَّبُوبِيَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور اگر ان کا نکل اول نہ ہوتا تو تیری ربوبیت کا ظہور نہ ہوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَكَ طَرِيقَ الْعِزِّ وَالْبَسَالَةِ

سیدنا محمد پر جو عزت اور جو انردی کی راہ پر چلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَنْوَارِ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو نورانی مقام اور

وَالْوَجْهِ الْأَقْمَرِ وَصَاحِبِ الْجَبِينِ الْأَزْهَرِ وَصَاحِبِ

چاند جیسے نورانی چہرے والے ہیں اور روشن جبین کے مالک اور حوض کوثر

الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ وَصَاحِبِ الْمِحْرَابِ وَالْمُنْبَرِ عِدَدِ نَبَاتِ

اور نمر کوثر والے ہیں اور صاحب محراب و منبر ہیں ایسی صلوٰۃ جو زمین

الْأَرْضِ وَأُورَاقِ الشَّجَرِ وَعِدَدِ الرَّمْلِ وَالْحَصَايِرِ وَالْمَدَائِرِ

کے پودوں اور درختوں کے پتوں کی گنتی کے مطابق اور ریت کے ذرات اور کنکریوں اور ڈھیلوں کی مقدار



وَعَدَمَا يَطْلَعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ہو۔ اور ان تمام اشیاء کی گنتی کے مطابق جن پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں

التَّوْفِيقَ بِمَحَابَّتِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ

تجھ سے تیرے پسندیدہ اعمال کی توفیق کا۔ اور کامل توکل کا تیری ذات پر اور تیرے ساتھ

الظَّنِّ بِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ

حسن ظن کا۔ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کامل

الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَعَفْوِكَ وَمَغْفِرَتِكَ

وضو۔ کامل نماز اور کامل رضا مندی اور عفو و مغفرت کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ فَإِنَّ لِّلسَّائِلِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے در کے سوالیوں کے طفیل کیونکہ تیرے سائل کا

عَلَيْكَ حَقًّا أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلَتْ

تجھ پر حق ہے (از روئے تیرے فضل کے) جس میں بندہ اور باندی کی خشکی یا تری میں رہنے والوں کی تونے

دَعْوَتَهُمْ وَأَسْتَجِبَتْ دُعَائِهِمْ أَنْ تُشْرِكُنَا فِي صَالِحِ مَا يَدْعُونَكَ

دعوت قبول کی اور دعا مستجاب فرمائی ہیں بھی ان کی نیک دعاؤں میں شریک فرما اور

فِيهِ وَأَنْ تُشْرِكَهُمْ فِي صَالِحِ مَا نَدْعُوكَ فِيهِ وَأَنْ تُعَافِينَا

انہیں ہماری نیک دعاؤں میں حصہ دار بنا اور عافیت عطا فرما ہمیں بھی اور انہیں بھی

وَأَيَّاهُمْ وَأَنْ تَقْبَلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَأَنْ تَتَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ

اور قبول فرما ہم سے بھی اور ان سے بھی اور درگزر فرما ہم سے بھی اور ان سے بھی

فَإِنَّا أُمَّتًا مِّمَّا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

کیونکہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تو نے اتاری اور تیرے رسول کی اتباع کی پس ہمیں اہل شہادت میں شمار فرما

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى وَاعْفِرْ لِي فِي

اے اللہ مجھے راہ دکھلا کامل ہدایت کے ساتھ اور پاک فرما کامل تقویٰ کے ساتھ اور میرے لیے مغفرت فرما



الْآخِرَةَ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

آخرت اور دنیا میں۔ اے اللہ ہم پر پھیلا اور عام فرما اپنی برکات اور رحمتیں

وَفَضْلِكَ وَبِرْزُقِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصْدِي وَنَصِيرِي بِكَ

اور فضل و رزق کو۔ اے اللہ تو ہی میرا دست و بازو اور ناصر ہے۔ تیری توفیق

أَحْوَلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

سے طاقت پاتا ہوں اور تیری توفیق سے ہی حملہ آور ہوتا ہوں اور تیری تقویت کے ساتھ قتال کرتا ہوں اور نہیں قوت و طاقت

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَنَمِيْنَهُ فِي قُلُوبِنَا وَكِرَّةُ إِلَيْنَا

مگر ساتھ تیرے۔ اے اللہ محبوب بنا دے ہمارے لیے ایمان کو اور اسے مزین فرما ہمارے قلوب میں اور ناپسندیدہ بنا ہمارے

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَتَوَفَّنَا

نزیک کفر و فسق اور نافرمانی کو اور ہمیں سیدھی راہ والوں سے بنا اور ہمیں وفات دینا حالت اسلام

مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ

پر اور لاحق فرما صالحین کے ساتھ درآئنا لیکہ نہ رسوا ہونے والے ہوں اور نہ فتنہ میں مبتلا

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي

اے اللہ بیشک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا۔ میری پیشانی

بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ

تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور میرے حق میں تیرا فیصلہ سراسر عدل ہے۔ اے اللہ نہیں سہل

إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ

کوئی امر مگر جس کو تو سہل فرمائے اور تو ہی سخت کو نرم بناتا ہے جب چاہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَدِيثُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

نہیں معبود برحق مگر اللہ حلیم کریم۔ پاک ہے اللہ مالک عرش عظیم کا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما معاصی کے ترک کرنے میں



مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَرْحَمَنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي وَأَرْزُقَنِي

ہمیشہ کے لیے جب تک مجھے باقی رکھے اور مجھ پر رحم فرما کر میں تکلف کروں بے مقصد امور کا۔ اور مجھے نصیب

حَسَنَ النَّظَرِ فِيهَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ

فرما حسن نظر ان امور میں جو تجھے راضی کر دیں مجھ سے۔ اے اللہ بیشک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف

مِنَ الْمَعَاصِي لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ

جلد معاصی سے میں کبھی ادھر رجوع نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیری مغفرت زیادہ وسیع ہے

مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتِكَ أَرْجِي مِنْ عِنْدَيْكَ مِنْ عَمَلِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ

میرے گناہوں سے اور تیری رحمت زیادہ امید کے لائق ہے میرے اعمال سے۔ اے اللہ تو درگزر

عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ

فرمانے والا ہے۔ عفو کو محبوب رکھتا ہے پس ہم سے درگزر فرما میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے کہ نہیں کوئی معبود برحق

إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ

مگر وہی ہی حی قیوم اور توبہ کرتا ہوں اس کے۔ اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر توجہ فرما

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اسْتَرْعُوا رَأْيِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي

بیشک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ میرے عیوب کو چھپا۔ اور تسکین دے میری پریشانیاں

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ وَأَنْصَرُ مَنْ

اے اللہ تو ہی حق دار ہے ذکر کا اور حق دار ہے عبادت کا اور بہت مدد دینے والا ہے تمام مدد طلب

أَبْتَغِي وَأَرْأفُ مَنْ مَلَكَ وَأَجُودُ مَنْ سَأَلَ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى

کئے ہوؤں سے اور زیادہ مہربان ہے سب مالکوں سے اور زیادہ جود و عطا والا ہے تمام سوال کئے ہوؤں سے اور وسیع تر عطا والا ہے سب عطا

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرْكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ

کرنے والوں سے۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے ذنوب سے اور سائل ہوں تیری رحمت کا۔ اے اللہ

اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالشَّرِّ وَالشَّرِيرِ

ادا فرما ہمارا قرض اور بے نیاز کر فقر و کفر سے اور شر و شریروں سے۔



اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

اے اللہ اسے دلوں میں متصرف ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر  
بِرَحْمَتِكَ وَعَظَمَتِكَ وَعِزَّتِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي هُوَ

ساتھ اپنی رحمت و عظمت اور عزت و غلبہ کے۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما وہ

ذَنْبٌ عَظِيمٌ كَثِيرٌ مِّنْ عَدَدِ الرَّمْلِ وَالنَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْمَدَارِ

گناہ اگرچہ زیادہ عظیم و کثیر ہیں ریت کے ذرات۔ چوہنیوں اور پتھروں۔ ڈھیلوں

وَالشَّجَرِ وَالذَّوَابِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ وَذُنُوبِي كَثِيرٌ

درختوں اور جانوروں وغیرہ کی تعداد سے جو اللہ ہی کے علم میں ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہیں

مِّنْ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ وَقَلِيلٌ مِّنْ كَرَمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ الْحَقْنِي

ہر ہر ذرہ کائنات سے (لیکن) وہ قلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم و بخشش اور مغفرت۔ اے اللہ مجھے لاتی فرما

بِرُمْرَةٍ تَكُونُ رَعْوَسَاءَ الرُّوحَانِيِّينَ تَهْنِئَةً وَعُظْمَاءَ الْمُقَرَّبِينَ

اس جماعت کے ساتھ کہ روحانیوں کے روساء انہیں مبارکباد دیں اور مقربین میں سے عظماء انہیں ہدیے

تُحْيِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پیش کریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَدَلَّى لَهُ رَفْرَفٌ مِّنَ السُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ وَمُكَلَّلًا

پر جس محبوب کے لیے ازلی رفرت سبز ریشم سے جو مرصع تھی

بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالْجَوْهَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

موتیوں اور یاقوت و جواہر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَصَبَ عَلَى الْعَرْشِ لِوَأَاهِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کا پرچم نصب ہوا عرش اعظم پر اور

جُدِبَتْ عَلَيْهِ يَارْتَفَاعِهِ إِلَى عَرْشِ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کھینچے گئے اس کے رے اس کو عرش مولیٰ تک بلند کرنے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اُرْتَفَعَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو فائز ہوئے

بِسُرَّاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۙ وَجَزَعُ الشَّرَفِ يَتَسَاقَطُ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا ۙ

اپنے اسرار کے ذریعے بلند ترین مکان پر اور شرف و بزرگی کے تناور درخت ان پر تازہ کھجوریں ٹاڑ کر رہے تھے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي اَعْطَى الرَّمْلَ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِهِ لِلاَّكْلِ فَصَارَ الْيَنِّ مِّنْ

کہ جس محبوب نے ریت دی اپنے صحابہ کی جماعت کو کھانے کے لیے تو وہ کھن سے

الرَّبْدِ وَاَحْلَىٰ مِّنَ الْعَسَلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیادہ نرم و ملائم اور شہد سے شیریں تر ہوگئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِصْطَفَا اللّٰهُ بِقُدْسِهِ وَاَفْرَعُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں اللہ نے چن لیا ان کے تقدس کی وجہ سے اور انہیں

اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَأَ بِسَ اُنْسِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پہنائے اپنے انس و محبت کے ملبوسات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَاٰ لَاتِ الْاَنْوَارِ الرَّبَّانِيَّةِ

پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے ارد گرد چلے انوار ربانیہ

حَوَالِيْهِ لَهَا اتَّحَفَهُ اللّٰهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَاِلَيْهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

جب اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اپنے ذات اور بارگاہ والا کے قرب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَهُ اللّٰهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے مشرف فرمایا تحفہ

بِالتَّحِيَّةِ وَحَيَاةٍ وَنُورٍ اللّٰهُ الْاَنْوَارِ بِنُورِ مَحْيَاةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

کے ساتھ اور ہدیہ دیا۔ اور انوار کو منور فرمایا ان کے چہرہ انور کی ضیاء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و





سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَازَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو فائز ہوئے

بِوَصْلِ مُمْسْتَرَعِنِ الْعِيُونِ وَأَظْلَعِ عَلٰی سِرِّكُمْ يَهْجَسُ بِخَوَاطِرِ

اپنے وصل سے جو خلائق کی نظروں سے مخفی تھا اور مطیع ہوئے ایسے رازوں پر جن کا گز نہیں ہوا تھا

الظُّنُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ظنون کے قلوب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَدَّ ذِكْرًا مِّنَ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ وَرَأَاهُ بَعِيْنِ

کی آل پر جو محبوب لطف اندوز ہوئے ملک جلیل کی ہمکلامی سے اور دیدار کیا اس کا

رَأْسَهُ بِغَيْرِ تَشْبِيْهِ وَلَا تَمْثِيْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

چشم سے بغیر تشبیہ و تمثیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْحَقُّ بِمَنْتَهٰهُ إِلَيْهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں بلایا حق تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی طرف افرماتے

لَا تَخْلَعُ نَعْلَيْكَ لِمَاهِمَّ بِخَلْعِ نَعْلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ہوئے اگر نہ اتاریے اپنے جوتے جبکہ اپنے ان کے اتارنے کا ارادہ کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ مَوْلَاهُ الْبُسُّ نَعْلَيْكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں پکار کر کہا ان کے مولیٰ نے اپنے جوتے پہن لیئے

وَطَاطِبَسَاطِ عَرْشِيْ بِنَعْلَيْكَ وَقَدْ مَيَّبَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور میرے بساط عرش کو اپنے جوڑوں اور قدموں سے مشرف کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْحَقُّ مَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں پکار کر فرمایا حق تعالیٰ نے میں نے

خَلَقْتُ الْعَرْشَ إِلَّا مِنْ أَجْلِكَ وَأَنْتَ مُشْتَاقٌ إِلَىٰ مَسِّ نَعْلَيْكَ

عرش کو صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مشتاق ہے تمہارے جوتوں سے مس ہونے کا



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي نَادَاهُ مَوْلَاهُ يَا أَكْرَمَ رُسُلِي خَلَقْتَ الْكُلَّ مِنْ

جنہیں پکار کر فرمایا ان کے مولیٰ نے اے میرے تمام رسل سے مکرم ترین میں نے سب کو پیدا کیا ہے تیرے

أَجْلِكَ وَخَلَقْتِكَ لِأَجْلِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یے اور تجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ حَوْسُ الْخِيَامِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں میام خیان کی حوروں نے پکار کر عرض کیا

نَحْنُ نَنْتَظِرُ قَدْ وَمَكَ مِنْذُ سَبْعَةِ آلَافِ عَامٍ اللَّهُمَّ رَبِّ

ہم منتظر ہیں جناب کی تشریف آوری کی سات ہزار سال سے۔ اے اللہ اے مالک

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ارْتَى أَعَهْدُ إِلَيْكَ

آسمانوں اور زمینوں کے۔ عالم غیب و شہادت کے میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں

فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ارْتَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

اپنی دنیوی زندگی میں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر تو یگانہ

لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنَّ

نہیں کوئی شریک تیرے لیے اور محمد تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں پس تو اگر

تَكَلِّمَنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبَنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدَنِي مِنَ الْخَيْرِ وَ

سوچنے مجھے میرے نفس کو تو وہ مجھے شر کے قریب کر دے اور خیر سے دور کر دے گا اور

إِنِّي لَا أَتَّقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میں صرف اور صرف تیری رحمت و مغفرت پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ فَخْرًا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے فخر الانبیاء



الْأَنْبِيَاءَ وَأَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءَ وَأَكْرَمَ الْأَنْبِيَاءَ وَأَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ

اشرف الانبياء اور اکرم الانبياء - افضل الانبياء

وَسَمَّسَ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور شمس الانبياء - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِأَصْحَابِي لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا - میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص وقت

لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ وَقَالَ أَيْكُمْ مِثْلِي

ہوتا ہے - نہیں گنہگار تھا میری اس وقت میں کوئی مقرب فرشتہ اور نہ نبی مرسل اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری مانند ہے

أَنَا أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِي يَا رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى

میں راتیں اللہ کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے - لے میرے رب محمد مصطفیٰ کے صدقے

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بَعْدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

میں ان پر افضل ترین صلوات و تسلیات ہوں ہر ہرزہ کائنات کی تعداد سے دس لاکھ گنا

أَعْطِنِي لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي كُلِّ

مجھے عطا فرما اپنے دیدار ذات کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق جو ہر لمحہ

لِحُجَّةٍ يَزِيدُ وَيُضَاعَفُ بِحُضْرِكَ وَأِحْسَانِكَ مَا عَلَى

بڑھے اور نماند ہوتا رہے اپنے خالص فضل و احسان کے طفیل جو مصطفیٰ

الْمُصْطَفَى يَا رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ الْفَقِيرَ الْوَجِلَ الضَّعِيفَ

کریم پر ہے - لے میرے رب بخش اور رحم فرما محتاج - ترسناک اور کمزور پر

الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جس کا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ إِلَهِي لَا يَعْتَمِدُ قَلْبِي وَقُلُوبُ عِبَادِكَ إِذَا سُئِلَ

لے میرے الہ میرا دل اور تمام بندوں کے دل اس پر اعتماد کیے تیار نہیں ہیں



ثَنِي بِرَّ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَالِهِ

کہ جب تجھ سے کوئی شئی نام محمد کے وسیلہ سے طلب کی جائے اور تو وہ عطا نہ کرے

مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ وَلَمْ تُعْطِهِ الْإِلهِي فَأَيُّ الْعَاصِي الْمُنْذِبِ

ان پر صلوٰۃ و سلام ہو تیری طرف سے اور تیرے تمام بندوں کی طرف سے جیسے کہ ان کے کمال کے لائق ہے اے میرے

إِذَا سَأَلَكَ عُفْرَانُكَ وَرَضَائِكَ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

الہ کو نساگنا بگا رہے کہ جس نے تجھ سے مغفرت اور رضامندی کا سوال کیا ہو بطفیل نام محمد کے علیہ الصلوٰۃ

وَالسَّلَامُ وَلَمْ تَغْفِرْهُ وَلَمْ تَرْضَ عَنْهُ الْإِلهِي فَأَيُّ الْوَالِيَةِ

و السلام اور تو نے اسے بخشا نہ ہو اور اس سے راضی نہ ہو اہو۔ اے میرے الٰہ کو کسی ولایت

وَالْعِلْمُ وَالْعُرْفَانُ إِذَا سَأَلَكَ سَائِلٌ طَالِبٌ بِاسْمِ

اور علم و عرفان ہے کہ جب کسی سائل و طالب نے تجھ سے طلب کیا ہو بوسیلہ اسم

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا وَهَبْتَهُ فَأَسْأَلُكَ

محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام کے اور تو نے اس کو عطا نہ کیا ہو تو میں بھی سوال کرتا ہوں

يَا اللهُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِذَاتِهِ وَجَمِيعِ

اے اللہ بطفیل اسم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذات اقدس کے اور تمام صفات

صِفَاتِهِ وَبِكَمَالِ فَقْرِهِ فَأَعْطِنِي يَا اللهُ مَا أَسْأَلُكَ وَأَقْضِ

کمال کے اور ان کے کمال فقر کے پس مجھے بھی عطا فرما اے اللہ جو تجھ سے مانگتا ہوں اور پورا فرما

حَاجَتِي كُلَّهَا وَلَا تَكْلِبْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ

میری تمام حاجات کو اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما پیک چھیننے کی دیر بلکہ اس سے بھی کم

وَأَكْلَانِي كَلِائَةِ الْوَلِيدِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِلهِي

اور میری حفاظت فرما مانند حفاظت کرنے (آباء کے) اولاد کی بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے الٰہ

إِذَا سَأَلَ مُحِبٌّ بِاسْمِ مُحِبِّ مُجِيبًا وَلَهُ قُوَّةٌ أَعْطَاهُ فَلْيُعْطِهِ وَ

جب سوال کرے کوئی محب محب کے نام پر محبت اور اسے طاقت عطا کی بھی ہو تو وہ ضرور عطا کرتا ہے اور



مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ

محمدؐ ان پر مسلوٰۃ و سلام ہو۔ جیسے کہ ان کے کمال کے لائق ہے تیری طرف سے اور تیرے تمام

عبادکِ مُحِبُّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِهِ فَأَعْطِنِي

بندوں کی طرف سے " تیرے محب بھی ہیں اور حبیب و رسول بھی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے نام کے

يَا اللَّهُ مَا أَسْأَلُكَ وَأَقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا وَهَبْ لِي إِيمَانًا دَائِمًا

دلیل سے پس عطا فرما مجھے اے اللہ جو میں مانگتا ہوں اور پوری فرما میری تمام حاجات اور مجھے عطا فرما دائمی ایمان

وَيَقِينًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ الْكُفْرُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور خالص یقین جس کے بعد کفر کا امکان نہ ہو بطیفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ إِلَهِي أَنْتَ قُلْتَ بِدَحْضِ فَضْلِكَ وَأِحْسَانِكَ إِذَا

کے۔ اے میرے الہ تو نے اپنے فضل اور احسان کامل سے فرمایا ہے

سَأَلْتُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

جب سوال کریں تم سے میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں۔ قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعائیں

دَعَانِ فَإِنِّي عَبْدُكَ الدَّاعِي الْأَنْ إِلَيْكَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

جب بھی مجھ سے دعا کریں۔ تو میں بھی تیرا بندہ ہوں جہاں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ہمیں راہ راست پر چلا

الْمُسْتَقِيمَ ۚ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ أَمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْهِنَالَيْسَ لَنَا

گیا اور نہ بھٹکے ہوؤں کی آمین۔ اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے نہیں ہمارے

أَحَدًا إِلَّا أَنْتَ وَحَبِيبِكَ وَأَنْتَ لَنَا وَأَنْتَ وَكَيْلُنَا

لے کوئی بھی سوائے تیرے اور تیرے حبیب کے اور میں تیرا ہوں اور تو ہمارا ہے اور تو ہمارا کفایت فرماؤ والا

كَافٍ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ

دکیل ہے اور کافی ہے اور بطور کار ساز کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور مددگار کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ



وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ ط وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ط وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ط

نصرت و امداد دینے والا۔ مددگاری ہے اللہ و احمی علم والا۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ اور کافی ہے اللہ بطور گواہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل انجامد پر

صَلَاةٌ تَحْفَظُ بِهَا أَشْخَاصَنَا وَتُسَهِّلُ بِهَا أَعْتَابَنَا وَتُدْأَوِي بِهَا

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارے اشخاص کو محفوظ رکھے اور ہماری دشواریوں کو آسان فرمائے اور ہمارے امراض

أَمْرَاضَنَا وَتُنْجِحُ بِهَا أَغْرَاضَنَا وَتَعْدِلُ بِهَا تَقْرِيْبَنَا وَافْرَاطَنَا

کو دور فرمائے اور امراض کو پورا فرمائے۔ اور ہمارے کوتاہیوں اور سختیوں کو درست فرمائے

وَتُصَحِّحُ بِهَا أَغْلَاطَنَا وَتُزَيِّنُ بِهَا أَلْفَاطَنَا وَتُحْبِي بِهَا أَلْحَاطَنَا

ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے الفاظ کو مزین فرماوے اور ہماری نگاہوں پر کھنڈر ہٹائے

وَتُزِيحُ بِهَا رُوعَنَا وَتُزِيدُ بِهَا لُوعَنَا وَتَمْنَحُ بِهَا إِلَيْكَ رِيْعَنَا وَتَرْفَعُ

ہمارے خوف کو زائل کرے اور آتش شوق کو بڑھائے اور عطا کرے بطفیل اس کے اپنی طرف رغبت اور دور کرے بطفیل

بِهَامُنْكَ زِيْعَنَا وَتَرْحِمُ بِهَا عَلَى أَسْلَافِنَا وَتُبَارِكُ بِهَا فِي أَخْلَافِنَا وَ

اس کے ہماری کجی اور تم کرے بطفیل اس کے ہمارے اسلاف پر اور برکت دے ہمارے اخلاف میں اور

تَفْتَحُ بِهَا عَوَاقِبَنَا وَتَمِيْطُ بِهَا بَوَاقِبَنَا وَتَشْهَدُ بِهَا أَدْرَاكَنَا وَتَصَوِّنُ

کھول دے ہماری رکاوٹیں اور دور فرماوے ہماری ہلاکتیں اور مضبوط کرے بطفیل اس کے ہمارے ادراک کو اور محفوظ فرماوے

بِهَاسْلَافِنَا وَتُرْوِي بِهَا غَلْلَنَا وَتَجْلُو بِهَا هُمُومَنَا وَتُفْرِجُ بِهَا غُومَنَا

بطفیل اس کے ہمارے راستوں کو اور سیراب فرماوے ہماری پیاسوں کو اور دور فرمائے ہمارے غموں کو اور ہٹا دے ہمارے

وَتُوَدِّي بِهَا دِيُونَنَا وَتَحْطُّ بِهَا شُجُوْنَنَا وَتُدْمِرُ بِهَا عَلَى عَدُوْنَا وَتُعْطِي

غنم کو۔ اور ادا فرمائے ہمارے قرضوں کو اور مٹا دے اس کے طفیل ہمارے حزن و ملال کو اور ہلاکت مسلط کرے ہمارے

بِهَاسْلُوْنَا وَتُطَيِّبُ بِهَا أَفْوَاهَنَا وَتُكْثِرُ بِهَا أَنْبَاهَنَا وَتَقْهَرُ بِهَا

دشمنوں پر اور عطا کرے بطفیل اس کے ہمیں سکون۔ اور پاکیزہ بنائے ساتھ اس کے ہمارے مومن اور بڑھائے اس کی بدولت ہماری



شَيْطَانًا يُغْوِينَا وَتَنْهَرُ بِهَا سُلْطَانًا يُؤْذِينَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَاتِمَتَنَا

بیداری اور منسوب کرے اس کے لطیف شیطان کو جو ہمیں گمراہ کرتا ہے اور تھوک دے اس سلطان کو جو ہمیں ایذا دیتا ہے۔ اے اللہ

خَيْرًا وَلَا تَدْحِقْ بِنَا فِي الدَّارَيْنِ ضَيْرًا بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ وَإِلَيْهِ

ہمارا خاتمہ خیر پر فرما اور ہمیں دونوں جہان میں کوئی ضرر لاحق نہ فرما لطیف عزت و حرمت اپنے حبیب کریم کے اور ان

وَاصْحَابِهِ أُولَى الْفَضْلِ الْجَسِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل و اصحاب کے جو بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجِيبُ بِهَا دُعَائُنَا وَتُدْرِعُ بِهَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے لطیف تو ہماری دعا قبول فرماوے اور دور

عَنَّا نَا وَتَكْشِفُ بِهَا كُرُوبَنَا وَتَشْرَحُ بِهَا قُلُوبَنَا وَتُرَبِّلُ بِهَا عَاهَاتِنَا

کرے ہم سے ہماری محنت و مشقت اور دور کرے ہمارے رنج و الم اور کھول دے ہمارے سینے اور زائل کرے ہمارے

وَتَقْفِي بِهَا حَاجَاتِنَا وَتَشْبِعُ بِهَا غِرَاتِنَا وَتَجْمَعُ بِهَا بُنَاتِنَا وَ

نقائص اور پوری فرمائے ہماری حاجات اور سیر فرمائے ہمارے خالی پیٹ اور مجتمع فرمائے ہماری پراگندگی کو اور

تَضَاعِفُ بِهَا ابْتِهَاجَنَا وَتَسْتَقِيمُ بِهَا اِعْوَجَاجَنَا وَتَغْفِرُ بِهَا

بڑھا لطیف اس کے ہماری خوشی کو اور سیدھا فرما ہماری کجی کو اور معاف فرما ہمارے گناہ

جُنَاحَنَا وَتُحَسِّنُ بِهَا عُدُونا وَرَوَاحِنَا وَتُعِزُّ بِهَا شَبَابَنَا وَ

کو اور حسین بنا لطیف اس کے ہماری صبحوں اور شاموں کو اور عزت دے لطیف اس کے ہمارے جوانوں اور

أَشْيَاخَنَا وَتَطْهِّرُ بِهَا أَوْسَاحَنَا وَتَوَسِّرُ بِهَا أَرْوَاحَنَا وَأَجْسَادَنَا

بڑھوں کو اور پاک فرما اس کے ذریعے ہماری میل و پھیل کو اور نورانی بنا ہمارے ارواح و اجسام کو

وَتُصْلِحُ بِهَا فِسَادَنَا فِي مَبْدِئِنَا وَمَعَادِنَا وَتَجْعَلُهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ

اور اصلاح فرما بسبب اس کے ہمارے بُد و معاد کے فساد کی اور اسے بناوے ہر شر سے ہماری

مَعَادِنَا وَتُدِيمُهَا أَيْسَانًا وَمَلَاذِنَا وَتُضِيئُ بِهَا قُبُورَنَا وَتُعِينُ

جائے پناہ اور رحمت رکھے اسے ہمارا انیس اور پناہ گاہ اور روشن فرمائے اس سے ہماری قبور کو اور اعانت

جائے پناہ اور رحمت رکھے اسے ہمارا انیس اور پناہ گاہ اور روشن فرمائے اس سے ہماری قبور کو اور اعانت



بِهَافِي أُمُورِنَا وَتُنِيرُ بِهَا أَحْيَا زَنَا وَتَسْتُرُ بِهَا أَهْمَانَنَا وَ

فرمائے بسبب اس کے ہمارے امور میں اور متور فرمائے مکافوں کو۔ اور چھپائے بسبب اس کے ہمارے عیوب کو

تُثَقِّلُ بِهَا قَسْطَ سَنَا وَتُدْفَعُ بِهَا أَفْلَاسَنَا وَتُبَدِّلُ بِهَا

اور بجاری فرمائے بظیفیل اس کے ہمارے میزان کو اور دور فرمائے ہمارے افلاس کو اور تبدیل فرمائے اس کے ذریعے

بِالْأَنْسِ إِيْحَاشَنَا وَتَكْلَأُنَا بِهَا عَنْ إِيجَاشِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہماری وحشت کو انس کے ساتھ اور حفاظت فرمائے اس کے ذریعے ہماری خوفناک امور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ

نازل فرمائے سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نجات ملے شدت والے

وَعَيْدٍ تَعَبِ الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ الشَّدِيدِ بِالْمَوْفُورِ السَّرُورِ بِمَغْفِرَةِ

پل صراط پر سے گزرنے کی وعید و تھکان سے ساتھ وافر سرور کے بسبب مغفرت غفور شکور

الْغُفُورِ الشُّكُورِ لِمُنْتَظِرِ الْمُفَكِّرِ الْمُفَرِّزِ إِلَى الْفَضِيلَةِ الشَّفَاعَةِ

کے واسطے فکر مند منتظر کے جو امتیاز پانے والے ہیں شفاعت کبریٰ کی فضیلت سے

الْكُبْرَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلام بھیج۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا هُمُومَ حَوَادِثِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے اندوہ حواادث جو ہمارے

الْإِخْتِيَارِ وَتَمَحَّرَ بِهَا عَنَّا ذُنُوبَ وَجُودِنَا بِمَاءِ سَمَاءِ الْقُرْبَى حَيْثُ

سوء اختیار کی وجہ سے ہے اور مٹا دے ہم سے ہمارے وجود والے ذنوب قربت کے آسمان والے پانی سے جہاں پر

لَا حَيْثُ وَلَا بَيْنَ وَلَا آيُنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا جِهَةَ وَلَا قَرَارَ وَتُغَيِّبُنَا

نہ مکان ہے نہ درمیان ہے نہ کہاں اور نہ کیسے ہے اور نہ ہی جہت ہے اور نہ قرار ہے اور غائب و غائبی فرمائے

بِهَافِي غِيَابِ غُيُوبِ أَنْوَارِ أَحَدِيَّتِكَ فَلَا نُشْعِرُ بِتَعَاقِبِ اللَّيْلِ

ہمیں اپنی احدیت کے انوار کے غیوب والی گہرائیوں میں پس ہم نہ محسوس کر سکیں شب و روز





وَالْتَهَارُ وَتُخَوِّلُنَا بِهَا سَمَاحَ رِيَاحِ فَتُوجِرُ حَقَائِقَ بَدِيعِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

کی گردش کو اور عطا فرمائے ہیں سخاوت و قیامتی اپنے انکھنے نبی محمد مختار کے

الْمُخْتَارِ وَأَتُحَفِّنَا بِهَا أَسْرَارَ أَنْوَارِ شَرِيَّتُونِيَّتِكَ فِي مُشْكُوَّةِ

انکشافات حقائق کی اور تحفہ بخش بطفیل اس صلوات کے ان زیتونی اسرار و انوار کا جو محمدی

الرَّجَاةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَتُضَاعَفُ أَنْوَارُنَا بِلَا أَمْتِرَاءٍ وَلَا أَحَدٍ وَلَا

شیشہ کے طاق میں ہیں۔ پس دو بال کرے ہمارے انوار کو بلا ٹٹک و شبہ اور بغیر حد و حصہ کے

إِنْ حَصَرَ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا

یارب۔ یا اللہ۔ یا حی۔ یا قیوم۔ یا ذا الجلال واکرام۔ یا ارحم

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُثَبِّتُ بِهَا فِي قَلْبِي الْإِيْمَانَ

اور آپ کی آل پر کہ بطفیل اس صلوات کے پائیدار بنائے میرے دل میں ایمان کو

وَتَحْفَظُنِي الْقُرْآنَ وَتَفْهَمُنِي مِنْهُ الْآيَاتِ وَتَفْتَحُنِي لِي بِهَا

اور مجھے قرآن محفوظ کرائے اور اس کی آیات کا فہم عطا کرے اور منکشف فرمائے میرے

نُورَ الْجَنَّاتِ وَنُورَ النَّعِيمِ وَنُورَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

یے نور جنات۔ نور نعیم کو اور اپنی نواہت کریمہ کے دیدار کا نور

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آپ کی آل پر اور اصحاب پر اور سلام بھیج۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَهَبُ لَنَا بِهَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ بطفیل اس صلوات کے عطا فرماتے ہیں

الْكَمَلَ الْمَرَادِ وَفَوْقَ الْمَرَادِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَدَارِ الْمَعَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کامل ترین مراد بلکہ اس سے بھی زائد دار دنیا میں بھی دار آخرت میں بھی۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَجِّينَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر کہ بظیفیل اس صلوات کے نجات دے ہیں

بِهَآ مِنْ جَمِيعِ الْمَحْنِ وَالْاَحْنِ وَالْاَهْوَالِ وَالْبَدَايَا وَتُسَلِّمُنَا

تمام محنتوں مشقتوں اور ہولناکیوں اور بلیات سے اور سلامت رکھے

بِهَآ مِنْ جَمِيعِ الْفِتَنِ وَالْاَسْقَامِ وَالْاَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَتُطَهِّرُنَا

تمام فتنوں اور بیماریوں سے اور آفات و بلیات سے۔ اور پاک فرمائے ہیں

بِهَآ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَتَغْفِرْ لَنَا بِهَآ مِنْ جَمِيعِ

تمام عیوب اور گناہوں سے اور بخشے ہمارے لیے تمام

الذُّنُوبِ وَتَمَحِّقْ بِهَآ عَنَّا الْخَطِيَايَا وَتَقْضِ لَنَا بِهَآ جَمِيعَ

گناہ اور مٹا دے بظیفیل اس کے ہماری تمام خطیائیں اور پوری فرمائے ہماری تمام

مَا نَطْلُبُهُ مِنْ الْحَاجَاتِ وَتَرْفَعْنَا بِهَآ عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ

مطلوبہ حاجات کو اور بلند فرمائے اس کے ذریعے اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجات پر

وَتُبَلِّغْنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ

اور پہنچائے بسبب اس کے آخری حدود تک تمام خیرات سے دنیوی حیات میں

وَبَعْدَ الْمَمَاتِ يَا رَبُّ يَا اَللّٰهُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ

اور وفات کے بعد۔ یا رب۔ یا اللہ۔ لے قبول کرنے والے دعاؤں کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ صَلَوَةٌ تُنَوِّرُ بِهَآ الْقُلُوبَ

صلوات و سلام نازل فرما ان پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر کہ بظیفیل اس کے منور فرمائے ہمارے قلوب

وَتَغْفِرْ بِهَآ الذُّنُوبَ وَتَسْتُرْ بِهَآ الْعُيُوبَ وَتَكْشِفُ الْكُرُوبَ

اور بخشے ہمارے ذنوب اور ڈھانپنے ہمارے عیوب اور دور فرمائے ہمارے اندوہ

وَتَفْرِجِ الْهُمُومَ وَتَزِيلِ الْغُمُومَ وَتَرْفَعِ الْبَلَاءَ وَتَزِيلِ

اور کشائیں بخشے غموم سے اور مائل فرمائے آلام اور دور فرمائے بلا کو اور مائل فرمائے



الشَّقَاءِ وَتُنَزِّلُ الشِّفَاءَ وَتُسَهِّلُ الْأُمُورَ وَتُشْرِحُ الصُّدُورَ

شقاوت اور نازل فرمائے شفاء اور آسان فرمائے تمام امور، اور کھول دے ہمارے سینے۔

وَتُوسِّعُ الْقُبُورَ وَتَيَسِّرُ الْحِسَابَ وَتَعْلَمُ الْكِتَابَ وَتَثْقِلُ

اور وسیع فرمائے ہماری قبور اور آسان فرمائے حساب کو اور علم دے کتاب کا۔ اور بھاری فرمائے

الْمِيزَانَ وَتَهَيِّئِ الْجَنَانَ وَتُعِدُّ الْبَفَاءَ وَتُتِمُّ النِّعْمَاءَ

میزان حسنت کو اور مہیا فرمائے جنتیں اور اہل بنائے اپنی لقاء کا اور مکمل فرمائے نعمتوں کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَاةً تُصَلِّحُ بِهَا الْأَحْوَالَ وَتُقَرِّغُ الْبَالِ وَتُصَفِّي الْوَقْتَ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں فارغ البال بنائے اور ہمارے وقت

وَتُجَيِّبُ الْمَقْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو صفائی بخٹھے اور ناصحی سے دور رکھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْمُرُ بَرَكَاتِهَا وَتُحِيْطُ

اور آپ کی آل اجماد پر جس صلوٰۃ کی برکات عام ہوں۔ اور کرامات

كِرَامَاتِهَا وَتُشِيْعُ أَنْوَارَهَا وَتُظْهِرُ أَسْرَارَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

و بزرگیاں محیط ہوں۔ اور انوار شائع ہوں اور اسرار ظاہر ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّوْجِبَةً

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو صلوٰۃ موجب ہو

لِلسَّادَةِ وَبَاعِثَةً عَلَى الرَّشَادِ مَانِعَةً عَنِ الضَّلَالِ دَافِعَةً

مضبوطی اور پختگی کی اور باعث ہموارست روی کی۔ مانع ہوگمراہی و کجروی سے۔ دور کرنے والی

لِلْاِخْتِلَالِ مُحَصِّلَةً لِّلْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نخلل و انتشار کو اور موجود کرنے والی ہر کمال کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ لَا تَدَعُ خَيْرًا مِّنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات کہ نہ چھوڑے کسی خیر کو

خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا حَصَلَتْهَا وَلَا تَتْرُكُ كَمَالًا

دُنْيَا وَ آخِرَتِ كِي خَيْرَاتِ مِيں سِي مَگر ہمارے ليے موجود کر دے۔ اور نہ چھوڑے کوئی کمال

مِّنْ كَمَالَاتِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إِلَّا أَتَمَّتْهَا وَ أَكْمَلَتْهَا

ظاہری اور باطنی کمالات ميں سے مگر ان کو ہمارے ليے کامل و تمم کر دے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ مُّتَّصِلَةٌ بِأَقْبِيَّةٍ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ وَاقِعَةٌ

ایسی صلوات جو دائم و مسلسل ہو باقی ہو ختم نہ ہونے والی ہو

بِلِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالَ مُؤَدِّيَةً جَمِيعَ الْحُقُوقِ فِي جَمِيعِ

زبان حال و مقال دونوں سے صادر ہونے والی ہو۔ ادا کرنے والی ہو محبوب کریم کے

الْأَحْوَالِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ أُمُورَنَا كُلَّهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

تمام حقوق کو تمام احوال ميں۔ اے اللہ آسان فرما ہمارے تمام امور دنیوی اور آخروی

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُلْ إِنَّمَا

وہ اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر وہی۔ فرما دو ميں صرت

أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۚ قُلْ هُوَ

اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور نہیں شریک بظہر آتا اس کے ساتھ کسی کو۔ فرما دو وہ

اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ

يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ

وہ جنا گیا اور نہیں اس کے ليے شیل و مشابہ کوئی بھی۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَوْلَى الَّذِي جَاءَنَا بِمَا نَحْتاجُ وَبَارَكَ وَبَدَّدَ

مَدِينِ بَانَ عَتَا أَقْرَانِ بِنِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَوْلَى الَّذِي جَاءَنَا بِمَا نَحْتاجُ وَبَارَكَ وَبَدَّدَ

ايزو مٹان تحفہ عجايب و هديه غرا تراب الى الله  
مقبول ابركاشه كوين حضره محمدي  
مُسَمِّي بِهِ

# صَلوات الرسول

الجزء السابع عشر

فِي شَفَاعَتِهِ وَوَسِيلَتِهِ ﷺ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

حضرت خواجہ نوبگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِشَفَاعَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِوَسِیْلَةِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا بظیفیل شفاعت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل و توسل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِفَضِیْلَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

وَبِجَلَالَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِکِفَالَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور بظیفیل جلالت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل کفالت بسم اللہ الرحمن

الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لَکَ یَوْمَ

الرحیم کے تمام ثنائی اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے جس کا انعام دنیا میں مومن و کافر کو شامل اور آخرت میں مومنین سے مخصوص ہے قیامت

الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

دن میں ہر شئی کا مالک ہے (ظاہر میں بھی) اے ان اوصاف والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہمیں

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

راہ راست پر چلا۔ راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ

الصّٰلِحِیْنَ ۝ اٰمِیْنُ ۝ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰہِ

گمراہوں کی۔ آمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر

بِاِذْنِهٖ ۝ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی مَنْ یُّشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَّکُنْ لَّهٗ

اس کے اذن سے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص اچھی شفاعت کرے گا تو اس کے لیے ہوگا

نَصِیْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ یُّشْفَعُ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَّکُنْ لَّهٗ کِفْلٌ مِّنْهَا وَ

حصہ اس میں سے اور جو میری شفاعت کرے گا تو ہوگا اس کے لیے بھی حصہ اس سے۔ اور

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاَنْذِرْ بِهٖ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ یُّحْشَرُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ڈراؤ ساتھ اس کے انہیں جو خوف رکھتے ہیں اس سے کہ اٹھائے جائیں طرف اپنے رب کے



لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وِلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرْ بِهِ أَنْ

نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی ناصر اور نہ شفیع اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نصیحت کرو ساتھ اس کے کہ

تُبْسَلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وِلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ

ہلاک کیا جائے کوئی نفس بسبب اپنی کمائی کے۔ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی مددگار اور نہ مالک شفاعت اور

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فرمایا اللہ تعالیٰ نے "نہیں ہے کوئی شفیع مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے" اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

"اور نہیں نفع دے گی شفاعت اس کے ہاں مگر جس کو اذن دے گا اس کا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

"اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور طلب کرو طرف اس کے وسیلہ اور جہاد کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی راہ میں تاکہ تم نجات پاؤ۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَنَامِ شَفِيعًا شَافِعًا مُشَفَّعًا اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہیں تو نے بنا یا ہے مخلوقات کے لیے شفیع شافع اور مقبول الشفاعت۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَرْجُو بِهِ مَنْ أَطَاعَهُ نَيْلَ الْخُلْدِ وَالشَّفَاعَةَ

کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے امید رکھتے ہیں تمام اطاعت گزار جنت خلدیانی کی اور شفاعت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ شَافِعٍ وَشَفِيعٍ وَمُشَفَّعٍ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو بہترین شافع - شفیع اور مقبول الشفاعت ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا داخل ہوں گے جنت میں میری امت کے ایک مرد کی

مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شفاعت سے جو تميم سے زیادہ تعداد والے افراد۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر



الَّذِي قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَتَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ

جنہوں نے فرمایا بے شک میری امت میں ہیں ایسے افراد جو شفاعت کریں گے بڑے قبیلوں کیلئے اور بعض شفاعت کریں گے

لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ

چھوٹے قبیلوں کے لیے اور بعض شفاعت کریں گے جماعت کے لیے۔ اور بعض شفاعت کریں گے ایک ایک فرد کے لیے

حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

تاکہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ

يُصَفُّ أَهْلَ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ

دوزخیوں کو قطار میں کھڑا کیا جائے گا تو ان کے پاس سے گزرے گا ایک شخص اہل جنت سے تو دوزخ کے مستحقین میں سے

الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَ

ایک اسے کہے گا۔ اے فلان کیا تو مجھے پہچانتا نہیں میں وہ ہوں جس نے تجھے پانی پلایا تھا اور

قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءًا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

بعض کہیں گے میں وہ ہوں جس نے تجھے وضو کا پانی پیش کیا تھا تو وہ اس کی شفاعت کرے اسے جنت میں داخل کرانے کا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے میرے ساتھ کہ

يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعٌ مِائَةً أَلْفٍ بِإِحْسَابٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

داخل فرمائے گا جنت میں میری امت سے چار لاکھ افراد بغیر حساب کے پس عرض کیا ابو بکر صدیق نے

رَدُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَحَتَّى بَكْفِيهِ فَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

یا رسول اللہ ہمیں زیادہ کی بشارت دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا اور اتنے مزید اور دونوں کف دست کو جمع فرمایا تو حضرت ابو بکر

رَدُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ دُعَانِيَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ

نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں مزید کی بشارت دیں آپ نے فرمایا اور اتنے مزید تو حضرت عمر نے کہا چھوڑیے ہمیں اے ابو بکر تو انہوں

أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَدْخُلَنَا اللَّهُ كُلَّنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ

نے فرمایا۔ اور تم پر کیا گرائی ہے کہ ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ رخص اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بے شک





اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُدْخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَيْفٍ وَاحِدٍ فَعَلَّ

اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ ساری مخلوق کو ایک ہی کف دست سے جنت میں داخل کر دے تو وہ کر سکتا ہے

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ

تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمر فاروق نے یہ سچ کہا ہے۔ اے اللہ! صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنْ رَجُلَيْنِ

کا ملے نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا کہ دو زنیوں میں سے

مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَابُهَا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى أَخْرِجُوهُمَا

دو شخصوں کا شور و غل زیادہ ہو جائے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا انہیں باہر نکالو پھر

فَقَالَ لَهُمَا لِأَيِّ شَيْءٍ اِشْتَدَّ صِيَابُكُمَا قَالَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا

دریافت فرمائے گا کس لیے تمہاری بیخ و بیکار زیادہ ہو گئی ہے وہ کہیں گے ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے

قَالَ فَإِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَتَلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنْ

اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم دونوں جا کر اپنے آپ کو وہیں گراؤ جہاں پر پہلے موجود تھے

النَّارِ فَيَلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُومُ

تو ان میں سے ایک اپنے آپ کو گرا دے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس پر ٹھنڈی اور سراسر سلامتی بنا دے گا۔ اور دوسرا کھڑا

الْآخَرَ فَلَا يَلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْقِي

رہے گا اپنے آپ کو نہیں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا تجھے اپنا آپ گرانے میں کیا امر مانع ہوا جیسے کہ

نَفْسَكَ كَمَا أَلْفَى صَاحِبِكَ فَيَقُولُ رَبِّ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا

تیرے ساتھی نے اپنے کو گرا دیا تو وہ عرض کرے گا۔ اے میرے رب بیشک میں البتہ امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اس میں نہیں لوٹا دے گا

بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيُدْخِلَنَّ

اس نے نکلنے کے بعد تو رب تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے ہے تیری امید و رجاء تو وہ دونوں جنت میں

جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضْوَانًا مِنْ اللَّهِ

داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیری رضامندی کا



اللَّهُمَّ ارْضَ مِنَّا وَارْضَنَا مِنْكَ بِرِضَائِكَ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے سے راضی فرما اے اللہ۔ اے اللہ صلوات کاملہ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَرْفُ الَّذِي مَدَّ أَدَاهُ مِنْ نُورِ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے نام نامی اہر حرف کی روشنائی ذات الہیہ کے نور سے ہے۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشُّكْلُ الَّذِي مَدَّ أَدَاهُ مِنْ كُنُوزِ مَكْتُونِ سِرِّ اللَّهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کی شکل مبارک کا مادہ تخلیق اسرار خداوندی کے مخفی خزانوں سے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَمْزَةَ أَلْفِ الْبَدَائِيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو ہمزه ہیں ایجادات و بدایات کی الف کا۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَاءَ بُرْهَانَ الدَّلَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نازل فرما سیدنا محمد پر جو باء ہیں دلالات (خداوندی) کے برہان کی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ تَاءَ تَكْوِينِ الْمَكُونَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَاءَ

محمد پر جو تھین کائنات کی تاء ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو اعمال

ثَوَابِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جِيمِ

صالح کے ثواب کی تاء ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو دونوں جنیتوں

جَنَا الْجَنَّتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءَ حِمَايَةِ الدُّنْيَا

کے چنے ہوئے جید و عمدہ بھلوں کی جیم ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو دینی و دنیوی حمایت کی

وَالدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاءَ خِتَامِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ

حاء ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو خیرات کی خواتیم اور معروں کی حاء ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَالِ دَلِيلِ النَّجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو دلیل نجات کی ذال ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ ذَالِ ذُرُوعِ الْمَعَالِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَاءَ رُوحِ

محمد پر جو بلند یوں کے زروں اور نہایت کی ذال ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو شرف اعلیٰ کے روح



الشَّرَفِ الْعَالِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَاءِ زَهْرَةَ السَّنَا اللَّهُمَّ

کی راء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو ضیاء کی زہرت اور وقت و بہار کی زاد ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْنِ سَحَابِ الْعُفْرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو مغفرت کے سحاب اور بادلوں کا سین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَيْنِ شَمَائِلِ التَّدَايِمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمدؐ پر جو خدا و ایمانی کے شئام کی شین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَادِ صِلَاحِ الْأَخْيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضَادِ

محمدؐ پر جو پاک سیرت لوگوں کے صلاح و تقویٰ کی صا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو روز و

ضَخَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَاءِ طَرَائِرِ

شب کی صیاد و نورانیت کی ضاد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو نور انور کے

التُّورِ الْأَسْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظَاءِ ظُهُورِ آيَاتِ الْعُلَى

طراز و نقش کی ظا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو بلند مرتبت آیات کے ظہور کی ظا ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ عِرْقَانِ الْأَنَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو مخلوق کے عرفان کی عین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَيْنِ غَيْمَةِ الْفَلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو فلاح و کامیابی کی غیبت کی غین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ فَأِ فَصَاحَةِ الْفَصَّاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَافِ

محمدؐ پر جو فصحاء کی فصاحت کی فا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو انعام و احسان

قَلَائِدِ الْأُمَّتَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِيمِ مَوَادِ الْأَسْرَارِ

کے قلائد اور باروں کی قاف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو مواد اسرار و رموز کی میم ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُونِ نَعِيمِ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو نعیم ابرار کی نون ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِوْصَالِ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرما سیدنا محمد پر جو وصال احباب کی واؤ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

هَاءِ الْهُدَىٰ مِنْ اهْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَا إِمْرَ أَلْفِ

جو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہاء ہدایت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو لام الف (۴)

الْأَسْبَابِ الْمَوْصِلَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں اسباب کی جو پہچاننے والے ہیں رب الارباب کی معرفت ہم۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ يَا بَدِ الْأَنْعَامِ السَّامِيَةِ مِنْ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ

محمد پر جو بیاہ ہیں ذوالجلال والاکرام کے بلند مرتبت بدیعنی دست انعام کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ دَائِرَةِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو دائرہ وجود کے قطب و مرکز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جو ہر والد و مولود کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْوَةِ السَّابِقِينَ

محمد پر جو امام العالمین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو سابقین و لاحقین

وَاللَّاحِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّالِّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاتِ

کے مقتدا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو راہ نجات کے رہبر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِ إِلَى رِضَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو پہچاننے والے ہیں رب السموات والارض کی

وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عَبْدٌ تُرْفَعُ بِهَا

رضامندی ہم۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ عبدو غلام کی کہ اس کی بدولت

لَهُ الرَّتَبُ الْفَاخِرَةُ وَيَنْجُو بِهَا مِنْ مَّكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

اس کے لیے قابل فخر مراتب مہیا کئے جائیں اور وہ نجات پائے دنیا و آخرت کے شدائد سے۔ اے اللہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَافَقَتْهُ الْهَيْبَةُ وَالْجَلَالُ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کو کامل ہیبت و جلال نصیب ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَمَّ لَهُ الْمَحَاسِنُ وَالْجَمَالُ اللَّهُمَّ إِنِّي

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے لیے تمام وکامل ہوئے محاسن و جمال۔ اے اللہ میں

أَتَوَسَّلُ إِلَى ذَاتِكَ بِذَاتِكَ وَنِعْمَ الْمَسْئُولُ وَنِعْمَ الْوَسِيلَةُ

وسیلہ پکڑتا تیری ذات کی طرف تیری ذات کے ساتھ اور خوبترین مسؤل ہے تو اور خوبترین وسیلہ ہے

بِوَسِيلَةِ خَيْرِ الْوَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ أَتَوَسَّلُ بِهِ

وسیلہ خیر الوریٰ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اس ذات والا پر کہ وسیلہ پکڑتا ہوں ان کا

فِي إِيْمَانِي وَإِسْلَامِي وَفِي إِحْسَانِي وَفِي دِينِي وَفِي دُنْيَايَ

اپنے ایمان و اسلام اور احسان میں اور دین و دنیا اور آخرت

وَفِي آخِرَتِي وَفِي عِلْمِي وَفِي عَمَلِي وَفِي حَالِي وَفِي خِيَالِي وَفِي فَقَالِي

میں۔ اور اپنے علم و عمل اور حال و خیال اور مقال میں

وَفِي ذَوْقِي وَفِي شَوْقِي وَفِي مَعْرِفَتِي وَفِي سِرْجَانِي وَفِي شِفَائِي

اور اپنے ذوق و شوق اور معرفت و رجاء میں اور شفاء میں

وَفِي قُوَّتِي وَفِي طَوْلِ عُمْرِي وَفِي جِسْمِي وَفِي بَدَانِي وَفِي رُوحَانِيَّتِي

اور اپنی قوت۔ درازی عمر اور جسم و بدن اور روحانیت میں

وَفِي وَجُودِي وَفِي حَيَاتِي وَفِي جَمِيعِ صِفَاتِي الَّتِي بِهَا قِيَامِي وَ

اور اپنے وجود و حیات اور تمام صفات میں کہ جن کی بدولت ہے میرا قیام اور

كَلَامِي وَكَمَالِي وَلَا أَتَوَسَّلُ إِلَّا بِهِ أَوْ بِمَنْ لَهُ كَالظِّلِّ أَوِ الْجُزْءِ

کلام و کمال۔ اور میں توسل نہیں کرتا مگر ساتھ ان کے باوجود ان کے عس و پرتو ہیں

أَوِ الْجُزْءِي فَهَذَا أَيْضًا تَوَسَّلْ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یا ان کے جز اور جزئی کی مانند ہیں کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی توسل ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر



الْوَسِيلَةَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ لِلْكَلِّ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

جو سب کے وسیلہ ہیں تمام امور میں اور برکت نازل فرما آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر  
وَأَتْبَاعَهُ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لِكُلِّ مِّنْكَ وَسِيلَةٌ وَأَجْزَلُهَا

اور تمام متبعین پر۔ اے اللہ تو ہی ہے واسطے ہر ایک کے لیے وسیلہ بنانے والا اپنی طرف انہیں  
وَأَشْرَفُهَا عِنْدَكَ مَنَزِلَةٌ وَأَقْرَبُهَا مِّنْكَ وَسِيلَةٌ وَأَسْرَعُهَا

اور وہ بزرگتر ہیں نزدیک تیرے از روئے منزلت کے اور قریب تر ہیں از روئے وسیلہ کے اور سریع تر ہیں  
مِّنْكَ ثَوَابًا وَاجَابَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

از روئے حصول ثواب اور مقبولیت کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ  
أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحُلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّارِبِينَ إِلَيْكَ

کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں اتارے اپنی طرف چلنے والوں کی منازل میں  
وَيُسْتَشْفَعُ إِلَيْهِ فَلِذَلِكَ جِئْتُ بِهَذَا الشُّفْعَاءِ وَالْإِعْرَافِ

اور شفاعت حاصل ہو جائے طرف ان کے اسی لیے میں لایا ہوں ان شفعاء اور پیاروں کو  
إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اتَّوَسَّلُ بِهِ فِي حَضْرَتِكَ وَمَا تَوَسَّلَ كُلُّ

تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ میں ان سے توسل کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور جس  
ذِي حَاجَةٍ إِلَىٰ جَنَابِ قُدْسِكَ إِلَّا أَوْصَلْتَهُ إِلَىٰ مَطْلُوبِهِ

محتاج نے یہ وسیلہ اختیار کیا تیری بارگاہ قدس میں تو نے اسے واصل فرما دیا اس کے مطلوب تک  
فَأَسْأَلُكَ مُتَوَسِّلًا بِثَنَاءِ حَبِيبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تو میں بھی وسیلہ پکڑے ہوئے تیرے حبیب کی ثناء کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا  
مُحَمَّدٍ صَلَاةً أَحَدُ أَثَارِهَا الْمُرْتَبَةُ عَلَيْهَا أَنْ تُعْطِيَ سَوَالَ

محمد پر جس صلوات کے آثار مرتبہ میں سے ایک یہ ہے کہ تو عطا فرماتا ہے مطلوب ہر اس شخص کو جو ان کے  
مَنْ تَوَسَّلَ بِاسْمِهِ الْمُبَارَكِ إِلَىٰ حَضْرَتِكَ وَسَلَامًا مِّنْ فُرُوعِهِ

مبارک نام کے ساتھ تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑے۔ اور سلامتی نازل فرما جس کے فروع متفرعہ میں سے ایک

الْمُنْشَعِبَةَ أَنْ تُسَلِّمَ مَنْ سَلَكَ مُتَوَسِّلًا بِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِبْتِلَاءِ

فرما یہ ہے کہ تو سلامتی بخش تا ہے ہر مصیبت زدہ کو جو سوال کرے تجھ سے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے

مِمَّا يَخَافُ وَمِنْ سَائِرِ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَمُبَارَكَةٌ مِّنْ

ہر خوفناک سر سے اور جملہ آفات و بلیات اور عیوب و نقائص سے اور برکت نازل فرما

لِوَارِثِهَا الْبَيْتَةِ أَنْ تَجْعَلَ فِي رِزْقِ الْمُتَوَسِّلِ بِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ

جس کے واضح اور روشن لوازم سے یہ ہے کہ تو پیدا فرماتا ہے ان کے ساتھ وسیلہ پہنچانے والے کے

بِرَكَّةٍ عَامَّةٍ تَامَّةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوسِّلُ بِهِ فِي حَضْرَتِكَ وَمَا

رزق میں کامل و مکمل برکت۔ اے اللہ میں ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور جس محتاج

تُوسِّلُ بِهِ كُلُّ ذِي حَاجَةٍ إِلَى جَنَابِ قُدْسِكَ إِلَّا أَوْصَلْتَهُ إِلَى

نے ان کو وسیلہ بنایا تیری بارگاہ اقدس میں تو نے واصل فرما دیا اس کو اپنے مطلوب

مَطْلُوبِهِ بِحَبِيبِكَ الَّذِي قُلْتَ لَهُ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ

تجھ بطفیل اپنے حبیب کے جنہیں تو نے فرمایا۔ عرش سے لے کر تحت اثری تک

الْأَرْضِينَ كُلَّهُمْ يُطَلِبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ يَا

سبھی مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا مندی چاہتا ہوں۔ اے

مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ قَضَاءُ حَاجَتِي بِالنَّظَرِ إِلَى هَمَّتِي وَمَرْتَبَتِي

محمد۔ اے اللہ میری حاجت کا پورا کیا جانا میری ہمت و قوت اور مقام و مرتبہ کی نسبت

عَظِيمٍ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِكَ وَإِلَى الْوَسِيلَةِ الْعَظِيمِ فَأَعْطِنِي

عظیم ہے نہ کہ تیری ذات کبریاء کی نسبت اور نہ اس عظیم وسیلہ کی نسبت سے پس مجھے عطا فرما

مَا رَجَوْتُ مِنْكَ بِحُرْمَةِ أَمْرِهِ وَشَرَفِ حَالِهِ وَعِزَّةِ وَمَنْصِبِهِ

جس کا میں تجھ سے امیدوار ہوں بطفیل اپنے محبوب کی حرمت شان۔ شرف حال اور عزت و منصب

وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ وَسُمُوِّ قُدْرَتِهِ وَأَرْنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

علو مرتبت اور رفعت قدر و منزلت کے اور دکھلا دے مجھے اشیاء کے حقائق واقعیہ



مَعَ طَوْلِ الْعُبْرِي فِي مَحَبَّتِكَ وَالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى شَرِيعَةِ حَبِيبِكَ

مع درازی عمر کے اپنی محبت میں اور مع استقامت کے اپنے حبیب کی شریعت پر

الَّتِي تُؤْصِلُ إِلَى التَّوْحِيدِ الْأَحْدَاثِيِّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ

جو واصل کر دے توحید احمدیت تک بطیفیل ان کی حرمت و عزت کے جو تیری بارگاہ میں ہے۔ اے اللہ

أَجِبْ دُعَائِي فَإِنِّي مُتَوَسِّلٌ بِمَنْ تُحِبُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ بِهِ أَنْ تَجْعَلَنِي

میری دعا کو قبول فرما کیونکہ میں توسل میں تو اس لئے ہوں اس ذات سے کہ تو قبول فرماتا ان کے متوسل سے

طَوِيلَ الْعُمْرِ فِي تَحْصِيلِ الْكَمَالَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْعُرْفَانِيَّةِ وَأَسْأَلُكَ

کہ بتا دے مجھے طویل عمر والا کمالات انسانیہ عرفانیہ کے حاصل کرنے میں اور سوال کرتا ہوں تجھ سے

أَنْ تَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمْرِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَفَقْرٍ وَفَاقَةٍ فِي اتِّبَاعِ

کہ بنائے مجھے عمر دراز والا بغیر بیماری اور فقر وفاقہ کے اپنی شریعت

شَرِيعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْأَكْمَلِيَّةِ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا

جامعہ محمدیہ اکیلیہ کی اتباع و پیروی میں۔ اے اللہ مجھے نفع کر دے

عِلْمَتِي وَعِلْمِي مَا يَنْفَعُنِي وَأَرْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي رَبِّ اجْعَلْنِي

عطا فرمودہ علم کے ساتھ اور سکھلا مجھے نافع علم اور عطا فرما وہ علم جو نافع ہو۔ اے رب مجھے بنا

لَكَ ذَكَارًا لَكَ شَكَارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَأًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْهَا

اپنا ذکر کرنے والا بہت شکر گزار۔ بہت خوف و خشیت والا۔ اطاعت گزار۔ فروتنی و مجزوالا۔ اپنی طرف انابت

مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حُوبَتِي وَأَجِبْ دُعَوْتِي وَثَبِّتْ

والا اور رجوع والا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ میرے گناہ دھو ڈال۔ دعا قبول فرما اور حجت و دلیل

حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَأَسْأَلُكَ سَخِيمَةَ صَدْرِي وَلَا

ثابت فرما۔ میری زبان کو تقویت بخش۔ میرے دل کو ہدایت دے اور میرے دل سے بغض و کینہ سلب کرے

تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَلَا تَجْعَلْ أَكْبَرَهُبِّي وَلَا مَبْلَغَ عَلَيَّ وَلَا

اور نہ بنا میری مصیبت میرے دین میں۔ اور نہ بنا میرا بڑا مقصد اور نہ مبلغ علم اور نہ



غَايَةَ رَغْبَتِي مَا لَا تَرْضِيهِ وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْضِيَنِي إِنَّكَ

منتهاء رغبت اپنے ناپسندیدہ امور کو۔ اور نہ مسلط فرما مجھ پر جو مجھ پر ترس نہ کھائے۔ بیشک تو

أَنْتَ رَبِّي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہی میرا رب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَمْرِهِ فِي الْأُمُورِ وَفَقَاهَتِهِ فِي الْفُقَهَاءِ وَرَأْيَانِهِ فِي

اور ان کے امر پر جملہ امور میں اور ان کی فقہت پر جملہ فقہاء کی فقہت میں اور ان کے ایمان اہل پر

الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جملہ مؤمنین کے ایمان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

پر اور برکت و سلامتی اور درود نازل فرما ان پر۔ اے اللہ جمع فرما ان کے ساتھ

كَمَا أَمْتَابَهُ وَلَمْ نَرَهُ وَلَا تَفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى

جیسے کہ ہمیں ایمان نصیب کیا ان کے ساتھ حالانکہ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی تھی اور جدائی نہ ڈالنا ہمارے اور ان

تُدْخِلْنَا مَدْخَلَهُ وَتُوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَتَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ

کے درمیان تا آنکہ وارد کرنا ہمیں ان کے محل نزول میں۔ اور ان کے حوض مورد پر۔ اور ہمیں ان کی رفاقت میں رکھنا

مَعَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

مع دیگر انعام یافتہ انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

اور وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور تمام حمدیں اللہ رب

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ

عالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیش رو تنظیم بنا اور ان کے حوض کوثر کو

لَنَا مَوْعِدًا لِأَوْلَادِنَا وَآخِرِنَا اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي نَوْمَاتِهِ وَ

ہمارے اول و آخر کے لیے اجتماع کا مقام موعود بنا۔ اے اللہ ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھانا اور



اسْتَعْمَلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَعَرَفْنَا وَجْهَهُ وَاجْعَلْنَا

آپ کی سنت پر عامل بنا اور آپ کی ملت پر وفات دینا اور ہمیں ان کی پہچان نصیب فرما اور ہمیں

فِي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ اللَّهُمَّ وَكَيْفًا اٰمَنْتُ بِهِ وَلَمْ اَرَكَ فَلَا تَحْرِمْنِي

ان کی جماعت اور گروہ سے بنا۔ اے اللہ جیسے کہ میں ان پر ایمان لایا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں پس

فِي الْجَنَّةِ رُوَيْتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مجھے محروم نہ رکھنا ان کے دیدار سے جنات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِسْلَامِهِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ وَعَقِيدَتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر اور ان کے اسلام پر تمام مسلمین کے اسلام میں اور عقیدہ پر

فِي الْعَقَائِدِ وَرِسَالَتِهِ فِي الرِّسَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جملہ عقائد میں اور رسالت پر جملہ رسالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى مَرْتَبَتِهِ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے مرتبہ پر جملہ مراتب میں

الْمَرَاتِبِ وَمَنْقَبِهِ فِي الْمَنَاقِبِ وَمَنْزِلَتِهِ فِي الْمَنَازِلِ اللَّهُمَّ

اور منقبت پر جملہ مناقب میں اور منزلت پر جملہ منازل میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ

نُبُوَّتِهِ فِي النُّبُوَّاتِ وَوَسَائِطِهِ فِي الْوَسَائِطِ وَوَسِيلَتِهِ فِي

کی نبوت پر جملہ نبوتوں میں اور آپ کی وساطت پر جملہ وسائط میں اور وسیلہ پر

الْوَسَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

جملہ وسیلوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى قَنَاعَتِهِ فِي الْقَنَاعِيْنَ وَخَشِيَّتِهِ فِي الْخَاشِعِيْنَ

اور آپ کی قناعت پر جملہ اہل قناعت میں اور خشیت پر جملہ اہل خشیت میں



وَحَوْفِهِ فِي الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خوف الہی پر جملہ اہل خوف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فِعْلِهِ فِي الْأَفْعَالِ وَعَمَلِهِ فِي

اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے ہر فعل پر جملہ افعال مقبولین میں اور عمل پر

الْأَعْمَالِ وَيَتِيهِ فِي الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جملہ اعمال میں اور ان کی قسم پر جملہ قسموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَقِيْقَتِهِ فِي الْمَوْلُودِينَ وَإِسْمِهِ

محمد پر اور آپ کی اطہار پر اور آپ کے عقیقہ پر جملہ مولودین میں اور اسم مبارک پر

فِي الْأَسْمَاءِ وَعُمُرِهِ فِي الْأَعْمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جملہ اسماء میں اور عمر مبارک پر تمام عموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَيَاتِهِ فِي الْأَحْيَاءِ وَسَيِّئِهِ فِي

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی حیات اقدس پر جملہ اہل حیات میں اور آپ کے ہر ذات

الْأَسْتَانَ وَنُبُوِّهِ فِي النَّامِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جملہ انسان میں اور نمود افزائش پر جملہ اہل نمویں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طُفُولِيَّتِهِ فِي الْأَطْفَالِ وَصَبِيهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی طفولیت پر جملہ اطفال میں۔ اور بچپن پر تمام

فِي الصَّبِيَّانِ وَتَرَعُرْعِهِ فِي الْمْتَرَعِرِعِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تمام بچوں میں اور نوخیزی پر تمام نوخیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رَهَاقِهِ فِي الْمُرَاهِقِيْنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور قرب بلوغت پر قریب البلوغت افراد میں۔ اور جوانی پر جوانوں میں

وَفَتِيهِ فِي الْفَتِيَّانِ وَشَبَابِهِ فِي الشُّبَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور شباب پر اہل شباب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مَحْمَدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَهْوَلَتِهِ فِي الْكُهُولِ وَشَيْخُوخَتِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی کہولت پر اہل کہولت میں اور شیخوخت پر جملہ

فِي الْمَشَائِخِ وَذَاتِهِ فِي الدَّوَاتِ وَنُورِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَصُورَتِهِ فِي

اہل شیخت میں اور آپ کی ذات اقدس پر جملہ مقدس ذاتوں میں اور نور پر جملہ انوار میں اور صورت مقدسہ

الصُّوَرِ وَشَفَاعَتِهِ فِي الشُّفَعَاءِ وَوَسِيلَتِهِ فِي الْوَسَائِلِ وَرَابِطَتِهِ

پر جملہ صورتوں میں اور شفاعت پر جملہ شفاعتوں میں اور آپ کے وسیلہ پر جملہ وسیلوں میں اور رابطہ

فِي الرِّوَابِطِ وَنَعْتِهِ فِي التَّنَعُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر جملہ روابط میں اور نعت پر جملہ نعتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خُلُقِهِ فِي الْأَخْلَاقِ وَسِيرَتِهِ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے خلق پر جملہ اخلاق عالیہ میں اور سیرت طیبہ پر

السِّيَرِ وَشَيْئِمَتِهِ فِي الشَّيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام سیرتوں میں اور نخصلت پر جملہ نخصلتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَجِيَّتِهِ فِي السَّجَايَا وَفَضِيلَتِهِ فِي

سیدنا محمد کی آل پر اور عادت مبارکہ پر عادات میں اور فضیلت پر جملہ فضائل

الْفَضَائِلِ وَخِصَالَتِهِ فِي الْخِصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

میں اور نخصلت مبارکہ پر جملہ نخصائل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَحِيَّتِهِ فِي التَّحِيَّاتِ وَصَدَقِهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے تجبہ پر جملہ تحیات و ہدایات میں اور صدق

فِي الصَّادِقِينَ وَحَالِهِ فِي الْأَحْوَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً

پر تمام اہل صدق میں اور حال پر تمام احوال میں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت کا

فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خَلْقٍ وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا

بع ایمان کے اور ایمان کا بع حسن خلق کے اور کامرانی کا جس کے ساتھ فلاح ہو



وَرَحْمَةً وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور رحمت و عافیت کا اور مغفرت و رضوان کا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طُورِبِهِ فِي الْأَطْوَارِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے طریقہ پر جملہ اطوار اور طریقوں میں

وَطَبِيعِهِ فِي الطَّبَائِعِ وَشُغْلِهِ فِي الْأَشْغَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور طبیعت پر جملہ طبائع میں اور مشغولیت پر جملہ مشاغل میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَهْدِهِ فِي الْعُهُودِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے عہد پر جملہ عہد و پیمانوں میں

عَلَى بِلَاغَتِهِ فِي الْبُلَاغِ وَقِصَاحَتِهِ فِي الْقِصَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور بلاغت پر تمام اہل بلاغت میں اور فصاحت پر جملہ اہل فصاحت میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَخَائِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی سخاوت پر

فِي الْأَسْخِيَاءِ وَجُودِهِ فِي الْأَجُودِينَ وَكَرَمِهِ فِي الْكِرْمَاءِ اللَّهُمَّ

تمام اہل سخاوت میں اور جود و عطا پر جملہ اہل جود میں اور کرم پر جملہ اہل کرم میں ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لُبِّهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کے عقل خالص پر

فِي الْأَلْيَابِ وَعَقْلِهِ فِي الْعُقُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

تمام عقل میں اور آپ کے عقل و فہم پر عقول میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حِكْمَتِهِ فِي الْحِكْمِ وَحَدِيثِهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی حکمت پر حکمتوں میں اور حدیث پر

فِي الْأَحَادِيثِ وَخَيْرِهِ فِي الْأَخْبَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

احادیث میں اور خبر پر اخبار میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كِتَابِهِ فِي الْكُتُبِ وَمُصَاحِفِهِ فِي الْمَصَاحِفِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی کتاب پر تمام کتب میں اور مصحف پر جملہ مصاحف

وَمَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

میں اور ہر مسئلہ پر تمام مسائل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْقُولِهِ فِي الْمَنْقُولَاتِ وَمَثَلِهِ فِي الْأَمْثَالِ

کی آل پر اور آپ کے نقل کردہ قول پر جملہ منقولات میں اور بیان کردہ مثال پر جملہ امثال میں

وَوَعِظِهِ فِي الْوَعَاظِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آپ کے وعظ پر تمام وعظوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ فِي الْعُلُومِ وَعَلَىٰ حِفْظِهِ فِي الْحِفَاطِ

کی آل پر اور آپ کے علم پر جملہ علوم میں اور حافظہ پر تمام حافظہ والوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور

عَلَىٰ ذِكْرِهِ فِي الذِّكْرِ وَفِي الْقَوَاعِدِ وَأَدَبِهِ فِي الْأَدَابِ

آپ کے ذکر مبارک پر تمام اہل ذکر میں اور آپ کے قاعدہ پر جملہ قواعد میں اور ادب پر تمامی آداب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ

سَعَادَتِهِ فِي السَّعَادَاتِ وَسَيَادَتِهِ فِي السِّيَادَاتِ وَتَوَاضِعِهِ فِي

کی سعادت پر جملہ سعادات میں اور سیادت پر جملہ سیادات میں اور تواضع پر تمام

الْمُتَوَاضِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اہل تواضع میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَادَتِهِ فِي الْعَادَاتِ وَسَلَامِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَمُصَافِحَتِهِ

آل پر اور آپ کی مبارک عادات پر تمام عادات میں اور آپ کے سلام پر جملہ سلام دینے والوں میں اور



فِي الصَّافِحِينَ الْمُرَافِقِينَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ قَائِمًا وَ

مصافحہ پر تمام اہل مصافحہ اہل رفاقت میں۔ اے اللہ مجھے محفوظ فرما ساتھ اسلام کے حالت قیام میں۔ اور

احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ قَائِمًا وَأَحْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ رَاقِدًا وَلَا تُشِمْتُ

محفوظ فرما اسلام کے ساتھ حالت قنود میں اور محفوظ فرما اسلام کے ساتھ حالت نیند میں اور نہ خوش کرنا

بِئِي عَدُوٍّ أَوْ لِحَاسِدٍ أَوْ لِشَيْطَانٍ مُرِيدٍ أَمِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ

میری وجہ سے میرے دشمن کو اور حاسد کو اور نہ سرکش شیطان کو جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَبْرِهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کے صبر پر

فِي الصَّابِرِينَ وَعَاطِفَتِهِ فِي الْعَوَاطِفِ وَمَزَاجِهِ فِي الْمَزَاجِينَ اللَّهُمَّ

تمام اہل صبر میں اور مہربانی پر تمام مہربانیوں میں اور ہنسی و مزاج پر تمام مزاجوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَحْمَتِهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے رحم و کرم پر

فِي الرَّحْمَاءِ وَغَضَبِهِ فِي الْغَضَبَانِ وَكَظْمِهِ فِي الْكَظْمِينَ اللَّهُمَّ

جملہ اہل رحمت میں اور غضب پر تمام اہل غضب میں اور قوت برداشت پر تمام برداشت کرنے والوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَهْمِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے فہم و دانش پر

فِي الْأَفْهَامِ وَصَفْحِهِ فِي الصَّافِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

افہام میں۔ اور درگزر پر اہل عفو میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَيَاتِهِ فِي الْحَيَاتِينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی حیات پر تمامی حیات داروں میں

وَعَفْوِهِ فِي الْعَافِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور عفو پر تمام درگزر والوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَلْبِهِ فِي الْاِحْلَامِ وَمُشَاهَدَاتِهِ فِي الْمَشَاهِدَاتِ

کی آل اطہار پر اور آپ کے سلم پر تمامی حملوں میں اور مشاہدہ پر تمامی مشاہدات میں

وَعَدْلِهِ فِي الْعَادِلِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور عدل پر تمام اہل عدل میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شُكْرِهِ فِي الشَّاكِرِينَ وَاَمَلِهِ فِي الْاُمَمِ وَالْاُمَمِ

آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے شکر پر تمام اہل شکر میں اور امید و آرزو پر

اُمْنِيَّتِهِ فِي الْاِمَانِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

تمامی آرزوں میں اور تمام پر تمام تمناؤں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَاجَتِهِ فِي الْحَاجَاتِ وَغُرُضِهِ فِي الْاَغْرَاضِ

سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کی حاجت پر جملہ حاجات میں اور غرض و مقصد پر جملہ مقاصد میں

وَوَكْرِهِ فِي الْاَوْطَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَل

اور ضرورت پر جملہ ضرورتوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رُؤْيَاَتِهِ فِي الْمُرِّيَّاتِ وَكِرَامَاتِهِ فِي الْكِرَامَاتِ وَ

آل پر اور آپ کے دیدار پر جملہ دیداروں میں۔ اور کرامت و بزرگی پر جملہ کرامات میں اور

بَرَكَتِهِ فِي الْبَرَكَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

برکت پر جملہ برکات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَظَمِيَّتِهِ فِي الْعَظَمَاتِ وَاِرَادَتِهِ فِي الْاِرَادَاتِ

کی آل اطہار پر اور آپ کی عظمتوں پر تمام عظمت میں۔ اور ارادہ پر تمام ارادوں میں

وَاِشَارَتِهِ فِي الْاِشَارَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور اشارہ پر تمام اشارات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَوَكُّلِهِ فِي الْمَتَوَكِّلِينَ وَمَوْهَبَاتِهِ فِي الْمَوْهَبَاتِ

آپ کی آل پر اور آپ کے توکل پر تمامی اہل توکل میں اور عطیہ پر جملہ مواہب میں





وَعَطِيَّتِهِ فِي الْعَطِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہیہ پر جملہ عطیات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَأْيِهِ فِي الْأَسْرَاءِ وَذَهَبِهِ فِي

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی روئے پر تمام آراء میں اور آپ کے ذہن اقدس پر جملہ

الْأَذْهَانِ وَخَيْرِهِ فِي الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اذہان میں اور آپ کی خیر پر جملہ خیرات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَقِّهِ فِي الْحَقُوقِ وَفَضْلِهِ فِي

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے حق پر جملہ حقوق میں اور فضل و شرف پر تمام

الْأَفْضَالِ وَإِنْصَافِهِ فِي الْمُنْصِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

افضال میں۔ اور انصاف پر جملہ اہل انصاف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِرْهَاصِهِ فِي الْإِرْهَاصَاتِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے قبل از نبوت فرق عادات پر جملہ خوارق میں اور

مُعْجَزَاتِهِ فِي الْمُعْجَزَاتِ وَأَيَاتِهِ فِي الْآيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

معجزہ پر جملہ معجزات میں اور آیت صدق پر جملہ آیات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَلَالَتِهِ فِي الدَّلَالَاتِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی دلالت پر جملہ دلالات میں

وَعَلَامَتِهِ فِي الْعَلَامَاتِ وَبَيِّنَاتِهِ فِي الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور علامت پر جملہ علامات میں اور روشن دلیل پر جملہ دلائل بینہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بُرْهَانِهِ فِي الْبُرْهَانِينَ

ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کے برہان پر تمام براہین میں

وَهَيْئَتِهِ فِي الْهَيْئَةِ وَحُكْمِهِ فِي الْأَحْكَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَضَائِهِ

اور ہیئت عالیہ پر تمام ہیئتوں میں اور حکم پر جملہ احکام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما گنہگاروں کی قضاء



الْمُدْنِبِينَ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور مجھ فیصلہ پر اور نبی رحمت اور شفیع امت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب شفاعت عظمیٰ کے

الْعُظْمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقْبَلُ بِهَا دُعَاؤُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْمَعُ بِهَا اسْتِغَاثَتَا وَنِدَائِنَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو قبول فرمائے ہمارا استغاثہ اور پکار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ

تُسَلِّمُ بِهَا إِيْمَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے طفیل تو سلامت رکھے ہمارے ایمان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقْوِي بِهَا إِيقَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو قوی فرمائے ہمارے یقینوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو بخش دے ہمارے ذنوب کو۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُسْتُرُ

اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پردہ ڈھے

بِهَاعْيُونَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہمارے عیوب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر



مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ اِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس صلوات کے طفیل تو ہمیں محفوظ رکھے برائیوں کے ارتکاب سے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَفِّقُنَا بِهَا لِلْاَعْمَالِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں توفیق دے اعمال

الصَّالِحَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا

صالحہ کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُفْلِحُ بِهَا عَمَّا يُرْدِينَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں کامیابی عطا کرے ملکات سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكْسِبُ بِهَا مَا يَنْجِينَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہم اپنائیں اسباب نجات کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوات کے طفیل تو ہمیں عطا فرمائے ہر خیر اور بھلائی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُجَنِّبُ بِهَا عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جس کے طفیل تو ہم سے دور کر دے ہر قسم کے شر کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تُحَسِّنُ بِهَا اَخْلَاقَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل تو ہمارے اخلاق کو حسین بنا دے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُصَلِّحُ بِهَا اَحْوَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تو ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تَعْصِمُنَا

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمیں بچائے

بِهَآءِ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

معصیت اور گمراہی سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تَرْتُقِنَا بِهَا اِتِّبَاعَ السُّنَّةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے سنت و

وَالْجَمَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

جماعت کی اتباع ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تُبَعِّدُنَا بِهَا عَنْ اِقْتِرَانِ الْاَفَاتِ اَللّٰهُمَّ

آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں دور رکھے آفات کے قرب ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تَكُونُنَا

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری

بِهَآءِ الزَّلٰلَاتِ وَالْهَفَوَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حفاظت فرمائے لغزشات اور لغویات سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تُحْصِلُ بِهَا اَمَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل پورا فرمائے ہماری امیدوں کو ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تُخْلِصُ بِهَا لَكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل خالص کرے ہمارے اعمال کو

اَعْمَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی ذات کے لیے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوٰةٌ تَجْعَلُ بِهَا التَّقْوٰى زَادًا بِشَفَاعَتِهِ الْعُظْمٰى وَوَسِيْلَتِهِ الْكُبْرٰى

جس صلوٰۃ کے طفیل تو تقویٰ کو ہمارا زاد راہ بنائے بسبب آپ کی شفاعت عظمیٰ اور وسیلہ کبریٰ کے



وَأَجْعَلْ شَفَاعَتِي لِرُوحِهِ اللَّهُ تَعَالَى وَوَسِيلَتِي يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ

اور مجھے میری شفاعت محض رضائے الہی کے لیے اور بسنے میرا وسیلہ اے صاحب شفاعت اور

وَالْوَسِيلَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صاحب وسیلہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَوَةٌ تَزِيدُ بَهَا فِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل تو بڑھائے ہماری جدوجہد کو اپنے دین میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرُنُّ قَنَابَهَا إِلَّا سْتَقَامَةٌ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمیں اپنی اطاعت پر استقامت

طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عطا فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمُنِّحُنَا بِهَا الْإِنْسُ يَعْبَادُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمیں عطا کرے اپنی عبادت میں انس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہم پر آسان فرمائے

الْأُمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمامی امور کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ بِهَا عَلَيْنَا بَرْدَ الْعَيْشِ وَالسُّرُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہم پر برقرار رکھے خوشی اور مسرت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبَارِكُ بِهَا

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل برکت عطا کرے ہمیں

فِيمَا أَعْطَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عطا فرمودہ اشیاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَاءَ بِمَا آتَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل عطا فرمائے عطا کردہ اشیاء پر رضامندی۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُزَكِّي بِهَا

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل پاک کرے

عَنِ الْهَوَىٰ نَفُوسَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

خواہشات نفسانیہ سے ہمارے نفوس کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُطَهِّرُ بِهَا عَمَّا سِوَاكَ قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ

کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تری پاک فرما دے ہمارے قلوب کو اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُصَغِّرُ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل حقیر بنائے تو

بِهَا الدُّنْيَا فِي عِيُونِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

دنیا کو ہماری نظروں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل عظیم بنا دے اپنے جلال کو ہمارے قلوب میں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل

تُرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تو راضی کر دے ہیں اپنی قضاء پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوزِعُنَا بِهَا عَنَّا شُكْرَ نِعْمَائِكَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل توفیق دے ہیں اپنی نعمتوں کے شکر کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل

تُصَحِّحُ بِهَا تَوَكُّلَنَا وَرِعْتَنَا دَنَا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

درست فرمائے ہمارے توکل اور اعتماد کو اپنی ذات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُحَقِّقُ بِهَا وَتُوقِنَا وَالتَّجَانُّنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل پاچیزا فرمائے ہمارے وثوق و التجانن کو

إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

طرف اپنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تُرَضِّيكَ وَتُرَضِّيهِ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

جو صلوٰۃ تجھے راضی کرے اور انہیں راضی کرے اور تو راضی ہو اس کے طفیل ہم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُجْبِرُ بِهَا مَا قَاتَ مِنَّا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس صلوٰۃ کے طفیل پورا فرمائے ہماری کوتاہی کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

جس کے طفیل ہمیں پناہ دے تجھ اور ریاکاری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْحَسَدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل محفوظ فرمائے ہمیں حسد

وَالْكِبْرِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور تکبر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُكْسِرُ بِهَا شَهْوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری خواہشات نفس کو ختم فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُخْرِئُ بِهَا أَعْدَاءَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل رسوا کرے ہمارے اعدا کو۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تَحْسِنُ بِهَا

وسلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل حسین بنا دے

اٰمِنِيَّتَنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہماری آرزوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَلَوٰةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا اٰمِنِيَّتَنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کے طفیل عطا کرے ہمیں ہماری آرزوئیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تُجَيِّرُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالْجَانِّ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بنا دے نفس اور جنوں کے شر سے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ

اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے

تُعَيِّدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالْجَانِّ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

طفیل بچائے ہمیں نفس اور جنوں کے شر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تُعَيِّدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل پناہ دے ہمیں نفس اور شیطان

وَالشَّيْطَانِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

کے شر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الدَّلٰةِ وَالْقَلَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جس کے طفیل ہمیں محفوظ رکھے قلت اور دولت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ تُعَيِّدُنَا بِهَا مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے دل

الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

کی سنگینی اور غفلت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی





سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا عَمَّا يُشْغِلُنَا عَنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جس کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے اپنی ذات سے مشغول رکھنے والی اشیاء سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَفِّقُنَا بِهَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل توفیق دے ہمیں

لِمَا تُقَرِّبُنَا مِنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنے قریب کرنے والے اعمال کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْعَلُ بِهَا سَعِينًا مَشْكُورًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا اللَّهُمَّ

آل پر جس کے طفیل بنائے ہماری سعی کو مشکور اور ہمارے عمل کو مقبول۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهَيِّئُنَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہمیں

بِهَاءِ عَزَاؤٍ وَقَبُولًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

عزت و قبولیت عطا کرے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقْطَعُ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ إِحْتِيَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جس صلوات کے طفیل ختم فرما دے اپنے ماسوا سے ہماری محتاجی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدِيمُ بِهَا بِنِعْمَتِكَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل دائمی بنا دے اپنی نعمتوں کے ساتھ

إِبْتِهَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ہماری خوشی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ بِهَا فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَكَيْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جس کے طفیل تو تمام امور میں ہمارا کار ساز ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ بِهَا الْقَضَاءُ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل تو ہماری حاجات پوری



حَوَائِجِنَا كَفِيلاً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

فرمانے کا ضامن ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں بچائے تمام تر بلیات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَنْحُنَّا بِهَا جَزِيلَ الْعَطَايَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے عظیم ترین عطیات۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل

تَرْتَرُّ قُنَاتُهَا عَيْشَ الرَّغْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمیں نصیب فرمائے خوشگوار گزران۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَنْحُنَّا بِهَا عَيْشَ السُّعْدَاءِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے سعادت مندوں والی گزران۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُفْنِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل فنا کرے

بِهَائِي صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہماری صفات کو اپنی صفات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْحُوبُهَا فِي ذَاتِكَ ذَوَاتِنَا اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جس کے طفیل محو فرمائے ہماری ذاتوں کو اپنی ذات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُحَقِّقُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل پابند

بِهَاءِ إِلَيْكَ لِقَائِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بنادے ہمارے لیے اپنی لقاء کو اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ بِهَا بَتَوَاتُرِ أَنْوَارِكَ صَفَائِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جس صلوة کے طفیل دائمی بنا دے اپنے لگاتار انوار کے ذریعے ہماری صفائی کو۔ اے اللہ صلوة  
وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسَلِّكُنَا بِهَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں چلاتے  
مَسَلِّكَ أَوْلِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنے اولیاء کی راہ سلوک پر۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُرْوِينَا بِهَا مِنْ شَرَابِ أَصْفِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر جس سے سیراب فرمائے ہمیں اپنے خواص کے شرابِ رحمت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوة  
وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَصِّلُنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوة کے طفیل ہمیں واصل فرمائے  
بِهَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اپنی ذات تک۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل  
مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ بِهَا حُضُورَنَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

پر جس کے طفیل ہمیں دائم الحضور بنا دے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل سہل فرمائے ہم پر وقتِ موت کی  
الْمَوْتِ وَعَمْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

مدہوشیاں اور سختیاں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُجَيِّرُنَا بِهَا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكُرْبَتِهِ اللَّهُمَّ

کی آل پر جس کے طفیل بجائے ہمیں قبر کی وحشت اور کربت سے۔ اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ بِهَا

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل بھر دے



قُبُورِنَا بِأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہماری قبور کو انوار رحمت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا قُبُورَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ

سیدنا محمد کی آل پر جس کے طفیل ہماری قبور کو جنتی باغات میں سے باغیچہ بنا دے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل

تَحُشِّرُنَا بِهَامَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہمارا حشر فرمائے انبیاء و صدیقین کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبْعَتْنَا بِهَامَعَ الشُّهَدَاءِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطمہار پر جس کے طفیل ہمارا حشر فرمائے شہداء اور

الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

صالحین کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَتَهُ وَشَفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عطا فرمائے محبوب کریم کی قربت اور شفاعت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا بَرَكَاتَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطمہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری فرمائے ہم پر آپ کی برکات

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطمہار پر جس صلوٰۃ

تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے طفیل ہمیں محفوظ رکھے روز قیامت کی ہر شدت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْمَلُنَا بِهَا يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطمہار پر جس کے طفیل ہمارا احاطہ فرمائے روز قیامت میں رحمت و کرم نوازی



اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلٰوةً تَصْرِفُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلَدَاتِهَا قُلُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس صلوٰۃ کے طفیل پھیر دے ہمارے قلوب کو دنیا اور اس کی لذات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَجْمَعُ بِهَا فِى الْاِسْتِثْبَاقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل مجتمع فرمادے اپنے شوق ذات

عَلَيْكَ هُمُومَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

میں ہمارے تمام عزائم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُوَحِّشُنَا بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل متنفر کر دے اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُؤَنِّسُنَا بِهَا بِقُرْبِكَ وَوِلَايَتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں مانوس فرمائے اپنے قرب اور دوستی کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل

تُقَرِّبُنَا فِى مُنَاجَاةِكَ عِيُوْنَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مُحَمَّدٍ افرمائے اپنی مناجات میں ہماری آنکھوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُحَسِّنُ بِهَا بِكَ طُنُوْنَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل حسین بنا دے اپنے ساتھ ہمارے طنون کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُشْرِحُ بِهَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارے سینے

بِعُرْفَتِكَ صُدُوْرَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اپنی معرفت کے ساتھ کشادہ فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدِيْمُ بِهَا فِى ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ سُرُوْرَنَا

کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمیشہ رکھے اپنے ذکر اور فکر میں ہمارے بواطن کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات

تَرْفَعُ بِهَا عَنْ قُلُوْبِنَا الْحُجُبَ وَالْاَسْتَارَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کے طفیل اٹھارے ہمارے دلوں پر سے محجبات اور پردوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا شَهُوْدَكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے اپنا شہود

فِى جَمِيْعِ الْاَثَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

تمام آثار میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَقْطَعُ بِهَا حَدِيْثَ نَفُوْسِنَا بِاَعْلَامِكَ اَللّٰهُمَّ

آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل قطع فرمادے ہمارے وساوس کو عطا علم کے ذریعے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُبَدِّلُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمارے

بِهَا هُوَ اَجْسَ قُلُوْبِنَا بِالْهَامِكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

قلوب کے وساوس کو بدل دے اپنے الہام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُفِيْضُ بِهَا عَلَيْنَا جَدَّ بَاتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہم پر فیضان فرمادے اپنے خدب ذات کا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل

تَشْبِلُنَا بِهَا بِنَفْحَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ہمارا احاطہ فرمائے اپنے عطیات کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْلُنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّارِّينَ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ

کی آل پر جس کے طفیل ہمیں نازل فرماوے اپنی طرف چلنے والوں کی منازل میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تو

بِهَا مَنَزِلَتَنَا وَمَكَانَتَنَا لَدَيْكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بند فرمائے ہمارے مرتبہ و مقام کو اپنے ہاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْتَحِقُّ بِهَا فِیْ اِرَادَتِكَ اَمَانَتَنَا اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل پائیدار فرمائے اپنے ارادہ میں ہماری آرزوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدْحِقُّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل قنارے

بِهَا فِیْ اَفْعَالِكَ اَفْعَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اپنے افعال میں ہمارے افعال کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمارے میزانِ حسنات کو بھاری فرمائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُثَبِّتُ بِهَا عَلٰی

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ثابت رکھے

الصِّرَاطَ اَقْدَامَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

پل صراط پر ہمارے قدموں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدْخِلُنَا بِهَا جَنَّتِ النَّعِيْمِ بِلا حِسَابٍ اَللّٰهُمَّ

کی آل پر جس کے طفیل داخل فرمائے ہیں جناتِ نعیم میں بغیر حساب کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبِيحُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہم پر مباح فرمائے



لِنَابِهَا النَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ مَعَ الْأَحْبَابِ أَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنے دیدار ذات کو بمع ہمارے احباب کے آمین۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَنحِلُنَا بِهَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے

حُبَّ إِلَهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ طُالِبِينَ فَاعْطِنَا فَوْقَ مَا نُوَمِّلُ

محبت آل رسول کی اور تمام اصحاب رسول کی۔ اے ہمارے اللہ ہمیں عطا فرما زائد اس سے جس کی امید رکھتے

وَمَا لَا يَخْطُرُ بِأَلِّ يَأْمَنُ هُوَ وَاهِبٌ كَرِيمٌ مُّجِيبُ السُّؤَالِ فَإِنَّهُ

اور جو نہیں کھٹکتا کسی کے دل میں اے کہ واہب و کریم ہے سوال پورا کرنے والا ہے تحقیق

لَا مَانِعَ لَهَا أَعْطِيَتْ وَلَا مُعْطَىٰ لَهَا مَنَعَتْ وَلَا سَأْدٌ لَهَا قَضِيَتْ

نہیں روکنے والا تیری عطا کو اور نہیں کوئی عطا کرنا والا تیرے روکے ہوئے کو اور نہیں کوئی ٹانے والا تیری قضاء کو

وَلَا مُبَدِّلَ لَهَا حَكْمَتٌ وَلَا هَادِيَ لَهَا أَضَلَّتْ وَلَا مُضِلٌّ لَهَا

اور نہ تبدیل کرنے والا تیرے حکم کو۔ اور نہ ہدایت دینے والا تیرے گمراہ کردہ کو اور نہیں گمراہ کرنے والا تیرے

هُدَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

ہدایت یافتہ کو۔ تو حکم نافذ کرتا ہے تجھ پر حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا اور نہیں نفع دیتا کسی صاحبِ نجات و اقبال کو

مِنْكَ الْجَدُّ وَلَا مُقْعَدٌ لِمَنْ أَقَمْتَ وَلَا مُعَذِّبٌ لِمَنْ رَحِمْتَ وَلَا

تجھ سے اس کا نجات و اقبال۔ نہیں بھٹانے والا تیرے قائم کئے ہوئے کو اور نہیں کوئی عذاب دینے والا تیرے مرحوم کو اور نہیں

حِجَابٌ لِمَنْ كَشَفْتَ لَهُ وَلَا كُرُوبٌ ذَنْبٍ لِمَنْ عَفَوْتَ وَعَصَمْتَ

کوئی محجوب رکھ سکتا تیرے بے پردہ کئے ہوئے کو۔ اور نہیں اندھ گناہوں کے اس کے لیے جسے عفو فرمائے اور بچائے تو نے

وَقَدْ أَمَرْتَ وَنَهَيْتَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا عَلَى الطَّاعَةِ قِيْنَا وَبِحَوْلِكَ وَ

امر فرمایا اور نہی فرمائی اور قوت نہیں ہم میں اطاعت کی لہذا قوت بخش اور اپنی قدرت و طاقت

قُدْرَتِكَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّبْنَا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِطَاعَتِكَ وَنُبْعَدُ

گناہوں سے دور رکھ تاکہ ہم قریب ہو سکیں تیرے بذریعہ اطاعت کے اور تیری





عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَنَدَخُلُ فِي وَصْفِ هِدَايَةِ مَحَبَّتِكَ وَتَكُونُ

معصیت سے دور رہ سکیں اور داخل ہوجائیں تیری محبت میں تیری بیان کردہ راہ کے مطابق اور تیرے

بِأَدَابِ عِبُودِيَّتِكَ قَائِمِينَ وَبِجَلَالِ رُبُوبِيَّتِكَ طَائِعِينَ وَاجْعَلْ

آداب عبودیت پر قائم ہوں اور تیرے جلال ربوبیت کے لیے سرحم ہوں۔ ہماری زبانوں کو

الْسُّنْتَنَا نَاطِقَةً بِذِكْرِكَ وَجَوَارِحَنَا قَائِمَةً بِشُكْرِكَ وَنُفُوسَنَا

اپنے ذکر کے ساتھ گویا کہ اور ہمارے اعضاء کو اپنا شکر گزار۔ ہمارے نفوس کو

سَامِعَةً مُطِيعَةً لِأَمْرِكَ وَاجْرُنَا مِنْ مَكْرِكَ وَلَا تُوَمِّدْنَا مِنْهُ حَتَّى

اپنے امر کا سننے اور ماننے والا بنا۔ اور ہمیں محفوظ رکھنا اپنی خفیہ تدبیر سے اور نہ ہمیں اس سے بخوف کر دینا حتیٰ کہ

لَا نَبْرَحَ لِعَظِيمِ عِزَّتِكَ مُذْعِنِينَ وَمِنْ سَطْوَةِ هَيْبَتِكَ خَائِفِينَ

ہم ہمیشہ تیرے عظیم غلبہ کا یقین رکھیں اور تیری عظیم سطوت سے خوفزدہ رہیں

فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتی مگر اہل تضران قوم۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً أَنْالُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کی برکت کے بطفیل پاؤں

بِبَرَكَاتِهَا التَّسْلِيمَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَأَذْرِكُ بِعَظَمَتِهَا الْإِخْلَاصَ فِي سَائِرِ

سلامتی تمام احوال میں اور پاؤں اس کی عظمت کے طفیل اخلاص تمام

الْأَعْمَالِ وَتُصَلِّحُنِي بِحُرْمَتِهَا الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ وَاحْفَظْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

اعمال میں اور درست فرمائے تو اس کے طفیل میرے تمام اقوال و افعال اور محفوظ رکھے تمام

السَّيِّئَاتِ وَأَعْصِنَّا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ وَأَعِدْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ

برائیوں سے اور عصمت عطا کرے تمام خواہشات نفس سے اور پناہ دے تمام تر غفلتوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ اور سلام تمام نازل فرما سیدنا و مولانا محمد پر



وَهَادِينَا وَمَهْدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوَةٌ تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

جرہمارے ہاری اور تیرے ہدایت یافتہ ہیں اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں نجات دے تمام

الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَشْفِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَسْقَامِ وَالْبَلِيَّاتِ وَ

ہوں کیوں اور آفتوں سے۔ اور شفا بخشے ہیں تمام بیماریوں اور بلیات۔ اور

تُبَاعِدُنَا بِهَا مِنْ اقْتِرَانِ الْآفَاتِ وَتُبَارِكُ لَنَا فِي الرِّزْقِ وَالْحَسَنَاتِ

دور فرمائے بطفیل اس کے آفات کے قرب سے اور برکت دے رزق اور حسنات میں

وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتُكْسِرُ

اور پورا فرمائے ہمارے تمام حاجات کو اور پاک کرے ہیں تمام سیئات سے اور قطع فرمائے

لَنَا بِهَا مِنْ شُرُوبِ الشَّهْوَاتِ وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ نَفْسِ الْأَمْسَارَةِ وَ

بطفیل اس کے ہماری بری خواہشات اور پناہ دے ہیں بطفیل اس کے نفس امارہ اور

الشَّيَاطِينِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَتَهْوِنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ

شیاطین سے ہر ساعت میں اور سہل فرمائے ہم پر اس کے طفیل موت کی مدہوشیاں اور

الْغَمَرَاتِ وَتُنَوِّرُ لَنَا بِهَا أَنْوَارَ الْبَرَكَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى

سختیاں۔ اور منور فرمائے ہمارے لیے برکات کے انوار اور بلند فرمائے اپنے ہاں اعلیٰ

الدرجاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي

درجات پر اور پہنچائے آخری حدود تک تمام تر خیرات میں

الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ يَا رَبُّ

دنپوی زندگی میں اور موت کے بعد ہر لمحہ مطابق تعداد اپنے جملہ معلومات کے۔ یا رب

يَا مُجِيبُ أَرْجَائِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيَّ مَنْ قَالَ فِي

یا مجیب قبول فرما مجھے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما اس ذات اقدس پر

حُضُورِهِ تَعَالَى لَبِّيكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ

جس نے کہا تیرے حضور میں۔ میں حاضر بارگاہ ہوں اور کربستہ خدمت ہوں اور نصیر تمام تر تیرے دست قدرت میں ہے اور

إِيَّاكَ وَالْمَهْدَىٰ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِيَّاكَ

شر تیری طرف منسوب نہیں ہے اور ہدایت یافتہ وہی جسے تو ہدایت دے اور تیرا عبد حاضر خدمت ہے اور تجھی سے ہے

لَا مُنْجَا وَلَا مَدْجَا إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّ

تیری ہی طرف۔ نہ جانے نجات ہے اور نہ جانے پناہ مگر طرف تیرے۔ تو بابرکت ہے بلند شان والا ہے۔ پاک ہے۔ اے مالک

الْبَيْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ الرَّضَىٰ وَ

کعبہ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوات رضی اور

أَرْضٍ عَنْ أَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرَّضَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

راضی جو ان کے اصحاب سے جیسے کہ حق ہے رضامند۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ إِذَا أَصْبَحَتْ وَإِذَا طَلَعَتْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ہر وقت میں کہ جب صبح ہو اور جب سورج طلوع ہو

وَإِذَا زَالَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور جب ڈھلے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا زُلْزِلَتْ وَمَعَ السَّمَاءِ إِذَا انْفَطَرَتْ وَإِذَا كُشِطَتْ

پر اس وقت میں کہ زمین لرزے اور آسمان پھٹ جائے اور اس کی چھت زمین سے اٹھالی جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ساتھ

الصُّوْرِ إِذَا انْفَجَتْ وَمَعَ الْجِبَالِ إِذَا أُسِيرَتْ وَمَعَ الْوَحُوشِ إِذَا

صور اسرائیل کے جبکہ پھونکا جائے اور ساتھ پہاڑوں کے جب چلائے جائیں اور ساتھ جنگلی جانوروں

حُشِرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے جب جمع کر دئے جائیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَعَ الشَّمْسِ إِذَا كُوِّرَتْ وَمَعَ الْقَمَرِ إِذَا أُدْبِرَتْ وَمَعَ الْبِحَارِ إِذَا فُجِّرَتْ

ساتھ سورج کے جبکہ بے نور کر دیا جائے اور ساتھ چاند کے جب اٹھا پھرے۔ اور ساتھ سمندروں کے جب باہم ملا جائیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَاءِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ آسمان کے

إِذَا انْشَقَّتْ وَمَعَ الْقُبُورِ إِذَا بُعِثَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جبکہ بھٹ جائے اور ساتھ قبور کے جب کھولی جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا دُكَّتْ وَمَعَ الصُّدُورِ إِذَا

محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ زمین کے جبکہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ساتھ سینوں کے جبکہ

حُصِلَتْ وَمَعَ الدَّرَجَاتِ إِذَا رُفِعَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کے الذ آٹھارکئے جائیں اور ساتھ درجات کے جب بلند کئے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الْكُتُبِ إِذَا قُرِئَتْ وَمَعَ الْحَسَنَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ساتھ نامائے اعمال کے جب پڑھے جائیں اور حسنات کے

إِذَا ظَهَرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جب ظاہر کی جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مَعَ السَّيِّئَاتِ إِذَا أُبْدِلَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ساتھ سیئات کے جبکہ نیکیوں سے بدلیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَعَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر ساتھ دن کے جبکہ روشن ہو اور رات کے جبکہ چھا جائے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ مَنْ أَمِنَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ ہر ایمان والے اور

اتَّقَى وَمَعَ كُلِّ مَنْ سَبَّحَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

متقی کے اور ہر تسبیح کہنے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ كُلِّ مَنْ صَدَّقَ وَاهْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر ساتھ ہر تصدیق کرنے والے اور ہدایت پانے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ النُّجُومِ وَكَوَاكِبِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ تمام نجوم و کواکب کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ

الْكُوَاكِبِ إِذَا انْتَثَرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ستاروں کے جبکہ جھڑ پڑیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَاجَاتِ إِذَا قُضِيَتْ وَمَعَ الْجَنَّةِ إِذَا

کی آل اطہار پر ساتھ حاجات کے جبکہ پوری کی جائیں اور ساتھ جنت کے جب کہ

أَزْلَفَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قریب لانی جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

إِذَا الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَغَرَبَتْ وَأَضَاءَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جب سورج طلوع ہو اور غروب ہو اور روشن ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْوَأَقَعَةُ وَقَعَتْ وَإِذَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ قیامت قائم ہو اور جب

الْأَرْضُ زَلَّتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمین متزلزل ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَانْشَقَّتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جبکہ آسمان پھٹے اور ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب سارے بے نور ہو جائیں اور جب

الْجِبَالُ سِيرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پہاڑ (روٹی کے گالوں کی مانند چلائے جائیں)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ وَفُجِّرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

آل پر جب کہ سمندر ابلے جائیں اور شیریں و کھاری باہم ملائے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ وَإِذَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب کہ محلِ تمام والی اوشنیاں آوارہ کردی جائیں

الصُّحُفُ نَشَرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور صحت اعمال پھیلانے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر جبکہ جنگلی جانور جمع کر دئے جائیں اور رسولوں کیلئے جو ابد ہی کیلئے وقت معین کیا جائے۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْجَنَّةُ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جبکہ جنت اہل ایمان

أُزْلِفَتْ وَالْجَحِيمُ سُعِرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے قریب لائی جائے اور جہنم بھڑکائی جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جب قبر میں اٹھائی جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا النَّهَارُ تَجَلَّىٰ وَإِذَا اللَّيْلُ يَغْشَى اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ دن روشن ہو اور رات گہری ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا جَنَّ الظُّلَامُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ تاریکی چھائے

وَكَفَّ صَوْبَ الغَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور رک جائے بادلِ کابرسنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا نَاحَتْ مُطَوَّقَةٌ وَسَارَتْ الْوُفُودُ مَغْرِبَةً وَمَشْرِقَةً

آل پر جب تک محورِ زمزم ہو جنگلی کبوتری اور چلیں و نور مشرق و مغرب میں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک

رَفَّتِ الْعُرُوسُ وَجَرَى الْبَدَا فِي الطُّرُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دلہنوں کا زفاف ہو اور جاری ہو سیاہی (سے تحریر صحائف میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا حَدَّثَ الرَّفَاقُ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک رفقہا باہم گفتگو کریں اور

حَنُّ مُشْتَاقٍ إِلَى التَّلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

راغب ہوں ارباب شوق ملاقات احباب کی طرف۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا حَتَّتْ إِلَيْهِ الرِّكَابُ وَسَاقَتْ إِلَيْهِ الدِّجَابُ

آپ کی آل پر جب تک شوق رکھیں ان کی طرف سواریاں اور چلیں طرف ان کی عمدہ اونٹنیاں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

أَضَاءَتِ الشَّمْسُ وَمَا صَلَّيْتَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سورج روشن ہو اور پانچوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ لے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا ذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک نکلے افق شرق سے نکلنے والا اور غروب

غَاسِقٌ وَانْهَمَرَ وَادِقٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہو تاریکی پھیلانے والا اور برسے برسے والا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَعَتِ الْعِمَائِمُ وَحَمَتِ الْحَوَائِمُ وَسَرَحَتِ

آپ کی آل پر جب تک کبوترز مو سبج رہیں اور چکر کھائیں چکر کھانے والے اور چریں

الْبَهَائِمُ وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ وَشَدَّتِ الْعِمَائِمُ وَتَسَّتِ التَّوَائِمُ اللَّهُمَّ

جھاریں اور نفع دیں تمویذات اور باندھی جائیں دستاریں اور نشوونما پائیں اہل تم۔ لے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أْبْلَجَ الْإِصْبَاحُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک روشن ہوں صمیم

وَهَبَّتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْيَاحُ وَتَعَاقَبَ الْغَدُورُ وَالرَّوَّاحُ وَتَقَلَّدَتِ

اور چلیں ہوائیں اور زمین پر ریٹیلیں اجسام اور یکے بعد دیگرے آئے صبح اور شام اور حامل کی جائیں

الضَّفَا حُ وَأَعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ اللَّهُمَّ

تلاویں۔ اور باندھے جائیں نیزے اور درست رہیں اجساد و ارواح۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جب تک

الْأَفْلَاقُ وَدَجَّتِ الْأَحْلَاقُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلَاقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

افلاک مح گردش رہیں اور تاریکیاں چھائی رہیں اور ملائکہ تسبیح کہتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَأَلَّقَ بَرْقٌ وَتَدَقَّقَ وَدَقَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک چمکتی رہے بجلی اور برسے بارش

وَمَا سَبَّحَ دَعَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور تسبیح کہے رہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَا أَرْجَحَتِ الرِّيحُ سَحَابًا رُكَّامًا وَذَاقَ كُلُّ ذِي رُوحٍ حَمَامًا

پر جب تک اٹھائیں آندھیاں تہ بہ تہ بادلوں کو اور چکھے ہر ذی روح موت کو

وَأَوْصَلَ السَّلَامَ لِأَهْلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا اللَّهُمَّ

اور پہنچا سلام اس کے حقداروں کو دار السلام میں بطور تحیہ و سلام کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَوْفَضَ بَارِقٌ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک چمکنے والا

وَنَطَقَ نَاطِقٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور کلام کرے کوئی صاحب نطق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل





مُحَمَّدٍ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ طَائِفٌ وَوَقَفَ بِعَرَفَاتِ الْخَيْرِ وَاقِفٌ

پہر - جب تک طواف کرے کوئی طواف کرنے والا بیت اللہ کا اور وقوف کرے عرفات میں کوئی ٹھہرنے والا -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَامَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک آپ کا

ذِكْرُهُ مَنْشُورٌ وَفَضْلُهُ مَذْكُورٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ذکر عام رہے اور آپ کے فضل و شرف کے تذکرے رہیں - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا طَارَ طَائِرٌ وَسَارَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَائِرٌ

اور آپ کی آل اطہار پر جب تک پر ماریں پر مارنے والے اور چلیں روئے زمین پر چلنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

غَتَى الْهَضَارُ وَحَتَّى غَرِيبٌ إِلَى الدِّيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نغمہ سراسر ہے مرغ ہزار داستان - اور راغب ہو کوئی بھی مسافر وطن کی طرف - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا جَرَى قَلَمٌ وَذَكَرَ اللَّهُ ذَاكِرٌ فِيهِمْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک چلے کوئی قلم اور ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اہل ذکر اپنی زبان سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

تَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ وَاخْتَلَفَا الْجُدِيدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى


یکے بعد دیگرے آتے رہیں میل و نہار اور دن رات - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَوْرَقَتِ الْأَشْجَارُ وَرَقَةٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک برقرار رہے درختوں کا ایک بھی پتہ

وَاطْرَقَتْ بِالْجُفُونِ حَدَقَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور ہلک چھپے کوئی بھی آنکھ - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا صَحِبَ الْمَرْءُ الْأَمَلَ وَحَلَّتْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک مصاحب ہو کوئی شخص آرزو کا اور پہنچے

الشَّمْسُ بِبُرْجِ الْحَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

سورج برج حمل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَ فِي الْأَفْقِ فَذَكَ وَسَجَدَ لِلَّهِ مَلِكٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جب تک گردش کرے افق میں نلک اور سجدہ کرے اللہ کے لیے کوئی نوری ملک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اسْتَهَلَّتِ الشُّهُورُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک ماہ نور طلوع ہوتے رہیں اور

غَدَّتِ الْحُورُ فِي الْقُصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

حوریں جنتی عمارتوں میں محو ترنم رہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَزْهَوَتْ النُّجُومُ وَعَدَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

کی آل اطہار پر جب تک ستارے روشن رہیں اور چہرے سجدہ ریز رہیں حی قیوم کے حضور۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَامَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

سَتْرُكَ وَإِنِّي وَمُلْكُكَ فِي الْوُجُودِ بَاقِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پردہ کفایت فرما رہے (عالمیوں پر) اور تیرا ملک موجود باقی رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَامَ جُودُكَ وَإِنِّي وَلُطْفِكَ فِي الْأَنَامِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک تیرا جود محیط (خلق محتاج) رہے اور تیرا لطف مخلوق کو

كَافِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کفایت کرتا رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَا دَامَ خَيْرُكَ وَقَدْ وَحَكْمُكَ فِي الْعِبَادِ نَافِذٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جب تک تیری خیرات برستی رہے اور تیرا حکم بندوں میں نافذ رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَبَّحَ الْعَرْشُ بِالسَّنَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک عرش تیسع خواہ رہے ہر قسم کی زبانوں اور

لغَاتٍ وَقَدَّسَ الذَّاتُ نَفْسَهُ بِذَاتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

لغات کے ساتھ اور ذات باری تعالیٰ اپنی ذات کا تقدس خود بیان کرتی رہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَالْبَسَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک قائم رہے دوپہر کا آفتاب اور اوڑھے

الْمَرْءُ رِدَاءً مَا أَسْرَهُ مِنْ سِرِّرِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مرد چادر اپنے مخفی اسرار کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَلْفَتِ الطَّيْرُ أَوْ كَارَهَا وَأَبْرَنْتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک الفت رکھیں پرندے اپنے گھونسلوں سے اور ظاہر

الْقَوَائِمِ أَفْكَارَهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کریں قافیوں کو ان کے افکار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا وَسَقَ اللَّيْلُ سَوَادَهُ وَقَدَّحَ الْفَجْرُ بِنَادِهِ

کی آل اطہار پر جب تک رات اپنی تاریکی کو پھیلانے اور فجر اپنے نور کا چھتاق روشن کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک

اَقْتَصَّ بِأَرْزِي الْفَجْرُ عَرَابَ الظَّلَامِ وَابْتَسَمَتْ ثَقُورُ الْبَاطِلِ عَنْ

پہچھا کرے شہاز فجر ظلمت کے زارغ سیاہ کا۔ اور مسکراتی رہیں وادیوں کے کنارے پردوں سے پھوٹنے والے

أَزَاهِرِ الْأَكْهَامِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

روشن خوشوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُرْضِيهِ وَتَرْضَىٰ الْعَالِي الْأَعْلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر ایسی صلوات جو انہیں راضی کرے اور بلند تر شان والے اللہ بزرگ کو۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنْدَ كُلِّ طُرْفَةٍ عَيْنٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ہر آنکھ کے بھینکتے وقت

أَوْ تَنْفُسٍ نَفْسٍ وَعِنْدَ تَفَكُّرِ الْقَلْبِ أَوْ حَرَكَةِ النَّفْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور ہر نفس کے تنفس کے وقت اور دل کے ہر تفکر کے وقت اور نفس کی ہر حرکت کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنْدَ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر وقت ہر حرکت اور

سَكُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سکون کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَاةً أَجْرُهَا لَدَيْكَ غَيْرُ مَمْنُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوٰۃ کا اجر تیرے ہاں ختم نہ ہونے والا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّوَدِّيَةً لِحَقِّكَ وَحَقِّهِ وَصَلَاةً صَلَّيْتَهَا

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ ادا کرنے والی ہو تیرا حق اور ان کا حق اور ایسی صلوٰۃ جو تو نے

عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

بیسوی کسی پر بھی مخلوق میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَا أَيَّامَهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

کی آل اطہار پر جس کے طفیل تو پہچان کرائے ہماری ان کو جس دن دیکھے ہر شخص جو

يَدَاؤُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس نے آگے بھیجا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

أَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ وَصَلَوَاتِ الْقَائِمَةِ بِذَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو افضل ہو تیری تمام صلوات سے (جو بھیجی ہیں) اور جو صلوات قائم ہو، تیری ذات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْتَعْمِلُنَا بِهَا فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عمل پیرا بنانے



مَرْضَاتِكَ وَتَسْتَوْجِبُ بِهَا نُزُولَ رَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنے پسندیدہ امور پر اور مستحق ہوں ہم تیری رحمت و برکات کے نزول کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَلَ صَلَوةٍ صَلَّيْتَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کامل ترین صلوٰۃ ان سے جو تو نے بھیجی ہیں

عَلَيْهِ وَأَفْضَلَ صَلَوةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

ان پر اور افضل ترین صلوٰۃ جس کے ساتھ تو نے ان پر انعام فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْمَلَ صَلَوةٍ خَصَّصْتَ بِهَا عِلَّةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر عام ترین صلوٰۃ جس کے ساتھ منتخب فرمایا ان کی برتری کو

وَأَوْفَرَ صَلَوةٍ كَرَّمْتَ بِهَا ذَاتَهُ وَمَرَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور وافر ترین صلوٰۃ کہ مکرم فرمایا ان کی ذات اقدس کو اور ان کے منظم کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَلَ صَلَوةَاتِكَ الْأَقْدَسِيَّةِ وَأَعْظَمَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی صلوات مقدسہ میں سے جمیل ترین اور سرمدی

صَلَوةَاتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

صلوات میں سے عظیم ترین صلوٰۃ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْنَىٰ صَلَوةَاتِكَ الشَّامِلَةِ وَأَعْلَىٰ صَلَوةَاتِكَ الْكَامِلَةِ

کی آل پر اپنی محیط صلوات میں سے روشن تر اور صلوات کاملہ میں سے بزرگتر صلوٰۃ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْفَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی کامل

صَلَوةَاتِكَ الْوَأَفِيَّةِ وَأَسْنَىٰ صَلَوةَاتِكَ الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوات میں سے اعلیٰ اور بلند مرتبت صلوات میں سے بلند تر صلوٰۃ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَزْكَىٰ صَلَوةَاتِكَ الرَّكِيَّةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی پاکیزہ صلوات میں سے پاکیزہ تر اور



وَأَنْتَ صَلَوَاتِكَ النَّامِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بڑی صلوات میں فرزوں ترصلوات - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُسْعِدُنَا بِهَا السَّعَادَةَ الْآبَدِيَّةَ وَتُكْرِمُنَا

آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں ابدی سعادت بخشے اور حسی و معنوی

بِهَا الْكِرَامَةَ الْحَسَبِيَّةَ وَالْمَعْنَوِيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بزرگی کے ساتھ مستحق اکرام پھرائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَعُودُ بِرِكَائِهَا عَلَيْنَا وَتَرْحَمُ بِهَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کی برکات ہماری طرف عائد ہوں اور جس کے طفیل ہم

أَبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فرمائے ہمارے آباء و امہات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقَرِّبُنَا بِهَا إِلَيْكَ وَتُرْعَبُ بِهَا خَيْرَ مَا لَدَيْكَ

آل اطہار پر جس کے طفیل ہمیں اپنا مقرب بنائے اور راغب بنائے اپنے اہل کی خیر کی طرف

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل

نَسُوبُ بِهَا بَيْنَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْمِيْعَادِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہم سر بلند ہو جائیں تمام بندوں کے درمیان روز قیامت میں تمام شاہدین کے سامنے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَنَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات ہمارے لیے ناصر و مددگار ہو

مُعِينَةٌ نَاصِرَةٌ فِي مَوَاطِنِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آخرت کے مقامات و احوال میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَقِّقُ لَنَا بِهَا طَاعَتَهُ وَتُوجِبُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہماری طاعت کو پائیدار بنائے اور ان کی شفاعت ہمارے



لَنَا بِهَا شَفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حق میں لازم فرمادے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْمُو وَتَدَاوُرُ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَيِّ

آل پر جو صلوٰۃ ترقی پذیر اور دائم رہے تا آنکہ قائم ہو جی قیوم کے

الْقَيُّومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حضور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ صَلَوةً وَأَحْسَنَهَا وَأَعْظَمَ صَلَوةً وَأَزِينَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

بزرگتر۔ حسین ترین اور عظیم ترین۔ اور مزین ترین صلوٰۃ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ نِعْمَةً

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ تیری طرف سے ان پر

مِّنْكَ عَلَيْهِ وَوَصْلَةٌ مِّنْكَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نعمت ہو اور تیرے ان کے ساتھ وصل و ربط کی دلیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَّقْبُولَةٌ بِأَرْيَاكَ مَوْصُولَةٌ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ مقبول ہو اور تیری نعمتوں کے ساتھ مربوط

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ

طَيِّبَةً الشَّيْبِ مَحْفُوفَةً بِالتَّعْيِيمِ وَصَلَوةً صَافِيَةً الشَّارِعِ اللَّهُمَّ

پاکیزہ شمیم والی ہو اور نعمتوں سے ڈھکی ہوئی اور پاک و صاف گھاٹوں والی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقَرِّبُنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ ہمیں ان کے قریب

إِلَيْهِ زُلْفًا وَتَجَارِي بِهَا عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ضِعْفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے مکمل قریب کے ساتھ۔ اور تو جزا دے ہمیں ہر ایک کے عوض کئی گنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ  
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُشْهِدُنَا بِهَا أَيَّامًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں ان کا مشاہدہ کرائے

بِعَيْنِ الْعَيَّانِ لَا بِالدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سرکی آنکھ کے ساتھ نہ محض دلیل و برہان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْتُوِدُّعَهَا أَيَّامًا وَإِيَّاكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کو ہم ودیعت رکھیں ان کے ہاں اور تیرے ہاں

وَلَا نَبْغِي بِهَا إِلَّا رِضَاَهُ وَرِضَاكَ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور نہ چاہیں اس سے مگر صرف ان کی اور تیری رضایا اللہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر پوری دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار اور

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَارْحَمْ

برکت دے محمد اور آل محمد کو دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار رحمت نازل فرما محمد پر اور

مُحَمَّدًا وَأَوَالَ مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَاجْزِ مُحَمَّدًا وَأَوَالَ مُحَمَّدٍ

آل محمد پر دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار اور جزاء دے محمد کو اور آل محمد کو

مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار اور سلامتی بخش سیدنا محمد کو اور آل محمد کو

مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلًّا أَرْضِكَ

دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد کریم پر بمقدار وسعت

مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلًّا

ارض کے جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے وہ اور مطابق تیری قدرت کے جو اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد کریم

سَبْعَ بَحَارِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بَحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَ

بمقدار ساتوں سمندروں کے اور صلوات نازل فرما محمد کریم پر ساتوں سمندروں کی مقدار جو انہوں نے اٹھایا۔ اور



أَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَلَأْ

تیری قدرت کے مطابق جس نے انہیں اٹھایا ہوا ہے اور صلوات نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَمَوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَلَأْ أَرْضِكَ وَصَلِّ

تمام آسمانوں کی مقدار اور صلوات نازل فرما محمد اور آل محمد پر بمقدار اپنی زمین کے اور صلوات

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَلَأْ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

نازل فرما محمد اور آل محمد پر بمقدار اپنی مخلوقات کے جنہیں تو نے روزِ اول سے

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

قیامت تک پیدا کرنا ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد و آل محمد پر

مَلَأِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَلَأْ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ

تمام آسمانوں اور زمینوں کی مقدار اور ان کی درمیانی وسعت کی مقدار اور جو اس کے بعد

بَعْدُ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مَلَأِ اللُّوْحَ وَالْفُضَاءَ وَمِثْلَ جُجُومِ السَّمَاءِ

پیدا کرنا چاہے اس کی مقدار اور صلوات نازل فرما آپ پر اور آل پر لوح اور فضاء کی مقدار اور آسمان کے نجوم کی مانند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ

اے اللہ صلوات نازل فرما ان پر اپنے عرش کی مقدار اور غایت رضا کے مطابق اور اپنے کلمات کی روشنائی کے مطابق

وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَوةً لَا تَعْدُ وَلَا تَحْصِي وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ

اور صلوات نازل فرما آپ پر اور آپ کی آل پر لا تعداد اور لامحدود اور صلوات نازل فرما ان پر اے اللہ

صَلَوةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو دائم۔ مسلسل۔ پلے درپلے اور غیر منقطع ہو۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد و آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً تُؤَدِّي بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيمَ اللَّهُمَّ

محمد پر جو دائم و مقبول ہو جس کے طفیل تو ادا فرمائے ہم سے ان کا عظیم حق۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُصْطَفَيْنِ مِنْ أَطْهَرِ جَبَلَةٍ صَلَوةً دَائِمَةً عَلَى

صلوات نازل فرما محمد اور آل محمد پر جو منتخب کئے ہوئے ہیں پاکیزہ ترین جبلت سے ایسی صلوات جو دائم ہو



الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَلَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوةٌ يَتَّجِدُ بِهَا حَبْرَةٌ وَ

ابد تک نہ ضعف پذیر ہو بالکل۔ صلوات ہو اللہ کی ان پر اور ان کی آل پر جس سے تازہ ہوزینت و آرائش ان

يُشْرِفُ بِهَا فِي الْبَيْعَادِ بَعْتُهُ وَنَشُورَةٌ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَنْجُمُ

کی اور شرف و فضل پائے اس سے ان کا بعث اور نشور یوم موعود میں۔ پس صلوات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی

الطَّوَالِعِ صَلَوةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجُودَ الْغُيُوثِ الْهُوَامِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

روشن ستاروں جیسی آل پر جو صلوات ان پر فیضان فرمائے عمدہ ترین موسلا دھار بارش کا۔ صلوات نازل فرمائے اللہ

عَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ وَأَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ پر اور آپ کی آل پر ہر محفل و مقام میں اور افضل ترین صلوات و سلام۔ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ

وَعَلَىٰ آلِهِ عَوْدًا وَبَدَأَ صَلَوةٌ تَكُونُ ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

ان پر اور ان کی آل پر انجام میں اور آغاز میں جو صلوات ذخیرہ ہو اور ورد و طفیف۔ صلوات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان

إِلَيْهِ صَلَوةٌ تَامَةٌ زَاكِيَةٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوةٌ تَتَّبِعُهَا رُوحٌ وَ

پر اور ان کی آل پر صلوات کاملہ پاکیزہ اور صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر جو مستلزم ہو راحت اور

رَيْحَانٌ وَيُعْقِبُهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

مسرت کو اور جس کے پیچھے ہو مغفرت اور رضوان۔ صلوات بھیجے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر

الَّذِينَ هَاجَرُوا النَّصْرَةَ وَنَصَرُوهُ فِي هِجْرَتِهِ فَنِعْمَ اللَّهُ بِهَاجِرُونَ وَنِعْمَ الْأَنْصَارُ

جنہوں نے ہجرت فرمائی صرف ان کی نصرت کے لیے اور مدد دی آپ کی ہجرت میں پس وہ بہت اچھے ہاجر ہیں اور بہت

صَلَوةٌ نَامِيَةٌ دَائِمَةٌ مَا سَبَّحَتْ فِي أَيُّهَا الْأَطْيَارُ وَهَمَعَتْ بِوَيْلِهَا الدِّيْنَةُ

اچھے انصار ہیں ایسی صلوات جو روز افزوں و ملائم ہو جب تک پہنکیں پرندے اپنے گھنے بانگات میں اور زور سے برسیں موسلا دھار

الْبُدْرُ أَرْضَاعُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

بارشیں اللہ کئی گنا بڑھائے ان پر اپنی دائمی صلوات کو۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِلَى الطَّيِّبِينَ الْكِرَامِ صَلَوةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ الْإِتِّصَالِ بَدَاوِمِ ذِي الْجَلَالِ وَ

آپ کی پاکیزہ اور بزرگ آل پر مسلسل۔ دائمی اتصال و تواتر والی صلوات

الْاَكْرَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً دَائِمَةً اِلْتِصَالًا وَالتَّوَالِي مُتَعاقِبَةً

اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت اور سلامتی بھیجے، ایسی رحمت جو مسلسل، پے درپے دنوں

بِتَعاقِبِ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً دَائِمَةً اِلَى مُنتَهَى

اور راتوں کے آگے پیچھے آنے کے ساتھ لگاتار ہو جو ابد الابد تک دائم ہو

الْاَبَدِ بِلَا انْقِطَاعٍ وَلَا تَفَادٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ

بغیر انقطاع اور اختتام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد نبی امی پر اور

عَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا يُحْصَى عَدَدُهَا وَلَا يَعُدُّ مَدَدُهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر جس صلوات کے اعداد کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی وسعت کا شمار۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد

صَلَاةً تُكْرَمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ رِضَاةً صَلَّى

کریم پر جس کی بدولت باعزت بنائے ان کا ٹھکانا اور پہنچائے قیامت کے دن شفاعت سے ان کی رضا مندی تک

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مَّقْرُونَةً بِالْجَمَالِ وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَالْخَيْرِ وَ

صلوات ہوان پر اللہ تعالیٰ کی اور سلام جو مقرون ہو جمال و حسن اور کمال اور خیر و

الْاَفْضَالِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْبَارِكِينَ

افضال کے ساتھ۔ اللہ کی صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور ذریت مبارکہ

وَصَحَابَتِهِ الْاَكْرَمِينَ وَاَزْوَاجَهُ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مَّوْصُولَةً

اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر ایسی صلوات جو متصل و

تَتَرَدَّدُ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ

مسلسل ہو قیامت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَمَلُّاُ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَتَمَلُّاُ سِوَا بَيْغِ الْاَلَاءِ وَالتَّعْمَاءِ اَللّٰهُمَّ

آل پر ایسی صلوات جو بھر دے زمین و آسمان کو اور جو تمام کامل و اکل ظاہری و باطنی نعمتوں کی مقدار کے مطابق ہو۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمَلُّاُ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات بھر دے



الكَائِنَاتِ وَالْعُلُوبِيَّاتِ وَالسَّفَلِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

تمام کائنات کو اور سب عالم بالا اور عالم اسفل کی اشیاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ أَرْكَانَ الْجَنَّةِ وَحَافَتِي

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھر دے جنت کے جملہ ارکان و اطراف کو اور

الضَّرَاطِ وَالْمِيزَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پل صراط اور میزان کے دونوں پلٹوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْفِرْدَوْسَ وَقِيَابَهُ وَجَنَّةَ التَّعِيمِ وَأَبْوَابَهُ اللَّهُمَّ

پر جو صلوٰۃ بھر دے فردوس اعلیٰ کو اور اس کے قیابہات کو اور جنت نعیم اور اس کے ابواب کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْغُرَفَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے جنت کے بالاخانوں

وَالْقُصُورَ وَأَفْوَاهَ الْوُلْدَانِ وَالْحُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تمام محلات کو اور ولدان اور حوروں کے مومنوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْكُوثَرَ وَكَاسَاتِهِ وَتَمْلَأُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھر دے حوض کوثر اور اس کے جاموں کو اور بھر دے لوح محفوظ

وَحَافَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اس کے اطراف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْقَلَمَ الْمُنِيرَ وَتَمْلَأُ لِسَانَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

جو صلوٰۃ بھر دے روشن قلم قدرت کو اور بھر دے منکر و نکیر کی زبانوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْحَوْضَ الْمُرُودَ وَأَنْهَارَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے حوض مورود کو اور

الْجَنَّةِ الَّتِي تُجْرِي عَلَى غَيْرِ الْأَخْدُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنتیں انہار کو جو چلتی ہیں بغیر رکاوٹ والے کناروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْبَحْرَ الْمَسْجُورَ وَالْحِجَابَ الْأَعْظَمَ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات معمور کر دے آیتے سمندروں کو اور حجاب اعظم اور حجاب

وَالْتُّورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نور کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَمْلَأُ النَّيْلَ وَالْفِرَاتَ وَتَمْلَأُ خَرَائِنَ الْبَرَكَاتِ وَالْمَرَاتِبَ السَّنِيَّاتِ

جو صلوات بھر دے نیل و فرات کو اور بھرے برکات والے خزائن کو اور اعلیٰ مراتب و درجات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات بھرے

الْعَرْشَ وَقَوَائِمَهُ وَالْكُرْسِيَّ وَدَعَائِمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

عرش کو اور اس کے پایوں کو اور کرسی اور اس کے ستونوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ السُّرُرَ الْمَرْفُوعَةَ وَالْأَكْوَابَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بھر دے بلند قدر جنتی تختوں کو اور رکھے ہوئے گلاسون

الْمَوْضُوعَةَ وَصَلَوَةٌ تَمْلَأُ دَرَجَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّةِ

کو اور جو صلوات بھر دے تمام اہل جنت جن و انس کے تمام درجات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات

تَمْلَأُ السُّرَادِقَاتِ وَتُحِيطُ بِالْكَائِنَاتِ وَصَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْأَسْتَارَ وَالْحُجُبَ

بھر دے جنتی سراپردوں کو اور احاطہ کر لیں کائنات کا اور جو صلوات بھر دے

وَتَمْلَأُ الدَّوَابِّ وَالْكَتَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام پردوں اور حجابات کو اور بھر دے تمام دفاتر اور صحائف کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ جَوَائِبَ الطُّوبَىٰ وَالرِّقَّ الْمَنْشُورَ

آپ کی آل اطہار پر جو صلوات معمور کر دے طوبیٰ کے اطراف کو اور وسیع و عریض سفید کاغذ کو اور



تَمَلًّا أَرْكَانَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھردے بیت المعمور کے ارکان و اجزاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمَلُّ حُجْبَ التُّورِ وَالْبَهْيِ وَأُورَاقِ

اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھردے نور اور بہار والے حجابات کو اور سدرة المنتہی کے

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اوراق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمَلُّ الْمَلَأَ وَتَحُلُّ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

آل پر جو صلوٰۃ معمور کردے ملاء کو اور نزول فرما جو ملاء اعلیٰ میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

تَمَلُّ سِيَاسِ الْفَلَوَاتِ وَأَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَصَلَوةً تَمَلُّ خَزَائِنَ

بھردے وسیع و ہموار بیابانوں کو — اور سموات کے اطراف کو اور جو صلوٰۃ بھردے

الرَّحْمَاتِ وَذَخَائِرِ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت کاملہ کے خزانوں اور جبروت کے ذخائر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمَلُّ أَفْوَاةَ الْعِبَادِ وَأَسْبَابَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھردے تمام بندوں کے مومنوں کو اور ساتواں

السَّبْعِ الشَّدَادِ وَصَلَوةً تَمَلُّ الْأَذَانَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ اللَّهُمَّ

آسمانوں کے راستوں کو اور جو صلوٰۃ بھردے جن و انس کے کانوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

تَمَلُّ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَى ظَهْرِ الْحُوتِ وَالْبِهْمُوتِ وَصَلَوةً تَمَلُّ

بھردے زمین کے اوپر والے حصے سے لے کر حوت کی اور عظیم جانور تک کو اور جو صلوٰۃ بھردے



أَقْطَارَ الْأَرْضِ بِالطُّوْلِ وَالْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

زمین کے طولانی اور عرضی اطراف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ مَظَاهِرَ الْمَلَكُوتِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے ملکوت کے مظاہر قدرت کو اور

صَلَوةً تَمْلَأُ أَلْسِنَةَ الْوَرَايِ وَمَا أَظَلَّتِ الْخَضِرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جو صلوٰۃ بھر دے مختلفات کی زبانوں کو اور تمام مخلوق کو جو آسمان کے زیر سایہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ ثَوَابَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ معمور کر دے ثواب و

النَّقْلِ وَالْفَرُضِ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرائض کے ثواب کو قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ أَفْوَاهَ الْأَنَامِ مِنْذُ خَلْقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھر دے انام کے مہنوں کو جو تخلیق

أَدَمَ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ عَلَى الْمَلِكِ الْعَلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آدم سے لے کر ملک علام کے حضور پیش ہونے تک موجود ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ الْبُعْرَاجَ وَالْمَسْرَاجَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ معمور کر دے معراج کو اور محل امراء کو

وَمَا حَوْتَهُ مِنَ الْفَضْلِ أُمَّ الْقُرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جس فضل و شرف کو حاوی ہے مکر مکرم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ سِيحُونَ وَجِيحُونَ وَمَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے سیحون و جیحون کو اور جو ہر چکا اور جو

كَانَ وَمَا يَكُونُ صَلَوةً تَمْلَأُ ثَوَابَ كُلِّ عَمَلٍ بَارٍّ مِنَ الْفَجَّارِ وَ

قیامت تک ہر نیک سے سب کو۔ جو صلوٰۃ معمور کر دے ہر اچھے عمل کے ثواب کو اہل فجار کا ہو یا



الْأَخِيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اہل خیر کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ ثَوَابَ كُلِّ حَسَنَةٍ مَّقْبُولَةٍ وَثَوَابَ كُلِّ رَجْمٍ

جو صلوٰۃ بھروسے ہر مقبول عمل نیک کے ثواب کو اور ہر صلہ رمی کے

مَوْصُولَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ثواب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَتُعَدُّ نَوَاحِيَ الدَّارَيْنِ وَ

پر جو صلوٰۃ بھروسے شرق و غرب کے مابین کو اور سمور کر دے دونوں جہان کے اطراف کو اور

صَلَوةً تَمْلَأُ الْقَلَمَ وَمِدَادَهُ وَاللَّيْلَ وَسَوَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو صلوٰۃ بھروسے قلم قدرت اور اس کی روشنائی کو اور رات اور اس کی سیاہی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتَعْرِقُ الْعُلُومَ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ محیط ہو جملہ علوم و

الْمَعَارِفَ وَالْمَنَحَ وَاللِّطَائِفَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معارف کو اور عطیات و لطائف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ النَّهَارَ وَضِيَاءَهُ وَالنُّورَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے دن کو اور اس کی منیاء کو اور نور کو

وَبَهَائِهِ وَصَلَوةً تَمْلَأُ الْبَرَّ وَجَوَانِبَهُ وَالْبَحْرَ وَغَوَارِبَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اس کی رونق و بہار کو اور تمام خشکی اور اس کی جوانب اور تری اور اس کے اطراف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ صَحَائِفَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے تمام صحائف

الْأَعْمَالِ الْمَاضِي مِنْهَا وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَالِ وَصَلَوةً تَمْلَأُ بَيْوتَ

اعمال کو ماضی کے ہوں یا مستقبل و حال کے۔ اور جو صلوٰۃ بھروسے جنتی موتیوں والے





الْقَصَبِ الَّتِي لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

مکانوں کو جن میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ تھکان و کوفت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ جَوَانِحَ الْأَمْلَاكِ وَطَوَالِعَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے ملائکہ کے پروں کو اور افلاک کے

الْأَفْلَاكِ وَصَلَوَةٌ تَمْلَأُ مَجَامِعَ الْكُونِيْنَ وَخِيَامَ أَهْلِ عِلِّيِّينَ

ستاروں کو اور جو صلوٰۃ بھر دے کونین کے جموں کو اور علیین والوں کے جموں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

تَمْلَأُ عَنَانَ السَّمَاءِ وَمَجَارِي الرِّيَّاحِ وَالْمَاءِ وَصَلَوَةٌ تَمْلَأُ أَنْوَارَ

بھر دے آسمان کے کناروں تک کو اور ہواؤں اور پانیوں کی گزرگاہوں کو اور جو صلوٰۃ بھر دے سورج اور

التَّيْرِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

چاند کے انوار کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ أَفْوَاهَ الثَّقَلِيْنَ وَتُحِيْطُ بِقَابِ قَوْسِيْنَ

پر جو صلوٰۃ بھر دے ثقلین کے مونہوں کو اور محیط ہو قباب قوسین کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ

تَمْلَأُ الْقَضَا وَتَعُوْدُ عَلَيْنَا بِالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

معمور کر دے قضا کو اور ہم پر متوجہ ہو رضامندی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْلَأُ بِشَوَابِقِهَا إِذَا تَلَقَّيْنَاهَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے اپنی ضیاءوں سے جب اس کو حاصل کرے

مِنَّا مَلِكُ الْحَبَابِ وَيَرْضَى بِهَا عَتَارِبُ الْأَرْيَابِ اللَّهُمَّ

ہماری طرف سے ملک الحجاب اور راضی ہو بطین اس کے ہم سے رب الارباب۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے

جَزِيلَ الثَّوَابِ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلِيمِ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عظیم ثواب کو اور حائل ہو ہمارے اور عذاب الیم کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ دَارَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے

الْمَقَامَةِ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْخُطُوبَاتِ الْمَخُوفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دارالقیام کو اور حائل ہو جائے درمیان ہمارے اور خوفناک امور عظام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ دَارَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے

الْمَقَامَةِ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

دارالقیام کو اور حائل ہو درمیان ہمارے اور قیامت کی ہولناکیوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ أَسْرَجَاءَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھر دے عرش اعظم کے

الْعَرْشِ وَمَا حَوَاهُ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السُّوءِ وَمَنْ تَوَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کناروں کو اور جنہیں وہ محیط ہے۔ اور مائل ہو درمیان ہمارے اور درمیان برائی کے اور اس کی نیت کرنیوالوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَاؤِهَا مِنْ أَعْيُنِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے انعام کے دوام تک

وَبِأَقْيَمَةِ بَقَاءِ مُلْكِكَ وَأَعْظَمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور باقی ہو تیرے ملک کی بقا اور تیری عظمت کے دوام کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَاؤِهَا مِنْ قُدْرَتِكَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو دائم ہو تیرے دوام قدرت کی مانند اور



بَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ مَشِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

باقی ہو تیری بقا، مشیت کی مانند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِ أَمْرِ عَرْشِكَ وَبَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ

کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے عرش کے دوام کے ساتھ اور باقی رہے تیری گرفت

بَطْنِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِي سَيِّدِنَا

کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِ أَمْرِ فَضْلِكَ وَطَوْلِكَ وَبَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ

جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے فضل و احسان کے دوام کی مانند اور باقی ہو تیرے حکم اور

حُكْمِكَ وَعَدْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

عدل کی بقا کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِ أَمْرِ عَرْكَ وَقَهْرِكَ وَبَاقِيَةٌ

کی آل اطہار پر جو دائم ہو تیرے غلبہ و قہر کے دوام تک اور باقی ہو تیرے

بِقَاءِ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امرونی کی بقا کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى إِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِ أَمْرِ سَطْوَتِكَ وَبَاقِيَةٌ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے دوام سطوت کے ساتھ اور باقی ہو

بِقَاءِ عَرْكَ وَرَأْفَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تیری عزت و رأفت کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِ أَمْرِ كِبْرِيَاؤِكَ وَبَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ

کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے دوام کبریائی کے ساتھ اور باقی ہو

أَسْبَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِي سَيِّدِنَا

تیرے اسباب کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل



مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بَدَا وَمَجْدَالِكَ وَبِاقِيَةٍ بَقَاءِ كَمَالِكَ

پر جو صلواتِ دائم ہو تیرے دوامِ جلال کے ساتھ۔ اور باقی ہو تیری بقاءِ کمال کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواتِ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر

صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بَدَا وَإِمْرَتَاعِكَ وَبِاقِيَةٍ بَقَاءِ جَمِيلِ إِصْطِنَاعِكَ

جو صلواتِ دائم ہو تیرے دوامِ رغبت کے ساتھ اور باقی ہو تیری خوبصورت بھلائی کی بقاء کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ

اے اللہ صلواتِ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلواتِ دائم ہو

بَدَا وَإِمْرَتَاعِكَ وَبِاقِيَةٍ بَقَاءِ نِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تیرے دوامِ عظمت کے ساتھ اور باقی ہو تیری نعمت ورحمت کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلواتِ دائم ہو

بَدَا وَمَجْدِيرُوتِكَ وَبِاقِيَةٍ بَقَاءِ مَلِكُوتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیرے دوامِ جبروت کے ساتھ اور باقی ہو تیرے عظیم ملک کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلواتِ سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بَدَا وَإِمْرَتَاعِكَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلواتِ دائم ہو تخلیق کے دوام تک

وَبِاقِيَةٍ بَقَاءِ أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور باقی رہے اعلیٰ علیین کی بقاء تک۔ اے اللہ صلواتِ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بَدَا وَإِمْرَتَاعِكَ وَبِاقِيَةٍ بَقَاءِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو دائم ہو دوامِ رضوان تک اور باقی ہو جنتوں کے

خَازِنِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خازن کی بقاء تک۔ اے اللہ صلواتِ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل



مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ الْجَنَّةِ وَ

پر جو صلوات دائم ہو یل و نهار کے دوام تک اور باقی ہو جنت و دوزخ

النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات

دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْأَبَدِ وَبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ الْمَوْجِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

دائم ہو دوام ابد تک اور باقی ہو ساتھ بقاء کے جو تا ابد از دی سے شرف ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات دائم ہو ابدی

النَّبِيِّمُ الْبَقِيَّةِ وَبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نعمتوں کے دوام تک اور باقی ہو قرآن عظیم کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْأَرْوَاحِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات دائم ہو ارواح کے دوام کے مطابق

وَبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ الْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور باقی ہو بقاء ارواح کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ السُّرُورِ وَالْأُنْسِ وَبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ خَطَايَا

کی آل پر جو صلوات دائم سرور و انس کے دوام کے ساتھ۔ اور باقی ہو عظمت والے مقدس مقامات

الْقُدْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ التُّورِ وَبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو صلوات دائم ہو دوام تور کے سبب اور باقی ہو بیت المعمور کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْحُكْمِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات دائم ہو حکم الہی کے دوام کے ساتھ



اَللّٰهُمَّ وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ الْاَوْامِرِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالتَّوَاهِيِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور باقی ہو ربانی اوامرو توہی کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ التَّكْرَارِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو دوام تکرار کی وجہ سے

وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ الْاَبْرَارِ بِدَارِ الْقَرَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور باقی ہو ابرار کے دارالقرار میں باقی رہنے تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الدَّوَامِ وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو دوام کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو

حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْكَرَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

عرش الہی کے حاملین کرام کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مَا لَا يَفْنَى وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ الْمَجْدِ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو ساتھ دوام ان اشیاء کے جو غیر فانی ہیں اور باقی ہو ساتھ

وَالْتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بقاء مجد و ثناء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ الْحَسَنَاتِ الْمُتَقَبَّلَةِ

جو صلوٰۃ دائم ہو کتب سماویہ کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو مقبولہ حسنات کی بقاء کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الضِّيَاءِ وَالْبَهَاءِ وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ سُدْرَةِ الْمُنْتَهٰى اَللّٰهُمَّ

دائم ہو ضیاء اور بہار کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو سدرۃ المنتہی کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو حجاب اعظم



الْحَبَابِ الْأَعْظَمِ وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے دوام کے ساتھ۔ اور باقی ہو لوح و قلم کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ السُّرُورِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائمہ پر سرور

وَالرِّضَا وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ الدَّرَّةِ الْبَيْضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و رضا کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو درہ بیضا (ماہہ تخمیں نبوی کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَبَاقِيَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائمہ ہو اجر و ثواب کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو

بَيْقَاءِ طُوبَى وَحُسْنِ مَا بِيَدِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

طوبی (جنتی عظیم و رحمت) اور بہترین انجام کار کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ عَرْشِكَ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ وَ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائمہ ہو تیرے عرش کے دوام کے ساتھ روز

بَاقِيَةَ بَيْقَاءِ كُرْسِيِّكَ الَّذِي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ

قیامت تک اور باقی ہو ساتھ تیری کرسی کی بقاء کے جو آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ رَتَبِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائمہ ہے مراتب

الْكِبَالِ وَالْمَعَالِي وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ حُجُبِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ اللَّهُمَّ

کمال اور بلندیوں کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو حجابہ جلال و جمال کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائمہ ہو

بِدَوَامِ الْخُلُودِ وَبَاقِيَةَ بَيْقَاءِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دوام خلود کے ساتھ اور باقی ہو شہنشاہ معبود کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ السُّرُورِ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ يَدْوَامُ كَلِمَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو ساتھ دوام کلمات

اللَّهِ وَبِأَقِيَّةٍ بِيَقَاءِ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کے اور باقی ہو ساتھ بقاء ذات اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ هَمٍّ وَوَفَاةٍ وَلَا

اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے ہر پریشانی اور فاقہ کو اور نہ

تَحْمِلُنَا مَا لَيْسَ لَنَا بِهِ طَاقَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مواں ہم پر وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدْخُلُنَا بِهَا مَدْخَلَ كَرِيمًا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل داخل فرمائے ہمیں بزرگ مقام میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَجْتَبِي بِهَا حُسْنَ الْعُقُبَى وَلَا تُحْدِثْ لَنَا فِي دُنْيَانَا حَرْصًا

کہ جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں منتخب فرمائے حسن انجام کے ساتھ اور نہ پیدا فرمائے ہم میں دنیوی حرص

وَلَا تَعْبَأَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و آزار اس کی تنگ و تاز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعْظِمُ لَنَا بِهَا لَدَيْكَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا

پر جس صلوٰۃ کے طفیل عطا کرے ہمیں عظمت اپنے ہاں اور نہ ڈالے ہم پر کوئی بارگراں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَنْزِعُ عَنَّا بِهَا الْهُوسَ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا حُبَّ الدُّنْيَا وَهَوَاءَ

جس صلوٰۃ کے طفیل تو سلب کرے ہم سے ہوس اور نہ مسلط فرمائے ہم پر حب دنیا اور ہوائے





النَّفْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نفس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحْضِرُنَا بِهَا قُدْسَكَ وَتَرْجُو بِهَا نَيْلَ ثَوَابِكَ اللَّهُمَّ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں شرف حضور بخشے اپنی بارگاہ قدس میں اور امید کر سکیں تیرے ثواب کی حصول کی اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً نَسْتَوْجِبُ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل مستحق ہو جائیں ہم

بِهَا رِضَاكَ وَلَا تَحْجُبْنَا إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تیری رضا کے اور نہ محتاج کرے تو ہمیں ماسوا کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوَافِقُ مُرَادَكَ وَلَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ موافق ہو تیری مراد کے اور نہ

تَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فِي عِبَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بنائے ہمیں بد بخت لوگوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْبَلُهَا مِنَّا يَا رَبِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کو قبول فرمائے ہم سے اے رب

الْعَالَمِينَ وَلَا تَرُدَّنَا عَنْ نَوَالِكَ خَائِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

العالمین اور نہ لوٹائے ہمیں اپنی عطاؤں سے بے نیل مرام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعَافِينَا بِهَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عطا فرمائے

الْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ وَتُثَبِّتَنَا عَلَى حُسْنِ خَاتِمَةِ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دائمی عافیت اور ہماری وفات ہو حسن خاتمہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً لَا غَايَةَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کی کوئی انتہاء نہ ہو



لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ وَصَلَاةً لَا نِهَايَةَ لَهَا دُونَ الْعَفْوِ وَالرِّضَى

اور نہ اختتام اور جس صلوات کا منتہی فسوف تیری عفو اور رضاء مندی ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَاةً تَخْرِقُ أَنْوَارَهَا الْحُجُبَ وَالْأَسْتَارَ وَيَسْتَوْجِبُ بِهَا

جس صلوات کے انوار حجابات اور حائل پردوں کو ٹھراویں اور اس کے طفیل اس کا پڑھنے والا

قَابِلُهَا مَغْفِرَةً الْعَزِيزَ الْغَفَّارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

عزیز غفار کی مغفرت کا حقدار ہو جائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُ بِهَا قَابِلُهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل اس کے پڑھنے والے کو پناہ مہیا

مِنَ الْآهْوَالِ وَتُدْفَعُ بِهَا عَنْ قَابِلِهَا كُلِّ مِحْنَةٍ وَيَلُو اللَّهُمَّ

کے تمام ہولناکیوں سے اور دور کرے اس سے ہر محنت اور آزمائش۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُشْرِفُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل شرف بخشے

بِهَا قَابِلُهَا فِي الْقِيَمَةِ وَتُوجِبُ لِقَابِلِهَا الْخَطْوَةَ وَالْكَرَامَةَ

اس کے پڑھنے والے کو قیامت میں اور واجب کرے اس کے قائل کے لیے عظیم حصہ اور بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا قَابِلُهَا إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس صلوات کے طفیل اس کے قائل اعلیٰ علیین تک رغبت بخشے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَعْلُو بِهَا قَابِلُهَا إِلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل بلند ہو اس کا قائل



جَوَابُ أَهْلِ الْعِنَايَةِ مِنَ الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اہل عنایت ابرار و مقربین کے قرب و رفاقت تک - لے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَصَّلُ بِهَا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی اطہار پر جس کے طفیل واصل فرمائے

قَائِلُهَا إِلَى دَرَجَاتِ الْعُلَى وَصَلَوَةٌ يُحْمَدُ بِهَا قَائِلُهَا فِي الْمَلَا

اس کے قائل کو اعلیٰ درجات تک اور جس کے طفیل تثناء کی جانے اس کے قائل کی

الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جماعت ملائکہ میں - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ يُعَزُّ بِهَا قَائِلُهَا فِي الْوُجُودِ وَيُرَدُّ بِهَا قَائِلُهَا مَشَاعِبَ

پر جس کے طفیل عزت دی جائے اس کے قائل کو دنیوی قیام میں اور وارد ہو وہ

الْحَوْضِ الْمُرْوُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حوض مورود کے شعبوں پر - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ يَجِدُ بِهَا قَائِلُهَا ذَخِيرَةً عِنْدَ مَمَاتِهِ وَ

کی آل اطہار پر جس کے طفیل میسر ہو پڑھنے والے کو ذخیرہ حسنت موت کے وقت اور

تَكُونُ لِقَائِلِهَا حُجَّةً لِسُؤَالِ الْمَلَائِكِينَ فِي ظُلُمَاتِ الْقُبْرِ وَ

نصیب ہو اسے توفیق جواب کی منکر و نکیر کے سوال کے وقت قبر کی تاریکیوں اور

عَمْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شدتوں میں - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ يَنْجُو بِهَا قَائِلُهَا مِنَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ وَهَوَايَاتِهِ

پر جس کے طفیل نجات حاصل ہو قائل کو بہت بڑی گھبراہٹ (قیامت) سے اور اس کی

وَتُشَقَّلُ بِهَا لِقَائِلُهَا مَوَائِنُ صَحَائِفِ أَعْمَالِ حَسَنَاتِهِ

ہولناکیوں سے اور بھاری فرمائے اس کے طفیل اس کے صحائف اعمال والے میزان حسنت کو



وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ طَبَقَاتِ الْجَحِيمِ وَدَرَكَاتِهِ اللَّهُمَّ

اور بچائے ہمیں بطنیں اس کے جہنم اور اس کے طبقات سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل

تُنْقِذُ بِهَا قَائِلَهَا مِنْ أَهْوَالِ الصَّرَاطِ وَمَخُوفَاتِهِ وَتُوصِلُ بِهَا

بچائے اس کے قائل کو پل صراط کی ہولناکیوں اور دہشتوں سے اور واصل فرمائے

قَائِلَهَا إِلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَرَوْضَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اسے جنت کے درجات اور سبزہ زاروں تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُبَشِّرُ بِهَا قَائِلَهَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل بشارت ہے اس کے پڑھنے والے

بِالنَّظَرِ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ عَلَى قُبَابِ الْفُرْدُوسِ وَعُلُوِّ مَقَامَاتِهِ

کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فردوس کے قبہ جات میں اور بلند تر مقامات میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَاتُكَ يَجْنِي بِهَا قَائِلَهَا ثَمَرَةَ حَبِّهِ وَإِمْتِدَادَهُ وَيَغْرِسُ بِهَا

جس صلوات کے طفیل چنے اس کا قائل محبت کے ثمرات کو اور اس کی درازی کو اور لگائے بسبب اس صلوات

قَائِلَهَا رَوْضَةَ فَلَاحِهِ وَنَجَاحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

کے وہ اپنی فلاح و کامیابی کے باغات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ يَجْنِي بِهَا قَائِلَهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل چنے اس کا قائل اپنے

ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ وَيُحْشِرُ بِهَا قَائِلَهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ

ایمان کا پھل اور اس کا حشر ہو حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم



وَعُثْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ يُسَلِّمُ بِهَا قَائِلُهَا مِنْ غَوَائِلِ الْبُدَاعِ وَتَقْطَعُ بِهَا عَنِ

پر جس کے طفیل سلامت رہے اس کا قائل بدعات کی ہلاکتوں سے اور کاٹ دے اس سے

قَائِلُهَا عِلَاقَتِ الظُّمْعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

طمع ولاقح کے سارے اسباب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْفَعُ بِهَا لِقَائِهَا ذِكْرَهُ وَ

آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل بلند کرے اس کے قائل کا ذکر اور

مَآثِرَهُ وَتُوْمِنُ بِهَا قَائِلُهَا مِنْ مَّصَائِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

آثار اور بے خوف کر دے اسے دنیا و آخرت کے مصائب سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَوةٌ تَكُونُ لِقَائِهَا لَدَيْكَ ذُخْرًا وَصَلَوةٌ تَكُونُ لِقَائِهَا مِنْ

جو صلوٰۃ ذخیرہ ہو تیرے ہاں پڑھنے والے کے لیے اور جو مضبوط سہارا

أَوْثِقَ الْعُرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَلِيْسُ بِهَا قَائِلُهَا مَهَابَةٌ لَيْسَ بَعْدَهَا

آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل اس کے قائل کو خلعت پہنائے ایسی مہابت کی کہ نہ ہو اس کے بعد

كَأَبَةِ اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کسی طرح کی تکبیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكْرُمُ بِهَا قَائِلُهَا كَرَامَةٌ لَيْسَ بَعْدَهَا نَدَامَةٌ وَتَشْفَعُ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل اس کے قائل کو ایسی کرامت سے نوازے کہ نہ ہو اس کے بعد ندامت۔ اور شفاعت فرمائے



لِقَائِهَا شَفَاعَةٌ لَيْسَ بَعْدَهَا تَبَاعَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اس کے لیے کہ نہ ہو اس کے بعد ہلاکت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِينُ بِهَا قَائِلَهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ اعانت فرمائے اس کے طفیل قائل کی ایسی کرنے

إِعَانَةً لَمْ يَرِ بَعْدَهَا إِهَانَةً وَتُبَلِّغُ بِهَا قَائِلَهَا مُرَادَةً وَتُثَبِّتُ لَهُ

دیکھے بعد اس کے تذیل اور پہنچائے اسے مراد تک اور مطمئن رکھے

بِهَا فَوَادَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بطفیل اس کے اس کا دل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَنْسُرُ بِهَا قَائِلَهَا الْقَوْنُ عَدَاوَةً وَتَرْحَمُ بِهَا قَائِلَهَا

پر جس کے طفیل عطا کرے اس کے قائل کو کامیابی قیامت کے دن اور رحم فرمائے اس پر

رَحْمَةً لَا شِقَاقَ بَعْدَهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کے بعد کبھی اس پر کوئی مشقت نہ ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهْدِي بِهَا قَائِلَهَا السَّبِيلَ الْهُدَايَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل اس کے قائل کی رہنمائی فرمائے راہ ہائے ہدایت میں

وَتُعِيدُ بِهَا قَائِلَهَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور بچائے اسے گمراہی اور بے راہ روی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا لِقَائِلَهَا مَقَامَةً

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل قائل کا مرتبہ و مقام بلند فرمائے

وَتُثَبِّتُ بِهَا لِقَائِلَهَا عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ثابت رکھے پل صراط پر اس کے اقدام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ عَالِيَةً الْبِقَدَامِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ایسی عالی قدر صلوٰۃ کہ

تُنَجِّي بِهَا قَائِلَهَا مِنْ شَرِّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالتَّهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

نجات دے بطیفیل اس کے قائل کو ییل و نہار کے لئے ہوئے شر سے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل بلند فرمائے

لِقَائِلَهَا شَانَهُ وَتُثَقِّلُ بِهَا لِقَائِلَهَا مِيزَانَهُ وَتَجْلِي بِهَا عَنْ

اس کے قائل کی شان اور بھاری کرے اس کا میزان حسنت اور دور کرے اس سے

قَائِلَهَا الصَّدَا وَتَرْزُقُهُ بِهَا عَيْشًا وَاسْعَا رَعْدًا اللَّهُمَّ صَلِّ

زندگ اور نصیب فرمائے اسے خوشگوار اور وسعت والی گزران۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل تو ہمارا

لَنَا بِهَا عِنْدَ كُلِّ هَمٍّ وَضَيْقٍ يَا أَلْهِیُّ وَآلَهُ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ

ہو جایا کرے ہر اندوہ اور تنگی کے لئے میرے الہ اور ہر چیز کے الہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے

تَكُونُ لَنَا بِهَا فِي الْمَقَامِ وَالرَّحِيلِ يَا أَلْهِیُّ وَآلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَ

طفیل تو ہمارا ہو جائے ہر قیام اور کوچ میں لئے میرے الہ اور ابراہیم و

إِسْمَاعِيلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اسماعیل کے الہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ يَا سَامِعُ كُلِّ صَوْتٍ

پر جس کے طفیل آسان فرمائے ہم پر موت کی شدتوں کو اے سنتے والے ہر آواز کے

وَيَا سَابِقَ كُلِّ قُوْتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور سبقت لئے ہمانے والے ہر قسم کے حرمان سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ الْعَذَابِ اَلَيْمِ يَا مُجِيبُ

کی آل اطہار پر جس کے طفیل نجات دے ہمیں عذاب الیم سے۔ اے زندہ فرمانے والے

الْعَظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ وَتُغِيْبُنَا بِهَا عَنِ الْاَنَامِ يَا حَيُّ لَا تَنَامُ اَللّٰهُمَّ

گلی سرطی ہڈیوں کے اور غائب فرمائے ہمیں بطفیل اس کے تمام مخلوقات سے اے حی جو نہیں ہوتا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل

تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ هَوْلِ كُلِّ وَعِيْدٍ يَا مُوْنِسُ كُلِّ وَحِيْدٍ اَللّٰهُمَّ

نجات دے ہمیں ہر وعید کی دہشت سے اے عنخوار ہر تنہا کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل

تُدِيْمُ لَنَا بِهَا التَّعْمَايَا اَكْرَمَ الْكِرْمَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

وام رکھے ہمارے لیے نعمتوں کو اے سب عزت والوں سے محکم ترین۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْمِيْ بِهَا عَنَّا اَعْيُنَ الْقَوْمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلواۃ کے طفیل اندھی کر دے ہم سے ظالم لوگوں کی

الظُّلَمِيْنَ يَا قَامِعَ الْجَبَّارِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آنکھیں اے روکنے والے جباروں کے (جبر کے) اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ بَلِيَّةٍ يَا عَالِمَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل اٹھا دے ہم پر سے ہر مصیبت کو اے جاننے والے

كُلِّ خَفِيَّةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

ہر مخفی امر کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَصْرِفُ بِهَا عَنَّا الْاَسْقَامَ يَا عَلِيْمُ يَا عَلَامُ اَللّٰهُمَّ

جس صلواۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے تمام بیماریوں کو اے علیم۔ اے علام۔ اے اللہ

جس صلواۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے تمام بیماریوں کو اے علیم۔ اے علام۔ اے اللہ





صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل

تَمَحُّو بِهَا عَنَّا الصَّغَائِرُ وَالْكِبَائِرُ يَا مُطَّلِعُ عَلَى السَّرَائِرِ اللَّهُمَّ

ہم سے محو کر دے صغائر و کبائر کو لے جانے والے قلبی اسرار کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ نُصَحِّحُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل درست

لِنَابِهَا الْيَقِينُ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

و مستحکم فرما دے ہمارے یقین کو اے سب عزت والوں سے زیادہ عزت والے اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تَجِدِرُ بِهَا قَلْبِي وَتَغْفِرُ بِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل میرے دل کی شکستگی دور فرمائے اور مجھ سے

ذُنُوبِ أُمَّيْ وَأَبِي يَا رَبِّي وَيَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میرے والدین کے گناہ لے میرے رب اور ہر شئی کے رب۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تَصْعَدُ بِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بلند ہو تیری ترفیق سے

مِنْكَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تجھ سے تیری طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْمَلَا أَعْلَى أَتَّهَا خَالِصَةً

آل اطہار پر جس صلوات کو پہچانیں ملا اعلیٰ کہ وہ واقعی خلوص والی ہے تیرے

لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نزدیک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تَبْلُغُهَا الْقَلَمُ الرَّحِيظُ بِالْكَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس کو پہنچائے اس قلم تک جو سلب کو محیط ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُحَدِّدُ بِكَلِمَةٍ ذَلِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات حد بندی کر دے کل کی

الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کلیت کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جو صلوات کہ لائق ہو تیری توفیق تیری طرف سے ان کیلئے جیسے کہ وہ اہل ہیں اس کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَهْلِ الثَّنَاءِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو لائق ثناء ہیں

وَمَحَلِّهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور اس کا صحیح محل اور انہیں جزا دے ہماری طرف سے اے ہمارے رب تمہاری جس جزا کے وہ مستحق ہیں۔ اے اللہ صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ جَامِعَةٌ لِمَعَانِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات جامع ہو احسان

الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ وَصَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

و انعام کے تمام معانی کو اور دائم ہو خود الجلال و الاکرام کے دوام کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تُعَرِّفُنَا بِهَا آيَاهُ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا إِلَىٰ حُسْنِ مُلْقَاهُ وَرَوْيَاةُ

جس کے طفیل ہماری انہیں پہچان کروادے اور بظہیر اس کے ہمیں پہنچائے ان کی حسین ملاقات اور دیدار تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي وَتَمَحُّوْ بِهَا سَيِّئَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس کے طفیل میرا درجہ بلند فرمائے اور محو فرمائے میرے گناہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ لَا تُسَلِّطُ بِهَا عَلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل نہ مسلط فرمائے مجھ پر

مَنْ لَا يَرْحَمُنِي وَتَفَرَّقْ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ ذَنبِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو مجھ پر رحم نہ کرے اور تفرق طوائف بطفیل اس کے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَفَكُّ بِهَا عَنِّي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس کے طفیل دور کر دے مجھ سے

كُلِّ عِلَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر بیماری کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَفْتَحُ بِهَا لِي وَلَا أَهْلِي كُلَّ بَابٍ مِّنَ الْخَيْرِ وَتَدِينُ

پر کہ کھول دے بسبب اس کے میرے اور میرے اہل کے لیے خیر کا ہر دروازہ اور ملائم کر دے

بِهَا كُلَّ عَسِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہر سخت کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَخْرِسُ بِهَا عَنِّي كُلَّ لِسَانٍ نَّاطِقٍ وَتَمْنَعُ

آل پر جس کے طفیل گنہگاروں کو اور روک دے ہر ناطق کی زبان کو اور روک دے

بِهَا عَنِّي كُلَّ ظَالِمٍ وَحَاسِدٍ وَتَكْفِيَنِي بِهَا عَنِ شَرِّ كُلِّ غَاسِقٍ

بطفیل اس کے مجھ سے ہر ظالم و حاسد کو اور روک دے بطفیل اس کے ہر تاریکی والے کے شر کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ


اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ لَا تُحَاوِلُ بِهَا تَفْرِيقًا بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعَتِكَ وَلَا تُشْطِنِي

جس صلوات کی برکت سے نہ ارادہ فرمائے تفریق کا درمیان میرے اور درمیان اپنی طاعت کے اور نہ دور کرے

بِهَا عَنِ عِبَادَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مجھ اپنی عبادت اور رحمت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُوجِبُ بِهَا لِي رِضْوَانَكَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل لازم فرمائے میرے لیے اپنی رضامندی

وَتَرْزُقَنِي بِهَا جَنَّاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور عطا فرمائے مجھے اپنی جنتیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُوفِّقُنِي بِهَا مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِهَا

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس کی برکت سے مجھے حالت اسلام پر وفات دے اور صالحین کے

بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا وَيَسِّرْ

ساتھ لاحق فرما دے۔ اے اللہ ان کی صلوات کی برکت سے کھول دے ہمارے سینے کو اور آسان فرما دے

بِهَآ أُمُورَنَا وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا وَاكْشِفْ بِهَا غَمَمَنَا وَاعْفِرْ

ہمارے تمام امور کو اور دور فرما دے ہم سے اندوہ و غم اور دور فرما دے ہماری پریشانیاں اور بخش دے

بِهَآ ذُنُوبَنَا وَاقْضِ بِهَا دِيُونَنَا وَأَصْدِحْ بِهَا أَحْوَالَنَا وَبَلِّغْ

ہمارے گناہ اور ادا فرمائے ہمارے قرضے اور درست فرمائے ہمارے احوال اور پہنچائے

بِهَآ أَمَالَنَا وَتَقَبَّلْ بِهَا تَوْبَتَنَا وَاغْسِلْ بِهَا حَوْبَتَنَا وَ

ہیں ہماری تمناؤں تک اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے گناہ دھو ڈالے اور

انصُرْ بِهَا حُجَّتَنَا وَطَهِّرْ بِهَا أَلْسِنَتَنَا وَأَنْسُ بِهَا وَحْشَتَنَا وَ

نصرت دے ہماری حجت و برہان کو اور پاک فرمائے ہماری زبانوں کو اور انس مہتیا فرمائے ہماری وحشتوں کو

ارْحَمْ بِهَا غُرْبَتَنَا وَاجْعَلْهَا نُورًا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَ

اور رحم فرمائے ہماری غربت پر اور اسے بنائے نور کا موجب ہمارے آگے اور پیچھے اور

عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شِمَائِلِنَا وَمِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا وَفِي

دائیں اور بائیں اور اوپر و نیچے اور ہماری زندگی

حَيَاتِنَا وَمَبَاتِنَا وَفِي قُبُورِنَا وَحَشْرِنَا وَنَشْرِنَا وَظِلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور ہماری موت میں۔ اور ہماری قبور میں اور دوران حشر و نشر اور موجب سایہ کا ہلے



عَلَى رُءُوسِنَا وَثَقُلْ بِهَا مَوَازِينَ حَسَنَاتِنَا وَادِمُ بَرَكَاتِهَا

سروں پر قیامت کے دن اور بھاری فرمائے بطریق اس کے ہماری نیکیوں کے پڑے کو اور دائمی بنا اس کی برکات

عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَى نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کو ہم پر حتیٰ کہ ہم ملاقات کریں سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی در آئیں

وَنَحْنُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ فَرِحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ وَأَنْ تُصَلِّيَ

ہم امن و اطمینان میں ہوں اور فرحان و شادان ہوں اور تو صلوٰۃ بھیجے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكْحُلُ بِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل سر زمین کرے

بَصِيرَتِي بِالتُّورِ الْمُرْشُوشِ فِي الْأَنْزِلِ لِأَشْهَادِ فَنَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ

ہماری بصیرت کو ساتھ اس نور کے جس کے چھینٹے ازل میں خلائق اشیاء پر ڈالے گئے تاکہ میں مشاہدہ کر لوں معجزات کی فناء

وَبَقَاءِ مَا لَمْ يَزَلْ وَرَأَى الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ فِي أَصْلِهَا مَعْدُومَةٌ

کا اور معجزات ازل کی بقاء کا اور دیکھ لوں تمام اشیاء کو ان کی اصل حالت میں یعنی عدم

مَفْقُودَةٌ وَكُونُهَا لَمْ تَشْمَرْ رَاحَةَ الْوُجُودِ فَضْلًا عَنْ كُونِهَا

و فناء میں اور وجود کی خوشبو سو گھنے سے بھی پہلی حالت میں چہ جائیکہ موجود ہونے کی

مَوْجُودَةٌ وَأَخْرِجْنِي اللَّهُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمِ أَنْبِيَّتِي إِلَى

حالت میں اور نکال مجھے لے اللہ ان پر صلوٰۃ کی برکت سے انانیت کی ظلمتوں سے

التُّورِ وَمِنْ قَابِرِ جُثْمَانِيَّتِي إِلَى جَمْعِ الْحَشْرِ وَفَرَقِ الشُّورِ وَأَفْضُ

نور کی طرف اور میرے جسم کی قبر سے جمعیت والے حشر اور تفرقہ والے نشور کی طرف اور جاری فرما

عَلَى مَنْ سَاءَ تَوْحِيدِكَ إِيَّاكَ مَا تُطَهِّرُنِي بِهِ مِنْ رَجْسِ

مجھ پر اپنی توحید و تفرید کے آسمان سے وہ بارش کہ پاک فرمادے اس کے ساتھ مجھے شرک کی

الْأَشْرَاكِ وَأَنْعَشْنِي بِالمَوْتَةِ الْأُولَى لِوَلَادَةِ الثَّانِيَةِ وَ

پہلی سے اور مجھے پہلی (اختیاری) موت کے ذریعے دوسری ولادت کے لیے اٹھا اور



أَحْيَيْتُ بِالْحَيَاةِ الْبَاقِيَاتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَاجْعَلْ

مجھے زندہ فرما حیات دائرہ کے ساتھ اس دنیائے فانی میں اور عطا فرما

لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَأَرَى بِهِ وَجْهَكَ أَيُّهَا تَوَكَّلْتُ

مجھے نور جس کے ساتھ میں لوگوں میں روشنی پھیلاتا چھروں اور دیکھ لوں اس کے ساتھ تیری ذات اقدس کو جہاں کہیں بھی ہوں

بِدُونِ اشْتِبَاهٍ وَلَا التَّبَاسِ نَاطِرًا بِعَيْنِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ فَاصْلًا

بغیر کسی اشتباہ و اقباس کے درآئیکہ دیکھنے والا ہوں جمع و تفرقہ والی آنکھ سے اور فرق

بِحُكْمِ الْقَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ دَالًّا بِكَ عَلَيْكَ وَهَادِيًا

کرنے والا ہوں قطعی طور پر باطل اور حق کے درمیان رہنمائی کرنے والا تیری توفیق سے تجھ پر اور ہدایت کرنیوالا

بِإِذْنِكَ إِلَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تیری توفیق سے طرف تیرے سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَقْبَلُ بِهَا دُعَائِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل قبول فرمائے تو میری دعا کو

وَتُحَقِّقُ بِهَا رَجَائِي وَعَلَى آلِهِ أَهْلِ الشُّهُودِ وَالْعُرْفَانَ وَ

اور محقق فرمائے میری امید و رجاء کو اور آپ کی اہل شہود و عرفان آل پر اور

أَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الدُّوْقِ وَالْوُجْدَانِ مَا انْتَشَرَتْ طُرَّةُ

اربابِ دوق و وجدان اصحاب پر جب تک پھیل رہیں شبِ تاریک

لَيْلِ الْكِيَانِ وَأَسْفَرَتْ عُرَّةُ جَبِينِ الْعِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی سیاہ زلفیں اور روشن رہے مشاہدہ کی سفید پیشانی۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیثِ قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

يَا ابْنَ آدَمَ أَعْطَيْتُكَ الْإِيمَانَ وَالْمَعْرِفَةَ مِنْ غَيْرِ

اے ابنِ آدم میں نے تجھے عطا کیے ایمان اور معرفت بغیر تیرے

سَوَالٍ وَتَضَرُّعٍ فَكَيْفَ الْبُخْلِ عَلَيْكَ بِالْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ مَعَ

سوال اور زاری کے تو کس طرح بخیل کروں گا تجھ پر ساتھ جنت و مغفرت کے باوجود

سَوَالِكَ وَتَضَرُّعِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری التماس و زاری کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا عَتَصَمَ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آدم جب عصمت حاصل

بِئِي عَبْدِي هُدَيْتُهُ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيَّ

کرے میرا بندہ میرے ساتھ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں اور جب مجھ پر توکل کرے کفایت کرتا ہوں اور جب میرے

غَيْرِي قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنَّهُ اللَّهُمَّ

ماسوا پر توکل کرے تو میں اس سے تمام آسمانوں اور زمینوں کے راستے منقطع کر دیتا ہوں۔ اے اللہ

ارزُقْنَا عَطَاءً وَرِضَاءً وَآلِهْمِنَا الشُّكْرَ فِي حَالَةِ الْعَطَاءِ

ہمیں نصیب فرما اپنی عطا اور رضاء اور ہمیں اپنا شکر الہام فرما حالت عطاء

وَالرِّضَاءِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي مُجَاهِدَةَ الْمُحِبِّينَ وَوَرَاثَةَ

ورضاء میں۔ اے اللہ مجھے اہل محبت کا مجاہدہ اور محبوبین والی

الْمُحِبُّوبِينَ وَوَصْلَ الْعَارِفِينَ

وراثت عطا فرما اور اہل عرفان و اہل وصول

الْمُتَوَاصِلِينَ الْمَوْحِدِينَ ط

موحدین کا وصل عطا فرما

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ

يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

جنا گیا اور نہیں ہے اس کا کوئی شیل و مشابہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللَّهُمَّ الْمُنْتَهَى  
کہ دین نامان تحت اقران افضل  
ایز و منان تحفه عجایب و هدیه غرائب الی اللہ  
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد ﷺ  
مُسْتَعْتَبٌ بِهِ

# مجموعۃ السُّؤَالِ

الجزء الثامن عشر

فِي قَدْرِهِ وَاقْتِدَارِهِ ﷺ

أَرْضَى بِهَا خَلْقَ الْجَنَّةِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَقْلِحِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاَبْلَجِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظہیل بہت کشادگی والی "بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بہت روشنی و نورانیت والی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاَتْهَجِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بہت واضح راستہ والی "بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ مالک ہے یوم جزاء کا۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا

راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ

الضّٰلِّیْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَتْ فِی

گمراہوں کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

الْقُدْسِیِّ ۝ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی یَا اِبْنَ اٰدَمَ اَطِيعُوْنِیْ بِقَدْرِ حَوَاجَتِكُمْ

حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم میری اطاعت کرو مطابق اپنی محتاجیوں کے

اِلَیْ وَاَعْصُوْنِیْ بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَی السَّارِ وَتَزَوُّدِیْ الدُّنْیَا

طرف میرے اور میری نافرمانی کرو مطابق اپنے آتش و دوزخ پر صبر کر سکنے کے اور دنیا کے لیے

بِقَدْرِ سَكُوْنِكُمْ فِیْهَا وَتَزَوُّدِیْ الْاٰخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكِنِكُمْ فِیْهَا

اتنا ہی زاد راہ حاصل کرو جتنا قدر تمہاری اس میں سکونت ہوگی اور آخرت کے لیے ناول حاصل کرو جتنا قدر تمہاری

وَلَا تَنْظُرُوْا اِلَیْ اِجَالِكُمْ الْمُسْتَاخِرَةَ وَاَرْزَاقِكُمْ الْحَاضِرَةَ وَا

اس میں سکونت ہوگی اور نہ دیکھو اپنی موخر عمروں اور حاصل رزقوں اور



ذُنُوبِكُمُ الْمَسْتُورَةَ وَكُلِّ شَيْءٍ هَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ وَلَوْ خِفْتُمْ

مستور گناہوں کی طرف۔ اور ہر چیز ہلاکت پذیر ہے سوائے اس کی ذات اقدس کے اور اگر تم خوف کھاتے

مِّنَ النَّارِ كَمَا خِفْتُمْ مِّنَ الْفَقْرِ لَا غِنِيَّتُكُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا

آتش دوزخ سے جیسے خوف کھاتے ہو فقر سے تو میں تمہیں غنی کر دیتا جہاں سے تمہیں

تَحْتَسِبُونَ وَلَوْ رَغِبْتُمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا رَغِبْتُمْ فِي الدُّنْيَا

گمان بھی نہ ہوتا اور اگر تم راغب ہوتے جنت کی طرف مانند دنیا کی رغبت کے

لَأَسْعِدْتُكُمْ فِي الدَّارَيْنِ وَلَا تَمِيتُوا قُلُوبَكُمْ لِحُبِّ الدُّنْيَا مَنْ

تو میں تمہیں سعادت مند کر دیتا دونوں جہانوں میں۔ اور نہ مارو تم اپنے دلوں کو دنیا کی محبت کی وجہ سے کیونکہ

رَوَّالِهَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وہ نوال پذیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ قَدْرًا وَسِعَ جُودُكَ وَإِحْسَانُكَ وَقَدْ رَسَعَتْ رَحْمَتُكَ

آل پر اپنے جود و احسان کی وسعت اور اپنی رحمت کاملہ کی وسعت کے مطابق

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اپنے

مَقْدُورَاتِكَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مقدورات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ فَضْلِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَقَدْ رَعَفُوكَ بَعْدَ وَجُوبِ حَقِّكَ

پر مطابق مخلوقات پر اپنے فضل کے اور مطابق اپنی عفو و درگزر کے بعد لازم ہونے اپنے حق کے

وَقَدْ رَدَّ آيْرَةَ مَلَكُوتِكَ وَقَدْ رَقَهْرَمَانَ جَبْرُوتِكَ وَمَلَكُوتِكَ

اور مطابق اپنے ملک عظیم کے دائرہ کے اور مطابق اپنے جبروت و ملکوت کے قہر و سطوت کے

وَقَدْ رَعَّظِمَ سُلْطَانِكَ وَكَرَّمْ بَرَهَانَكَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

اور مطابق اپنے تسلط کی عظمت کے اور اپنے برہان کے کرم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ وَسِعَ جُودَكَ وَاحْسَانَكَ وَقَدْرَ عَرْشِكَ وَتَكْوِينَهُ

سیدنا محمد پر اپنے جود و احسان کی وسعت کے مطابق اور اپنے عرش اور اس کی نیونگیوں کے مطابق

وَقَدْرَ كُرْسِيِّكَ وَتَكْوِينَهُ وَقَدْرَ فَضْلِ الْفَرُضِ وَقَدْرَ وَسْعِ كُرْسِيِّكَ

اور کرسی اور اس کے وجود و مجسمہ کے مطابق اور فضیلت فراغ کے مطابق اور اپنی کرسی کی وسعت کے مطابق

الَّذِي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو محیط ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ قَدْرَ جَلَالِكَ الزَّاهِي وَقَدْرَ كَمَالِكَ الْبَاهِي وَقَدْرَ سِتْرِكَ

محمد پر مطابق اپنے روشن جلال کے اور قابل فخر کمال کے۔ مطابق پائیدار ستر کے

الْبَاقِي وَقَدْرَ لُطْفِكَ الْوَافِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور کامل لطف و کرم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

قَدْرَ نَوَالِكَ الْوَافِي وَقَدْرَ عَطَائِكَ الْكَافِي وَقَدْرَ إِحْاطَتِكَ

اپنے کامل جود کی مقدار اور کافی عطا کی مقدار اور مقدرات کے احاطہ

بِالْمَقْدُورَاتِ وَقَدْرَ عَلَيْكَ بِالْمَوْجُودَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے مطابق اور موجودات کے علم کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ حِلْمِكَ بَعْدَ عَلَيْكَ وَقَدْرَ نِعْمِكَ وَوَابِلِ

نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق اپنے حلم کے باوجود علم کے اور مطابق اپنی نعمتوں کے اور

كْرَمِكَ وَقَدْرَ قُدْرِكَ الْعَظِيمِ وَقَدْرَ فَضْلِكَ الْعَمِيمِ وَقَدْرَ

باران کرم کے اور مطابق اپنی عظیم قدر اور فضل عظیم کے اور مطابق

كَمَالِ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَقَدْرَ حِمَالِ نَظْرِكَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنی صلوات کاملہ کے ان پر اور مطابق اپنی جمیل نظر کے طرف ان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ حُبِّكَ إِيَّاهُ وَقَدْرَ لَوْلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان سے اپنی محبت کے مطابق اور لا الہ الا اللہ کے مطابق

وَقَدْرًا عَزَّتْ عَلَيْهِ وَقَدْرًا رَغَبْتَهُ فِيمَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور ان کی تیرے ہاں عزت و قدر کے مطابق اور ان کی تیرے ہاں کی نعمتوں میں رغبت کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ وَقَدْرًا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اپنی زمین اور آسمانوں کی مقدار اور اپنی

قُدْرَتِكَ وَإِرَادَتِكَ وَقَدْرًا سَحَابَيْبِ عَفْرَانِكَ وَقَدْرًا

قدرت اور ارادہ کے مناسب اور اپنے عفران کے بادلوں اور رضا و

مَنَائِبِ رِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

رضوان کے عطیات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق

ذِكْرِكَ بِالثَّنَا وَقَدْرًا أَسْمَاءِكَ الْحُسْنَى وَقَدْرًا إِحْسَانِكَ

اپنے ذکر و ثناء کے اور مطابق اپنے اسماء حسنی کے اور مطابق اپنے احسان کے

عَلَيْهِ وَقَدْرًا بَرَكَاتِكَ الْوَارِدَةِ مِنْكَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور برکات کے جو تجھ سے ان پر وارد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا حَلَاوَةِ ذِكْرِكَ وَقَدْرًا مَزِيدًا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اپنے ذکر کی شیرینی کے مطابق اور مزید

شُكْرِكَ وَقَدْرًا أُرْجَاءِ عَرْشِكَ وَقَدْرًا سُرْعَةِ بَطْشِكَ

شکر اور اپنے عرش کے اطراف اور سرعت بطش و مواخذہ کی مقدار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ بُرْهَانِكَ وَقَدْرًا عَلُوِّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اپنے برہان اور علو

شَانِكَ وَقَدْرًا مَقْدُورَاتِكَ وَقَدْرًا اقْتِدَارِكَ عَلَي مَا خَلَقْتَ

شان کے مطابق اور اپنے مقدرات مخلوقات پر اقتدار کے مطابق اور اپنی تقدیرات

وَقَدْرًا عِلْمِكَ بِمَا قَدَّرْتَ وَرَسَقْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

اور ارزاق کے علم کامل کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ قَدْرَ قِيَامِكَ عَلَى مَا كَوْنَتْ وَنَهَيْتَ وَأَمَرْتَ وَقَدَّرَ

محمد پر مطابق اپنی نگہداشت کے اپنی ایجادات پر اور اپنی نبی اور امر کے اور مطابق تیسرے

إِحَاطَتِكَ بِمَا حَفِظْتَ وَسَتَّرْتَ وَقَدَّرَ أَدَائِهِ لِحَقِّكَ وَقَدَّرَ

احاطہ کے حفاظت اور ستر و پردہ میں موجود اشیاء کے اور ان کی ادا کیجی تھی کے مطابق اور

إِحْسَانِكَ لِخَلْقِكَ وَقَدَّرَ عُلُوَّ جَلَالَتِهِ وَمَهَابَتِهِ وَقَدَّرَ

خلق پر اپنے احسان کے مطابق اور ان کے علو جلالت و ہیبت کی مقدار اور ان کے اپنے ہاں

خَطْوَتِهِ لَدَيْكَ وَمَكَانَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رتبہ و مقام کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

قَدْرَ ثَوَابِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَقَدَّرَ عِزَّتَهُ عَلَيْكَ وَدَلَالَتِهِ

ان کی ثبوت و رسالت کے ثواب کے مطابق اور ان کی عزت و قدر اور رہنمائی کے مطابق اور

وَقَدَّرَ رَجَاهَهُ السَّامِيَّ وَقَدَّرَ عِزَّ جَنَابِهِ الْحَامِيَّ وَقَدَّرَ خُلُوصَ

ان کی بلند قدر عزت ان کی حمایت والی بارگاہ عز و ناز کے مطابق اور ان کے خلوص

مَحَبَّتِهِ وَقَدَّرَ سُمُورَ مَرْفَعَتِهِ وَقَدَّرَ جَزِيلَ ثَوَابِهِ وَقَدَّرَ حُصُولَ

محبت اور بلند مقام رفعت کے مطابق اور ان کے عظیم ثواب اور مہیا اسباب ثواب

أَسْبَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَّرَ رَجَائِهِ فِي اللَّهِ

کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق ان کی امید کے اللہ تعالیٰ سے

وَقَدَّرَ حَيَاتِهِ مِنْ اللَّهِ وَقَدَّرَ ضِيَاءَ شَرِيعَتِهِ وَقَدَّرَ جَمِيلَ

اور شرم و حیا کے اس سے۔ اور ان کی شریعت کی ضیاء اور ان کی طریقت جمیل کے

طَرِيقَتِهِ وَقَدَّرَ كِمَالَ حَقِيقَتِهِ وَقَدَّرَ عِرْفَانَ مَعْرِفَتِهِ وَ

مطابق اور ان کے کمال حقیقت اور عرفان و معرفت کی مقدار اور

قَدَّرَ انْفِجَارَ انْوَارِهِ وَقَدَّرَ ظُهُورَ اسْرَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ان کے انوار کے کمال ظہور اور اسرار کے انکشاف کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا رَفَعًا مَقَامَهُ وَقَدْرَ نَفْوِذِ أَحْكَامِهِ وَقَدْرَ

سیدنا محمد پر ان کی رفعت مقام کے مطابق اور نفوذ احکام - علو

عُلُوِّ هَيْبَتِهِ وَقَدْرَ مُحَبَّتِهِ لِأُمَّتِهِ وَقَدْرَ شَرْفِهِ فِي الدَّارَيْنِ وَ

ہمت اور امت سے محبت کی مقدار اور دارین میں ان کے

قَدْرَ فَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَدْرَ عَقْلِهِ

فضل و شرف کی مقدار اور تمام انبیاء و مرسلین پر فیضیت کے مطابق اور ان کے

الرَّاجِحِ وَقَدْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ وَرَأْيِهِ النَّاجِحِ وَقَدْرَ ذِكْرِهِ

وزنی عقل اور عمل صالح اور کامیاب رائے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے ذکر

بِاللَّهِ وَشَوْقِهِ إِلَيْهِ وَقَدْرَ وَتَوَقُّعِهِ بِاللَّهِ وَتَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

اور شوق اللہ پر و توق و توکل کے مطابق - اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ لُطْفِ اللَّهِ بِهِ وَقَدْرَ تَخْصِيصِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر ان پر اپنے لطف و کرم اور انہیں محبوبیت و

اللَّهِ إِلَيْكَ بِحُبِّهِ وَقَرْبِهِ وَقَدْرَ قِيَامِهِ بِالْعِبَادِيَّةِ وَقَدْرَ

تقرب کے ساتھ مخصوص فرمانے کی مقدار اور ان کے حق عبودیت کے قائم کرنے اور حقوق

إِعْتِنَائِهِ بِحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ وَقَدْرَ كَرَمِ أَخْلَاقِهِ وَقَدْرَ طَيْبِ

ربوبیت کے اہتمام کی مقدار اور ان کے اخلاق کریمانہ اور ان کی رگوں کی پاکیزگی

أَعْرَاقِهِ وَقَدْرَ شَيْمَةِ الظَّاهِرَةِ وَقَدْرَ حَكِيمَةِ الظَّاهِرَةِ وَ

اور پاکیزہ نصلتوں اور ظاہر و غالب حکمتوں اور

قَدْرَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقَدْرَ خُشُوعِهِ وَخُضُوعِهِ اللَّهُمَّ

رکوع و سجد اور خشوع و خضوع کی مقدار - اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ يَقِينِهِ وَعِرْفَانِهِ وَقَدْرَ حَقِيقَةِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر ان کے یقین و عرفان اور حقیقت



إِيمَانِهِ وَقَدْرَ جَلَالِ مَنْظِرِهِ وَقَدْرَ كَمَالِ مَظْهَرِهِ وَقَدْرَ جَمَالِهِ

ایمان اور جلالت منظر اور کمالیت منظر کے مطابق ان کے اڑکھے جمال

الرَّائِقِ وَقَدْرَ حُسْنِهِ الْفَائِقِ وَقَدْرَ عَظَمَةِ اللَّهِ وَقَدْرَ عِزَّتِ اللَّهِ

اور عمدہ و فائق حسن کے مطابق اور عظمت اللہ اور اس کی عزت

وَقَدْرَ نُصْرَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عَرْشِكَ وَ

ونصرت کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق اپنے عرش اور

تَلَوْنِهِ وَكُرْسِيِّكَ وَتَكْوِينِهِ وَقَدْرَ فَضْلِ الْفَرَضِ وَالطُّوْلِ وَالْعَرْضِ

اس کی نیرنگیوں کے اور کرسی اور اس کے وجود کے اور مطابق فضیلت فرض کے اور طول و عرض کے

وَقَدْرَ حَرَكَاتِ النَّبْضِ وَالْغَمْضِ وَقَدْرَ وَسْعِ كُرْسِيِّكَ الَّذِي وَسِعَ

اور نبض کی حرکات اور اشارات کے اور کرسی کی وسعت کے جس نے احاطہ کر رکھا

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْرَ قَهْرِ مَآنِ جَبْرُوتِكَ وَقَدْرَ جَلَالِكَ

ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کا اور مطابق تیرے تسلط والے قہرمان کے اور تیرے جلال

الذَّاتِيَّ وَكَمَالِكَ الصِّفَاتِيَّ وَقَدْرَ كَلَامِكَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْكَرَامِكَ

ذات کمال صفات کے اور امر و نہی والے کلام اور قابل فخر اکرام کے

الْبَاهِيَّ وَقَدْرَ سِتْرِكَ الْبَاطِنِيِّ وَلُطْفِكَ الْوَافِي الظَّاهِرِ وَالْخَافِي

اور دائمی ستر اور وافی و کافی اور ظاہر و باطن لطف و کرم کے مطابق

وَعَفْوِكَ الْعَافِيَّ وَتَوَالِكَ الْوَافِيَّ وَعَطَائِكَ الْكَافِيَّ وَقَدْرَ

اور اپنی عفو کامل اور جود اکمل اور عطاء کافی کے مطابق اور تیرے

إِحَاطَتِكَ بِالْمَقْدُورَاتِ وَعِلْمِكَ بِالْمَوْجُودَاتِ وَحِلْمِكَ

مقدورات کے احاطہ۔ موجودات کے علم اور مخلوقات پر حلم اور

عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ وَنِعْمِكَ عَلَى الْمَكْنُونَاتِ وَقَدْرَ حِلْمِكَ بَعْدَ

پر شہیدہ اشیاء پر نعمتوں کے مطابق اور مطابق حلم کے باوجود

عَلَيْكَ وَوَابِلْ كَرَمِكَ وَقَدْرُ قَدْرِكَ الْعَظِيمِ وَفَضْلِكَ الْعَمِيمِ

علم کے اور بارانِ جود و کرم کے۔ اپنے قدرِ عظیم اور فضلِ عظیم و

وَالْجَسِيمِ وَكَرَمِكَ الْعَمِيمِ وَجَنَاتِ النَّعِيمِ وَذَاتِكَ الْكَرِيمِ وَ

جسیمِ کرمِ عظیم اور جناتِ النعیم اور ذاتِ کریم اور

حَقَّ قَدْرَاهُ وَمَقْدَارُهُ الْعَظِيمِ حَقَّ قَدْرَاهُ وَمَقْدَارُهُ وَقَدْرُ

محبوبِ کریم کی قدر و منزلت اور شانِ عظیم کے لائق اور مطابق تیرے

إِنْعَامِكَ عَلَيْهِ وَعِنَايَتِكَ بِهِ وَقَدْرُ كَمَالِ صَلَاتِكَ عَلَيْهِ

انعام کے اور عنایت کے ساتھ ان کے۔ اور تیری ان پر صلواتِ کاملہ

وَجَمَالِ نَظْرِكَ إِلَيْهِ وَقَدْرُ قَدْرِكَ لَدَيْهِ وَقَدْرُ حُبِّكَ إِيَّاهُ

اور نظرِ جمیلہ کے مطابق اور مطابق تیری قدر کے ان کے ہاں اور مطابق تیری محبت کے ساتھ ان

وَقَدْرُ مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَقَدْرُ كِبْرِيَاءِكَ وَقَدْرُ عَظَمَةِ

کے اور بمقدار تیری محبت اور رضا کے اور تیری کبریائی اور عظمتِ ذات کے

ذَاتِكَ وَقَدْرُ عِزَّتِهِ عَلَيْكَ وَرَغْبَتِهِ فِيمَا لَدَيْكَ وَقَدْرُ مَا

مطابق اور ان کی تیرے ہاں عزت اور تیری نعمتوں میں رغبت کے مطابق اور ان کی تجھ سے

يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ وَبِحُبِّ الْمَحْبُوبِ مُرْتَضَاكَ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي

محبت اور رضا مندی اور اپنے پسندیدہ محبوب کی محبت کے مطابق۔ اے اللہ مجھے ناسخِ خطرات

عَنِ الْخَطَرَاتِ كُلِّهَا صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا الْمُنْعَةَ لِتَقَرُّبِي بِالْأَرْوَاحِ

سے پاک فرما صغیر یا کبیر جو مانع ہوں میرے ارواحِ تقدسیہ کے ساتھ

الْقُدْسِيَّةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِجَابَةُ لَصَرِيخٌ كُلُّ نَاسُوتِي أَوْ مَلَكُوتِي

تقرب میں۔ اور اگر نہ پائی گئی قبولیت ہر جسمانی اور روحانی کی فریاد کی

لَسَدَّ طَرِيقُ الرَّحْمَةِ وَفَرَحَتْ الشَّيَاطِينُ النَّارِيَّةُ وَالْجَمَادِيَّةُ

تو رحمت کا راستہ بند ہو جائے گا اور خوش ہو جائیں گے ناری اور جمادی شیاطین





الَّذِينَ حَبِصُوا عَنْ رِعَايَةِ الْحُقُوقِ الدِّيُونِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ

جنہیں محسوم کیا گیا دینوی اور اخروی رحمانی حقوق کی رعایت سے

فَالْجَنَّةُ مَعَ قُصُورِهَا وَأَنْهَارِهَا رَحْمَةً وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي

پس جنت مع اپنے محلات اور انہار کے سراسر رحمت ہے۔ لیکن جو سعادت بخشے گئے تو وہ

رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْمُظَاهِرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَذُرَاتِهَا تَصْرَخُ وَكُلُّ يَصْرَخُ

رحمت اللہ (جنت) میں ہیں اور تمام مظاہر رحمانیہ اور ان کے تمام ذرات فریادی ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی

وَيَسْتَعِيثُ عَلَى قَابِلِيَّتِهِ وَتَعْلُقُهُ بِمِظْهَرِ خَاصِّ دُونَ خَاصِّ حَتَّى

تقابلیت اور مظہر خاص سے تعلق کے مطابق فریاد کناں اور امداد طلب ہے حتی کہ

الْأَشْجَارِ وَالْجَمَادَاتِ عَلَى حَسْبِ أَجْدَارِيَّتِهِ حَتَّى قُلَّتْ وَخَاطَبَتْ

نباتات اور جمادات بھی اپنی لیاقت کے مطابق حتی کہ تو نے فرمایا اور خطاب کیا

لِزَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الصَّرَاخِ وَالِدَاعُوَةَ إِلَى الرَّحْمَةِ بَعْدَ مِ

زکریا علیہ السلام کو وقت ان کی فریاد اور دعائے رحمت کے ساتھ

الْفَرَاحِ لِسَبْقَةِ الرَّحْمَةِ الْأَيْقَةِ بِالنُّبُوَّةِ الصَّبْرِيَّةِ السَّابِقَةِ الْجَمَالِيَّةِ

نہ گھبرانے کے بسبب سابق رحمت کے جو لائق ہے نبوت کے جو صبر والی ہے اور جمال و

الْكَمَالِيَّةِ عِنْدَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَالْجَمَالِ الْجَاعِلِ وَقَدْ ظَنَّ الشَّيْطَانُ

کمال سابق والی ہے وقت بڑی گھبراہٹ کے اور جمال خالق کے جبکہ گمان کیا شیطان نے

سَدَّ طَرِيقَ الْإِجَابَةِ وَالرَّحْمَةِ فِيهِ وَهُوَ فِي عَيْنِ الرَّحْمَةِ لِتَقْدِيرِ

ان کے حق میں راہ اجابت و رحمت کی بندش کا حالانکہ وہ سراسر رحمت میں تھے بسبب عطاء نبوت

النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ ظُهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وَالسَّلْطَنَةِ الْمَجْرَدَةِ عَنْ

کے جو کہ سراسر ظہور ہے مالکیت اور سلطنت کا جو مجرہ ہے

شَوَائِبِ الظُّلْمَةِ مِنْ تَعْيِنَاتِ الْمُقَيَّدَةِ وَالشَّهْوِيَّاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ

ظلمت کی ملاوٹوں سے یعنی تعینات مقیدہ اور خواہشات متعددہ سے



وَلَمْ يَكُنْ زَكْرِيَّا مَكْشُوفَ الْحَالِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يَقْصِدْ

اور نہیں تھے زکریا علیہ السلام اس حالت میں حقیقت حال سے باخبر ورنہ فریاد اور

إِلَى الصَّرَاخِ وَالِاسْتِعَانَةِ بَلْ مَنَعَ الْقَلْبَ عَنِ الدَّعْوَةِ الْحَقِيقِيَّةِ

استغاثہ کا قصد نہ کرتے بلکہ روک لیتے اپنے دل کو بھی حقیقی دُعا سے

إِلْيَاصَالِهِ إِلَى الْحَقِّ بِسَبَبِ دَاءٍ شَدِيدٍ إِلَيْهِمْ مُفَرِّقٍ لِلْهَيْئَةِ

بسیب ان کے واصل الی الحق ہونے کے اس سخت دردناک بیماری سے جو ہیئت

الْبَدَنِیَّةِ قِيَا لِهَ كُلِّ مَوْجُودٍ أَنْتَ رَحِيمٌ رَاحِمٌ بِاسْتِعْدَادِ

بدنیہ کو پارہ پارہ کرنے والی تھی۔ لے ہر موجود کے معبود تو ہی رحیم ہے مجھ پر رحم فرماتے ہوئے خاص استعداد

الْخَاصِّ حَتَّى اتَّرَقَى فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَبُرْهَةً مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ جَسَدِيٍّ أَوْ

عطا فرماتا کہ میں ہر لمحہ اور ہر آن ترقی کر سکوں بغیر کسی جسمانی۔ نفسی مانع

قَلْبِيٍّ أَوْ غَلْبَةِ نَفْسٍ أَمَّا بَرِيَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِنَارِيسَةٍ وَهَارِيَّةٌ اللَّهُمَّ

کے اور نفس امارہ کے غلبہ کے جو نارسی اور تنزل پذیر اشیاء سے لائق کرنا والا ہے۔ اے اللہ

أَنْتَ تَامُّ الْوُجُودِ وَالْمُكْمَلُ وَالْمُتَمِّمُ لِلنَّاقِصِ فِي الْوُجُودِ وَ

تو موجود کامل ہے اور ناقص الوجود اشیاء کو مکمل اور تمام کرنے والا ہے اور

كُلُّ ذَرَّةٍ كَامِلَةٌ عَلَى حَسَبِ أَجْدَابِئِهِ فَإِنَّا النَّاقِصُ الْفَقِيرُ

ہر ذرہ کامل ہے اپنی لیاقت کے مطابق تو میں بھی ناقص و محتاج ہوں

إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ طَوْرٍ وَطَرِيقٍ حَتَّى لَا يُنْسَبَ قَوْلِي وَلَا وَهْبِي

تیری طرف ہر طور اور طریقہ سے حتی کہ نہ منسوب کیا جائے میرا قول اور وہم و گمان

مُجَرَّدًا عَنِ مَعْلُولٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ شَرْطٍ مُتَوَقِّفٍ عَلَيْهِ إِلَى عِبْتِكَ عِنْدَ

درآخا لیکہ وہ خالی ہو معلول یا علت یا شرط سے جس پر وہ متوقف ہو طرف عبت اور لغویت کے

أَصْحَابِ الْكِمَالِ بَلْ كُلُّ يَجْرِي عَلَى شَاكِلَةٍ وَدَوْرَانِي مِنَ الْهَاءِ

اور اب کمال کے ہاں بلکہ جاری ہو ہر ایک خاص طریقہ پر اور پھیر دے مجھے ہا۔



إِلٰهِیَّ إِلَى الْهَاءِ الْهُوِّیِّ وَاجْعَلْنِي كَالنَّقْطَةِ الْوَاصِلَةِ إِلَيْهَا

الہی سے ہاء ہویت کی طرف اور بناوے مجھے مانند اس مرکزی نقطہ کے جس کی طرف واصل ہوں  
خُطُوطٌ جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَالْجَوَانِبِ فَتَقْفِضُ عَلَيْنَا شُعَاعَاتِ

تمام اطراف و جوانب کے خطوط پس فاقض ہوں ہم پر وہ شعاعیں  
مَجَلَّاتٌ بِالْحَمَالِ مُتَحَلِّيَةٌ بِالْجَلَالِ مُتَقَعَّرَةٌ فِي الْكَمَالِ جَابِرَةٌ

جو روشن ہوں جمال حق کے ساتھ آراستہ ہوں جلال حق کے ساتھ، کمال کی گہرائی تک واصل ہوں، شکستگی و خواطر کو  
دَائِرَةٌ تَبْدَأُ بِالدَّيْنِ تَامَةٌ بِالْإِلَهِيِّ الْأَعْمَكِ مُتَعَاقِبَةٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ

دور کرنے والی ہوں اور لذت تامہ کے ساتھ گردش کرنے والی۔ اے میرے الٰہی تیری نعمتیں مسلسل ہیں بے حد  
ظَاهِرَةٌ مَحْجُوبَةٌ عَنْ تَعْدِيدٍ وَاحْصَاءٍ بَلْ مُتَحَيِّرَةٌ فِي قُوَّةِ

اور ظاہر ہیں ان کی گنتی و شمار متممع ہے۔ بلکہ آنکھ کو حیرت زدہ  
بِأَصْرَةٍ فَحَمْدُكَ طَوِيلٌ وَشُكْرُكَ عَسِيرٌ وَلُطْفُكَ يَسِيرٌ وَالْأَكَيْفُ

کرنے والی ہیں، پس تیری حمد کا سلسلہ دراز ہے، تیرا شکر دشوار ہے اور تیرا لطف و کرم موجب تیسیر ہے ورنہ میں کیسے  
أَنَا مُصِيبٌ إِلٰهِیُّ قَدْ تَمَّتِ الْحَرَكَاتُ فِي الشَّخْصِيَّاتِ وَالسُّكُنِيَّاتِ

حمد و شکر تک پہنچا۔ اے میرے الٰہی مکمل ہو چکی ہیں حرکات اشخاص میں اور سکناات  
فِي الْمَاهِيَّاتِ الْفَلَکِيَّاتِ بِجَعْلِهَا مِنْكَ إِلَى هَذِهِ الْهَيْئَاتِ فَلَمَّا لَمِنِي

ماہیات فلکیہ میں بسبب تیرے پھرنے کے انہیں ان حالات و کیفیات کی طرف لہندا مجھے کامل فرما  
الْآنَ وَالْآتِي حَتَّى أَنْصَرَفَ كُلًّا فِي مَرْكَزِهِ وَمَحَلِّهِ مَعَ بَصِيرَةٍ

اب اور آئندہ زمانہ میں تاکہ میں تصرف کر سکوں ہر ایک کے مرکز اور محل میں ساتھ بصیرت کے  
عَرَافَةٍ لِحُزْنِيَّاتٍ لِأَحْقَةِ مُنْدرَجَةٍ تَحْتَ وِلَايَةِ كَلِيَّةٍ بِحَيْثُ

جو پہچان کرے جزئیات لاحقہ کی جو مندرج ہیں ولایت کلیہ کے تحت اس حیثیت سے  
يُؤَافِقُهَا وِلَايَةُ الْأَقْطَابِيَّةِ وَالْأَوْتَادِيَّةِ مَعَ فُتُونِ طَرْفِهَا

کہ موافق ہو اس کے ولایت اقطابیہ و اوتادیہ مع اپنے مختلف طریقوں کے



طَاوِيَةً لِّعَلْمِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا اللَّهُمَّ كَمَلُّ

لپٹنے والی ہو میرے ظاہری اور باطنی علم کو ان کے ظاہر سے۔ اے اللہ میرے اوقات کو

أَوْقَاتِي وَتَمِّمُ أُنَاتِي بِحَيْثُ أَخَالَصَهَا مِنْ تَشْوِيْشَاتِ خَطَرَاتِي

کامل فرما اور آفات کو مکمل فرما اس انداز سے کہ میں ان کو خالص کروں قلبی خیالات کی تشویش سے

وَوَسَاوِسِ خَنَاسِيْ وَلَا تَخَالِجْ سِرِّيْ بَلْ سَامِحْنِيْ وَالْأَكِيْفُ

اور اپنے خناس کے وسوسوں سے اور میرے باطن میں اضطراب پیدا نہ کرے بلکہ تو مجھ سے درگزر فرما ورنہ کسی طرح

وَصَلِّ بِكَ مَنْ وَقَعَ فِي ظُلُمَاتِ صَلْصَالِيَّةٍ أَمْرَهَا السُّنْجَابُ

داصل ہو گا تیرے تک جو گر جائے اپنے ارضی خمیر کی ظلمات میں جس کا انجام

إِلَى الْغَوَايَةِ يَا أَحَدُ الصَّمَدِ الْغَنِيِّ الْمَطْلُوقِ أَطْلِقْنِيْ وَلَا تَقْتِدُنِيْ

گمراہی ہے۔ اے احد۔ اے صمد۔ اے غنی مطلق مجھے آزاد فرما اور مقتید نہ فرما

بِأَيِّ كَوْنٍ وَوَصِفِ أَيْ وَصِفِ رُدِّيْ أَوْ نَقِيْ بَلْ اجْعَلْنِيْ

کسی وجود اور وصف کے ساتھ رومی ہو وہ وصف یا پاکیزہ، بلکہ بنا مجھے

سَاتِرًا فِي عَيْنِ كَوْنِ هُوِيَّةٍ وَاحِدِيَّةٍ مَعَ فَيْضِ أَيْضِ أَحَدِيَّةٍ

صاحب ستر ہویت واحدیہ کے عین وجود میں وجود میں جمع احدیت کے فیوضات کے

اللَّهُمَّ عَلِمِي قَاصِرٌ وَعُرْفَانِي ظَنَنْ وَمُقَدَّمَاتِي شَكِيَّةٌ فَرِيْنَا عَلِي

اے اللہ میرا علم قاصر اور معرفت ناقابل وثوق اور میرے مقدمات دلیل مشکوک ہیں پس تو ہمیں مزین فرما

وَجْهٍ كَمَالٍ عِنْدَ ذِي جَلَالٍ فِي مَقَرِّهِ عِنْدَ ذِي جَمَالٍ فِي مَقَرِّهِ

کامل طریقہ پر ہر صاحب جلال کے نزدیک اور ہر صاحب جمال کے نزدیک ان کے مقام استقرار میں

أَمِينٌ مَعَ فَلَكَ وَمُلْكِهِ اللَّهُمَّ أَكْرَمْنِي بِالْإِطْلَاعِ عَلَى قَضَائِكَ

آمین جمع اس کے فلک اور ملک کے۔ اے اللہ مجھے عزت بخش اپنی تفضاد و قدر پر

وَقَدْرِكَ حَتَّى لَا أَنْزِعَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ بَلَا أَرَادَةَ شَيْءٍ

اطلاع کے ساتھ حتی کہ نہ نزاع کروں میں کسی فعل اور قول میں بغیر سماوی



سَمَاوِيٍّ وَأَرْضِيٍّ فَتَفْرِيقَكَ بَعْدَ الْجَمْعِ وَالْجَمْعُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ

اور ارضی شے کے ارادہ کے پس تیرا جدا کرنا بعد جمعیت (عطا کرنے) کے اور جمعیت بختنا بعد جدا کرنے کے

عَدْلٌ عَلَىٰ وَجْهِ حِكْمَتِكَ وَإِرَادَتِكَ وَاجْعَلْنِي عَادِلًا فِي كُلِّ

عدل محض ہے تیری حکمت و ارادہ کے مطابق اور بنا مجھے عدل وال ہر

إِضَافَةٍ وَمَرْتَبَةٍ حَادِثَةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ قَدِيمَةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

نسبت اور مرتبہ میں نیا ہو یا پرانا - اے اللہ میں تجھ سے پناہ

بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَالْعُدُوِّ وَمِنْ بَوَارِقِ الأَيِّمِ وَمِنْ فِتْنَةِ

طلب کرتا ہوں قرض اور دشمن کے غلبہ سے - اور غیر شادی شدہ عورتوں کی ہلاکتوں،

المسيحِ الدجالِ وَمِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ

میسح دجال کے فتنہ اور عورتوں، مردوں کے فتنہ سے - اور

البلاءِ وَالْوَبَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إبْلِيسَ وَجُنُودِهِ

بلاء و دجال کے فتنہ سے - اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ابلیس سے اور اس کے لشکروں سے

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تُصَدِّعَنِي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعُوذُ بِكَ

اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو روک دے مجھے اپنے دیدار سے قیامت کے روز اور پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جُهِدِ البلاءِ وَمِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ

اپنے عمل کے شر سے اور بیات کی مشقت سے اور عذاب آخرت سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمَلٍ يُلْهِمُنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ

اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ہر غافل کرنے والی آرزو سے - اور تجھے بھلانے والے فقر سے

يُلْسِيْنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَنِي يُطْغِيْنِي وَمِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِيْنِي

اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر عنی سے جو مجھے سرکش بنا ڈالے اور ہر عمل سے جو رسوا کرے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِيْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور پناہ طلب کرتا ہوں ہر ساتھی سے جو مجھے ایذا دے - اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں



ضَيْقُ الدُّنْيَا وَضَيْقُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ

دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے اور غم و اندوہ والی

الْغَمِّ وَالْهَمِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا

متر سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنے

أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبَّتْ عَنْهُ وَتَبَّرَاتُ مَنْ

سے جبکہ میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ اور میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے جن کا علم نہیں رکھتا۔ میں نے ان سے توبہ کی اور برات نکالا،

الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنِّسْبَةِ وَالْفَحْشِ

کی کفر و شرک سے اور غلط بیانی و غیبت سے اور بدعت و چغلیوری سے اور بد کلامی

وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعْاصِي كُلِّهَا وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

و بہتان تراشی اور تمام تر گنہوں سے اور میں اقرار کرتا ہوں "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"

اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

کا۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کریمہ اور عظیم نام کے وسیلے سے

مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَبْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَعَلَى

کفر و فقر سے اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو پیٹ کے بل چلے یا

رَجُلَيْنِ وَعَلَى أَرْبَعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ تَشِيْبُنِي قَبْلَ

دو قدموں پر یا چار پر۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس عورت سے جو مجھے بوڑھا کرے

الْمَشِيْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنْ وُلِدَ يَكُونُ عَلَيَّ وَبِالْأَوْ مِنْ مَالٍ يَكُونُ

بوڑھاپے کے وقت سے پہلے اور پناہ طلب کرتا ہوں اس اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو اور اس مال سے جو

عَلَيَّ عَذَابًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيْعَةٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً

مجھ پر عذاب ہو اور ایسے دھوکا باز سے جو نبی دیکھے تو اس کو

دَفَنَهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

دنن کر دے اور برائی دیکھے تو اس کو شاخ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی زمین اور آسمانوں کی مقدار۔ اے اللہ میں  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطْرِ الْغَنَىٰ وَمِذَلَّةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ

تجھ سے پناہ حاصل کرتا ہوں غنا کے غرور و تکبر سے اور فقر کی ذلت سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں  
فِي الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ

حق میں شک کرنے سے بعد حصول یقین کے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطان الرجیم سے اور  
هُوَ لِيَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْفَجَاةِ وَمِنْ

قیامت کی ہولناکی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اچانک موت سے اور  
لُدُّغَةِ الْحَيَّةِ وَمِنْ السَّبْعِ وَمِنَ الْغُرُقِ وَالْحَرْقِ وَمِنْ أَنْ أُخْرَجَ

سناپ کے ڈسنے سے اور درندہ سے اور غرق ہونے اور جلنے سے اور کسی شئی پر گر پڑنے سے  
عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الرَّحْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور شکر کے فرار کے وقت قتل ہونے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل  
عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَيْتُكَ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی قدرت کاملہ کے مطابق۔ اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَيْتُكَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنے  
مَعْلُومَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

معلومات کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل  
مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَيْتُكَ فِي مَصْنُوعَاتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

پر اپنے مصنوعات کے ارادہ کے مطابق۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں  
الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ وَمِنَ الدَّلِّ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ

فقر سے مگر طرف تیرے اور تواضع و انکساری سے مگر واسطے تیرے اور خوف سے مگر تجھ سے



وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا أَوْ أَعْشَى فُجُورًا أَوْ أَكُونَ بِكَ

اور پناہ حاصل کرتا ہوں تیری جھوٹ بولنے سے۔ یا برائی کرنے سے۔ یا تیرے ساتھ

مَعْرُورًا أَوْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاتِهِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَ

غزور کرنے سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں دشمنوں کی شادمانی سے اور سخت بیماری سے اور

خَبِيئَةِ الرَّجَاءِ وَتُرْوَالِ النِّعْمَةِ وَفَجَاةِ النِّقْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

امید میں ناکامی سے اور نعمت کے زوال اور اچانک انتقام کے ساتھ دوچار ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَفَعْنَا بِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر تیرے مظاہر اسماء کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر تیرے

مَظَاهِرِ صِفَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مظاہر صفات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَادَتْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر تیرے ارادہ کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَسَخَتْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر تیری بخشش کے بادلوں کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَانَا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی رضا کے عطیات

رِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رَنَعِمَ جَنَّاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر اپنی جنتوں کی نعمتوں کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر





وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ تُوْبِرُكَ الْأُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور آپ کی آل پر اپنے عالی شان قدر کے مناسب۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ قَدْرٌ بَرَكٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی بلند ترین شان کے

الْأُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مناسب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْرٌ ذِكْرُكَ لَهُ بِالثَّنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّغِيظِ وَالضَّغِيظِ

مطابق تیرے ان کا ثنا کے ساتھ تذکرہ کرنے کے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کمزور رائے والے اور ضعف

وَالضَّغِيظِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبَعِ وَالضَّبَعِ وَالضَّاجِعِ وَالضَّوْعِ

رائے اور ذوق کئے جانے سے۔ اور پناہ حاصل کرتا ہوں تیری ظلم کرنے سے اور بے برکتی سے اور احمق و حماقت

وَالضَّبَعِ وَالضَّبَعِ وَالضَّبَعِ وَالضَّبَعِ وَالضَّبَعِ وَالضَّبَعِ وَالضَّبَعِ

اور پیچ و تاب اور ہلاکت سے اور تلف ہونے سے اور دھوکہ دئے جانے اور رسوائی سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں

الْمَوْءُوفِ وَالْمَدُّووفِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّقِّ وَالرَّقِيقِ وَالرَّقَاقِ

معتل حواس والے اور آفت زدہ سے اور مخلوط و نسب سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں غلامی اور غلام سے اور بنجرین

وَالرَّقِيقِ وَالرَّقِيقِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرُّبُولِ وَالذُّبَالِ وَالذُّبَالَةِ

اور کمزوری سے اور گدلا پن سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں مرجھانے اور لاغر ہونے اور دبلا پن سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّهْوَلِ وَالذُّهْلَةِ وَالذُّهْوَلَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّنَكِ

اور پناہ حاصل کرتا ہوں بھول و نسیان اور غفلت سے۔ اور میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری ذات کے ساتھ سے

وَالشَّنَكِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَرْقِ وَالْحَرِيقِ وَالْحَرَّاقِ

پھانسی دئے جانے سے اور سولی پر لٹکائے ہوئے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں جلنے سے اور آگ سے اور جلانے والے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّلِقِ وَالذَّلِيقِ وَالذَّهْقِ وَالذَّهْقِ اللَّهُمَّ

سے اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں زبان کی تیزی اور تیز زبان سے اور مٹنے اور نیست و نابود ہونے سے۔ اے اللہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ أَسْمَائِكَ

صدرا و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنے اسماء حسنی

الْحُسْنَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُرْمِ وَالْغُرْمِ وَالْهَزَامِ اللَّهُمَّ

کے مطابق۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں تاوان و قرض اور شکست سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّيْمِ وَاللِّيَامِ وَالْخَيْمِ وَالْخِيَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کینے اور کینگی سے اور بزولی اور ضعف طبیعت سے۔ اے اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّزَاءِ وَالنِّزَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّكْلِ وَالتَّكَالِ وَ

تیری پناہ طلب کرتا ہوں اچھلنے کودنے اور شہوت رانی سے۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے مضبوطی سے عزت ناک

التَّكُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذَّفْرِ وَالْأَذْفِرِ وَأَعُوذُ بِكَ

سزا اور بزولی و پسائی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بدبوداری اور بدبودار سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنَ الْغَشَاءِ وَالْغَشِّ وَالْغَشْيَانِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ وَ

حجاب و پردہ اور دھوکہ بازی اور بے ہوشی سے اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں مکر اور مکار سے۔ اور

الْكَيْدِ وَالْكَيْدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعُنَيْدِ وَالْعُنَادِ وَأَعُوذُ

دھوکہ اور دھوکا باز سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں صاحب عناد اور عناد سے اور میں تیری پناہ

بِكَ مِنَ الْخَشْمِ وَتَخَشُّمِ وَالشَّمِّ وَالشَّمْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

حاصل کرتا ہوں غصہ اور غصہ میں سختی سے اور بڑائی اور پراگندگی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

مِنَ الْكُتْمِ وَالْكَتْمِ وَالْعُدَمِ وَالْتَعْدَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّسْمِ

(حق کو چھپانے اور حق پوشی کی سہمی سے۔ ممدوم ہونے سے اور اس کی سہمی سے۔ اور پناہ حاصل کرتا ہوں منزل کی بربادی

وَالرَّسْمِ وَالْخَصْمِ وَالتَّخْصِمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّوْصِ وَالشَّيْصِ

اور برباد منزل کو دیکھنے سے اور جھگڑالو سے اور جھگڑانے سے اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں بھڑکتے شر سے اور ناکارہ ہونے

وَالشَّقِيقِصِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّطِّ وَالشَّحِطِ وَالشَّحُوطِ وَالشَّطَاوِ

سے اور شرکت سے۔ اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ظلم اور آلودگی اور ایذا رسانی اور دوری سے

الشَّطَطِ وَالشَّبِطِ وَالشَّاطِطِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّبَدَاعِ

تندی اور اختلاط اور گروہ بندی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بچھو سے

وَالشَّتَعِ وَالشَّفَعِ وَالشَّقِعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّمْعِ شِعَاعًا شَمُوعًا شَمَعًا

اور بے صبری سے۔ اور (برے) جفت سے اور پانی میں گرنے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں لہو و لعاب اور

الشَّيْءُ مُشْمَعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُرُورِ وَالزُّرُورِ وَالْفُجُورِ

مزاح اور اختلاط سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں دھوکہ کھانے، تھوٹا ہونے اور بدکاری سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغِبَاوَةِ وَالْغَيْبِ وَالْبَغَاوَةِ وَالْبَغْيِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عبادت اور غی سے اور بغاوت و حسد سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب

بِكَ مِنَ الدَّمِّ وَالذَّمِّ وَالذَّمَامِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّمِّ وَالنَّمَامِ

کرتا ہوں مذمت اور مذموم سے اور میری عادات سے۔ اور پناہ حاصل کرتا ہوں چنل نحوی اور چنل نحور سے

وَالنُّمُومِ وَالنَّمِيمِ وَالنَّمَائِمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَضِ وَ

اور چنلی کھانے۔ چنلی کھانے والے اور چنلیوں سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں نشانہ بننے سے اور

الْمَرَضِ وَالْقَرَضِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّابِّ وَالذَّابِّ وَالذُّوْبِ وَالذُّوَابِ

مرض و قرض سے۔ اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں لاندے جانے سے اور لاندے والے سے اور چھنے سے

وَالذَّنْبِ وَالذُّنُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّوْاجِرِ وَالْفَوَاجِرِ

اور گناہ اور آثام سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جھڑکنے والوں اور گناہگاروں سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَذْرِ وَالْمَجْدُورِ وَالْغَدْرِ وَالْغَدَّارِ اللَّهُمَّ

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کٹنے سے اور کاٹے ہوئے سے اور عمد شکنی اور عمد شکن سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَخَةِ وَالْخَخَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّرْبَالِ وَالظَّرْبَالِ

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں دھنکار سے اور دھنکارے جانے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں (جہنمی) لباس اور بلند پہاڑ سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُمَةِ وَالطَّمَعِ وَالصَّلَعِ وَالْأَصْلَعِ وَأَعُوذُ بِكَ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں چوری اور طمع سے اور گھنے پن سے اور تیرے پناہ طلب کرتا ہوں



مِنَ الشَّنِيعِ وَالشَّنَائِعِ وَالذَّرِيعِ وَالذَّرَائِعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

تیمح اور قباحتوں سے اور سفارش سے اور وسائل و ذرائع سے - اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

مِنَ الشُّنُوعِ وَالشُّنَاعَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالسَّمَاوَاتِ

عیب لگانے اور عیب دار ہونے سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں بد اندیشوں سے اور ان کی خوشی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَدْ سَأَاحْسَانِكَ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتِكَ إِلَيْهِ وَ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما محمد کریم پر مطابق اپنے احسانات اور برکات کے ان پر اور

قَدْ رَحَلَاوَةٌ ذِكْرِكَ وَمَزِيدُ شُكْرِكَ وَسُرْعَةُ بَطْشِكَ وَقَدْ رَمَعْرِفَتِهِ

مطابق اپنے ذکر کی جلالت اور مزید شکر کے اور نیز گرفت کے اور مطابق ان کی معرفت کے ساتھ

بِحَقِيْقَتِهِ حَقِّكَ وَتَخْلُقُهُ بِخَلْقِكَ وَشَفَقْتِهِ عَلَى جَمِيْعِ خَلْقِكَ وَ

تیرے حق کی حقانیت کے اور ان کے مخلق ہونے کے ساتھ تیرے اخلاق کے اور ان کی شفقت کے اور تیری تمام مخلوق

اِحْسَانِكَ لِحَلْقِكَ وَقَدْ رَأَىٰ لِحَقِّكَ وَقَدْ رَعُوْ جَلَالَتِهِ

کے اور تیرے احسان کے اپنی مخلوق پر اور مطابق ادا کرنے ان کے تیرے حق کو اور مطابق ان کی جلالت

وَمَهَابَتِهِ وَخَطُوْتِهِ لَدَيْكَ وَمَكَانَتِهِ وَثَوَابِ نُبُوْتِهِ وَأَجُوْر

و عالی مرتبت اور ہیبت کے اور اقبال مندی کے اور مرتبہ کے اور ثواب نبوت اور اجر ہائے

رِسَالَتِهِ وَعِزَّتِهِ عَلَيْكَ وَدَلَالَتِهِ وَخُلُوْصِ مَحَبَّتِهِ وَسُمُوْ

رسالت کے اور تیرے ہاں حرمت اور تیری طرف رہنمائی کے اور خلوص محبت ، بندی

رَفْعَتِهِ وَجَزِيْلِ ثَوَابِهِ وَحُصُوْلِ اَسْبَابِهِ وَجَمِيْلِ طَرِيْقَتِهِ

ورفعت اور عظیم ثواب اور اس کے جملہ اسباب کے حصول کے مطابق اور ان کے جمیل طریقہ

وَضِيَاءِ شَرِيْعَتِهِ وَانْفِجَارِ اَنْوَارِهِ وَظُهُوْرِ اَسْرَارِهِ وَارْتِفَاعِ

روشن شریعت - جاری و ساری انوار اور ظاہر و باہر اسرار اور رفیع

مَقَامِهِ وَنُقُوْدِ اَحْكَامِهِ وَتَبْلِيْغِهِ وَاَعْلَامِهِ وَعُلُوْهِمَّتِهِ وَ

مقام - ناقذ احکام اور تبلیغ رسالت اور اعلام و تعلیم ، عالی ہمتی اور



مَحَبَّتِهِ لِأُمَّتِهِ وَقَدَّرَ شَرَفَهُ فِي الدَّارَيْنِ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ

اُمت سے محبت اور دارین میں شرف اور تمام

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَدَّرَ عَقْلَهُ الرَّاجِحِ وَقَدَّرَ شُغْلَهُ بِاللَّهِ وَ

انبیاء و مرسلین پر فضیلت کے مطابق ان کے مذنی عقل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی لگاؤ،

قِيَامِهِ لِلَّهِ وَرَجَائِهِ فِي اللَّهِ وَحَيَاتِهِ مِنَ اللَّهِ وَقَدَّرَ رَجَاهُ

اللہ کے لیے قیام اور اس سے رجاء و امید اور شرم و حیا اور ان کے جاہ و مرتبت والا

السَّامِيُّ وَعَزَّجَنَابَهُ الْحَامِيَّ وَقَدَّرَ إِقْتِدَارَكَ عَلَى مَا خَلَقْتَ وَ

اور بارگاہ حفظ و نگہداشت کی عزت اور مخلوقات پر اقتدار کے مطابق، اپنی مخلوقات پر

قِيَامِكَ عَلَى مَا كَوْنَتْ وَنَهَيْتَ وَأَمَرْتَ وَإِحَاطَتِكَ بِمَا قَضَيْتَ

کنٹرول اور امر و نہی کے مطابق اور اپنے احاطہ کے ساتھ اپنی قضاء

وَحَفِظْتَ وَسَتَرْتَ وَمَا خَلَقْتَ وَأَحْيَيْتَ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ فَلَا

اور حفاظت و ستر کے اور پیدا فرمانے اور زندہ فرمانے کے مطابق اے سب غیب کے عالم جس کی

يَفُوتُ شَيْءٌ مِّنْ حِفْظِهِ عَلَيَّ بِتَعْلِيمَاتٍ لَّدُنِّيَّةٍ مُطَابِقَةٍ

حفاظت سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ مجھے تعلیم دے ان لدنی تعلیمات کے ساتھ جو مطابق ہیں

لِمَا فِي غَيْبِكَ وَسِرِّكَ مِنْ مَّوْضُوعَاتِكَ الْمَطْلُوقَةِ وَأَصْطِلَاحَاتِ

تیرے غیب و اسرار کے تیرے موضوعات مطلقہ اور اصطلاحات

الْكَلِمَةِ الْمَرْبُوطَةِ بِهَا مَثَلَاتٌ وَجُزْئِيَّاتٌ شَوَاهِدَاتٌ تَقَرَّرَتْ

کلمہ سے جن کے ساتھ متعلق ہیں مثالیں اور جزئیات مشاہدہ جو قرار پذیر ہیں

فِي أَذْهَانِ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ مِنَ الْيَقِينَاتِ الصَّادِقَةِ عَلَيْهَا

تیرے مخلص بندوں کے ذہنوں میں جن پر اول و آخر یقینات

أَوْلَا وَأَخْرَأَ مَنْ حَيْثُ إِسْمَاهِي فَأَجْعَلْهَا لِعَبْدِكَ الدَّلِيلَ

صادق آتی ہیں باعتبار ان کی ذاتی حیثیت کے لہذا اپنے اس عبد حقیر کے لیے

بِالْفِعْلِ مَلَكَهَ الْإِنصَافُ وَالْإِتِّصَالُ بِمُقَدَّمَاتِ أَوْلِيَّهِ ثُمَّ

پیدا فرما ملکہ و استعداد انصاف و اتصال کا ساتھ مقدمات اولیہ کے پھر

مَشْهُورَاتٍ مُّسَلَّمَاتٍ بِحَيْثُ تَحْصُلُ لَنَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى

مشہورات و مسلمات کے اس انداز سے کہ حاصل ہو جائیں ہمیں بغیر کسی توقف کے اور

شَرْطٍ أَوْ عِلَّةٍ بَلْ اجْعَلْ جَوْهَرِيٌّ وَنَفْسِي النَّاطِقَةُ مَتَّبِعٌ مُّجَوِّدٌ

کسی شرط یا علت کے بلکہ بنا دے میرے جوہر ذات اور نفس ناطقہ کو سرچشمہ غیبی علوم کے

الْعُلُومِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي الْبَسْتَهَا بِهَا وَعَلَّمْتَنَا بِتَكْيِيفِ الْخَارِجِ

سمندروں کا جن کو تو نے اس کا لباس بنایا اور ہمیں ان کے خارج کی کیفیات کی تعلیم دی

لِلرُّشَادِ الْمُرْشِدِينَ الْمُسْتَرِشِدِينَ بِإِطْلَاقِهَا حَيْثُ شِئْتَ ثُمَّ

بسبب بھیجے مرشدین و مسترشدین کو ان کے اطلاق کی رہنمائی کیلئے اپنی مشیت کے مطابق پھر

فَهَمَّنِي مَا فِي ذَاتِكَ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ عُلُومٌ غَيْبِيَّةٌ مُّطْلَقَةٌ

مجھے ہم عطا فرما اپنی ذات میں موجود علوم کا جو علوم غیبیہ مطلقہ

لَمْ تَنْتَقِشْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَحْفُوظًا فِي قَلْبِ هَذَا الْعَبْدِ

روح محفوظ میں بھی نقش پذیر نہیں ہوئے در آنجا یکہ محفوظ ہوں اس عبد کے دل

وَفِي خَزَانَةِ الْحِسِّ مُتَصَرِّفًا تَفْصِيلًا جُزْئِيًّا حَيْثُ شَاءَ مِنْ غَيْرِ

اور خزانہ حس میں، تصرف کرنے والا ہوں ان میں ہر جزئی کے اندر مفصل طور پر جہاں چاہے بغیر کسی

فَأَيْتٍ وَلَا مَنَسِيٍّ بِحَيْثُ إِذَا كُرِّرَتْ عَادَتْ وَاسْتَحْضَرْتُ حَتَّى

کے ہاتھ سے نکلنے اور بھولنے کے جب بھی ان کا تکرار کیا جائے ذہن میں لوٹ آئیں اور مستحضر ہو جائیں حتیٰ کہ

نُسِّلَهَا فِي طَرِيقِ شَفِيهِمَةِ قَلِيلَةَ الْحُرُوفِ وَكَثِيرَةَ الْمَعَانِي بِحَيْثُ

ہم انہیں جاری کر سکیں مختصر طریقہ پر تخیل الحروف اور کثیر المعانی کلمات میں اس انداز سے

نُدِيرُهَا مِنْ كُلِّ وَضْعٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَتِمَّ كُلُّ بَيْتٍ مِّنْ

کہ پھیری ہم اس کو ہر وضع سے ایک حرف پر حتیٰ کہ تمام ہو جائے ہر بیت



الْأَدَبِيَّةِ الدَّلِيلَةِ ثُمَّ الشَّرْعِيَّةِ الدِّيْنِيَّةِ يَا خَالِقَ الْأَنْطَاقِ وَالْكَلِمَاتِ

علوم ادبیہ آلیہ سے اور شرعیہ دینیہ سے۔ لے پیدا کرنے والے تعلق اور کلمات کے

فِي الْمَخَارِجِ وَالْمَفْهُومَاتِ مَعَ رَعَايَاتِ الْقَوَائِمِ فِي الْقُلُوبِ وَكُونَهَا

مخارج میں مع رعایت قوانین کے اور مفہومات و معانی کے قلوب میں۔ اور انہیں پیدا فرما

فِي قَلْبِي وَارْكُزْهَا فِي نَفْسِي مُوصِلَةً إِلَى تَصْدِيقَاتِ قَلْبِيَّةٍ وَتَصَوُّرَاتِ

میرے دل میں اور مرکوز فرما میرے نفس میں در آنحالیکہ وہ پہنچانے والے ہوں ملکی تصدیقات اور ملکی

فَلَکِيَّةٍ وَقَضَايَا عَرْشِيَّةٍ وَيَدَايِعَ زُبْرِيَّةٍ حَتَّى اسْتَغْنِي مِنْ غَيْرِكَ

تصویرات تک اور عرشی قضا یا تک اور کتابوں کے انوکھے اسرار تک یہاں تک کہ میں مستغنی ہو جاؤں تیرے

سَوَى الْهَامِكِ ثُمَّ خَصَّصْنِي بِعُلُومِ أَوْدَعْتَهَا فِي قَلْبِ خَيْرِ الْكَائِنَاتِ

الہام کے علاوہ ہر ماسوا سے پھر مجھے مخصوص بھرا ان علوم کے ساتھ جو تو نے دروہیت فرمائے سید کائنات

وَأَبِ الْأَرْوَاحِ الَّذِي نَحْنُ مِنْ أُمَّتِهِ وَأَوْقَفْنِي عَلَى إِزَالَةِ مَوَانِعِ

اور ابوالارواح کے قلب نور میں جن کی ہم اُمت ہیں۔ اور مجھے مطلع فرما ان کی راہوں کے موانع

طُرُقَهَا وَحَوَادِثِ دَهْرِهَا وَجَوَابِ اسْرَارِهَا الْهَيُّ أَنْتَ الْقَادِرُ

کے ازالہ پر اور حوادثِ دہر اور ان کے اسرار کی کشش والے امور پر۔ لے اللہ تو ہی قادر ہے

عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْمُعَدِّينَ لِنُزُولِكَ وَالْمُؤَقِّقِينَ بِأَنْفَالَاتِ

اس پر کہ بنائے مجھے اس کی صلاحیت و استعداد اور توفیق والوں سے اپنی نجات بخت کے

لَاهُوتِكَ وَرَأَى مُحَدِّدِ الْجِهَاتِ فَلكِ الْاَفْلَاقِ نَاطِرًا مُصَدِّقًا

عطیات سے جو ماوراء ہیں محدود جہات و فلک الافلاک سے در آنحالیکہ میں دیکھنے والا تصدیق کرنے والا ہوں

حِينَ التَّصَرُّفَاتِ بِتَصَرُّفَاتِكَ إِلَى تَفَكُّرَاتِكَ وَاجْعَلِ الْاَجُودَ

تصرفات کے وقت ساتھ تیرے تصرفات کے بمع تفکرات کے اور مسخر فرما دے عمدہ

التَّعَالَةَ الْعَلَامَةَ الْفَطَاةَ مَسْحَرَةً لِفَقِيرِكَ وَعَبْدِكَ الْحَقِيرِ

نعل بند امتیازی نشان والا تیز رفتار گھوڑا اپنے فقیر اور عبد حقیر کے لیے



وَتَلَطَّفَ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهَامَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ مَنَاعَةً حَرَاقَةً

اور مجھ پر لطف و کرم فرما مختلف اقسام کے الہامات اور خوارق عادات کے ساتھ در آنجا لیکہ وہ

لَهُمُومٌ أَعْدَاءُ الْأَخْلَاقِ وَعَلَى الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَيْكَ بِحُسْنِ النَّيَاتِ

روکنے اور بلانے والے ہوں اخلاق کے دشمنوں کے ارادوں کو اور ان پر جو متوجہ ہیں تیری طرف نیک نیتوں کیساتھ

كِسَارَةٌ لِمُقَدَّمَاتِ الْمُتَعَلِّبِينَ فِي الْجَلَالِ بِالْقَيْلِ وَالْقَالِ وَلَا

در آنجا لیکہ توڑنے والے ہوں بند بوجہ قیل و قال کے جلال میں غلبہ پانے والوں کے مقدمات کو اور مجھے

تَوْفِيقِي فِي تَحْصِيلِهَا عَلَى اتِّقَانِ الْمُتَمَوِّنِ الْمَدَوِّنَةِ وَالصُّحُفِ

تو توفیق دے ان کے حاصل کرنے میں تصنیف شدہ متون اور قوم اور

الْمُنْشَرَةِ فِي الْقَوْمِ وَعُلَمَاءِ الظَّاهِرَةِ بَلْ اجْعَلِ الْمَدَوِّنَاتِ كُلَّهَا

علامہ ظاہر میں پھیلے ہوئے صحیفوں پر اعتماد اور بھروسہ کی اور ان تمام تصنیفات کو بنا دے

مُمَيِّزَةً بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي الْقُوَى الرُّوحِيَّةِ الْجَوْهَرِيَّةِ مَحْفُوظَةً

در آنجا لیکہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہوں محفوظ مفصل

مُفَصَّلَةً أَمِينِ بِلِسَانِ كُلِّ مَلِكٍ وَإِنْسٍ وَجِنِّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ

طور پر میرے قوائے روحیہ جو ہر یہ میں آئینہ ساتھ زبان ہر زبانتہ اور انسان و جن کے ہر آن میں

عِنْدَ كُلِّ حَرَكَةٍ مَلَكِيَّةٍ وَحَيَوَانِيَّةٍ وَعِنْدَ تَسْبِيحِ كُلِّ كَوْنٍ هُوَ

وقت ہر حرکت ملکی اور حیوانی کے اور وقت تسبیح ہر موجود کے

يَا قَرِيبَ الْمُتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلُوًّا رُتَفَاعَهُ قَرِيبِي إِلَيْكَ

اے قریب کہ بلند تر ہے ہر شئی پر اس کا علو رفعت سمجھے اپنا مقرب بنا

بِالْمَلَا أَعْلَى حَتَّى أَسْمَعَ بِالْمَلَا حَطَاتِ الرُّوحِيَّةِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ

ملاء اعلیٰ میں حتیٰ کہ میں سن لوں روحانی ملاحظات کو اس انداز سے کہ اخذ کرے

مِنْهَا قَلْبِي لِنُوقِ الْأَسْرَابِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَ مَرْكَزِ الْأَحْدِيَّةِ

ان سے میرا دل واسطے اہمیت پیدا کرنے ان امرا کی جو دائرہ ہیں مرکز احدیت کے گرد اس





بِحَيْثُ يُوَافِقُهَا كُلُّ قُطْبٍ مِّنَ الْبُرُوجِ وَالْأَقَالِيمِ ثُمَّ قَرَّبَنِي

انداز سے کہ موافق ہے ان کے ہر قطب بروج و اقالیم کا پھر مجھے قریب فرما

إِلَى مَقَامِ شَوَاهِدِ الطَّلَعَاتِ وَالشُّجَاعَاتِ الْفَائِضَةِ مِنَ الْأَنْوَارِ

طرف مقام مشاہدات و اطلاعات کے اور شجاعات کے جو تالغن ہونے والے ہیں انوار

الْعَالِيَةِ الْفَائِئِقَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ حَيْثُ الْغَلْبَةِ وَالْقُدْرَةِ

عالیہ سے جو فائق ہیں ہر شئی پر از روئے غلبہ اور قدرت کے واسطے

لِتَجَلِّيَهَا بِالنُّعُوتِ الْجَلَالِيَّةِ فِي صَحَارِي الْكَمَالِيَّةِ مِنَ الذَّوَاتِ

جلوہ گر ہونے ان کے ساتھ جلالی صفات کے کماہیت کے صحراؤں میں

الْجَمَالِيَّةِ الْمُعْتَدَلَةِ غَيْرِ الْهَالِكَةِ مِنْ صُنَابِرِهِ وَقَرَّبَنِي يَوْمَ

جمالی ذاتوں سے جو معتدل ہیں اور ہلاک ہونے والی نہیں ہیں سخت سردیوں سے۔ اور قریب فرماتا

الْعَبُوسِ إِلَى صِفِّ فِيهِ الْمَقْدَرُونَ مِنَ الْأُمَّةِ وَارْفَعَنِي بِالْكَلَامِ الرَّفِيعِ

مجھے سخت دن میں طرف اس صنف کے جس میں امت کے مقربین ہوں۔ اور مجھے رفعت بخش بلند مرتبت کلام کیساتھ

الْخَارِجِ مِنْ فِي بَيْنِ الْأُمَّةِ حَتَّى أَتَشَخَّصَ بِالْفِكْرِ الْجَلِيِّ الْغَيْرِ

جو نکلنے والی ہو میرے منہ سے ائمہ کے درمیان حتی کہ میں تشخص ہو جاؤں فکر جلی کے ساتھ

الْمَغْلُوبِ بِالْإِنْذَارِ فِي عَيْنِ التَّصَدُّرِ وَالْمَسَابِقَةِ بِالْقَدْرِ فِيمَا يَفْقَدُ

جو مغلوب نہیں ہے ساتھ انداز کے صدارت پر فائز ہونے اور سبقت لے جانے کے دوران ساتھ تقدیر الہی کے مفقود

مِنْ حُلُولِ النَّقِیْضَاتِ مِنْ دَفَاتِرِ الرَّخْصَاتِ الْمَتَرَسَّلَاتِ مِنْ

ہونے والے امور میں یعنی نقیضات کا اتنا رخصتوں کے دفاتر سے جو ارسال کئے ہوئے ہیں

الْأُمَّ الْأَكْبَرِ مُحَاذِيَةً فِي عُلُوِّ نَفْسِي بَعَيْنِ أَحْكَامِهَا مَعَاوِدًا أَوْ مُرْجِعًا

ام اکبر کی طرف سے جو محاذی ہیں اپنے خصوصی احکام کے ساتھ میرے نفس کی بلندی کے وقت آمد و رفت کے دوران

مَعَ بَقَاءِ الْإِرْتِفَاعِ مِنَ الْأُسْطَقْصَاتِ اللَّهُمَّ هَذِهِ الْقُدْرَةُ مِنْكَ

مع بقاء ارتفاع کے از جانب عناصر۔ اے اللہ یہ قدرت صرف تیری ہی ہے

وَأَنَا مِنْ عِبَادِكَ وَتَرْفَعُ مَنْ تَشَاءُ وَتَخْفِضُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْمُتَعَالَى

اور میں تیرے بندوں میں سے ہوں اور تو جس کو چاہے بلند فرمائے اور جس کو چاہے پست کرے اور تو ہی انتہائی علو و مرتبت

الْعُلُوِّ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُهُ عَمَّنْ تَشَاءُ وَعِنْدَكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

دینے والا ہے جس کو چاہے اور سلب کر لیتا ہے جس سے چاہے اور تیرے پاس ہی خیر ہے اور تو ہی ہر

شَيْءٍ شَهِيدٌ الْهَذَا نُورٌ نَابُورٌ كُ وَخَلَصْنَا عَنِ الظُّلْمَةِ حَتَّى لَا

شئی پر مطلع ہے۔ اے ہمارے اللہ ہمیں منور فرما اپنے نور خاص سے اور چھٹکارا دے تاریکی سے یہاں تک کہ

يَبْقَى فِينَا شَائِبَةٌ الْعُصْيَانِ فَإِنَّ الْعُصْيَانَ مِتْنَا وَالْعُقُومُنَا وَ

ہم میں نافرمان برداری کا شائبہ بھی نہ رہے کیونکہ نافرمانی ہماری طرف سے ہے اور عفو تیری طرف سے اور

إِنَّكَ مَحْضُ النُّورِ وَنَحْنُ مَحْضُ الظُّلْمَةِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِّنْ

تو محض نور ہے اور ہم محض ظلمت ہیں، مخلوق میں سے کوئی شئی اس کی ہم پیلہ

خَلْقِهِ اللَّهُ اشْغَلْنَا بِكَ وَهَبْ لَنَا هِبَةً لَا سَعَةَ فِيهَا لِنُغَيِّرَكَ وَلَا

نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات میں مستغرق فرما اور ہمیں عطا فرما وہ عطیہ جس میں تیرے خیر کی گنجائش نہ ہو

مَدْخَلَ فِيهَا لِسِوَاكَ وَأَسْعَةٌ بِالْعُلُومِ إِلَّا لِهَيْبَةٍ وَالصِّفَاتِ

اور نہ ماسوا کے لیے دخل جو محیط ہو علوم الہیہ صفات

الرَّبَّانِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ الْمَحْمَدِيَّةِ وَقَوِّعَقَائِدَنَا بِحُسْنِ الظَّنِّ الْجَمِيلِ

ربانیہ اور اخلاق محمدیہ کو اور مضبوط فرما ہمارے عقائد کو ساتھ ظن جمیل و حسین

وَحَقِّ الْيَقِينِ وَحَقِيقَةِ التَّمَكِينِ وَسِدِّدْ أحوَالَنا بِالتَّوْفِيقِ وَ

اور حق یقین اور حقیقت تمکین کے اور مضبوط فرما ہمارے احوال کو اپنی توفیق اور

السَّعَايَةِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ وَسِدِّدْ عَقَائِدَنَا عَلَى صِرَاطِ الْإِسْتِقَامَةِ

ہماری سعی اور حسن یقین کے اور پائیدار بنا ہمارے عقائد کو راہ استقامت پر

وَقَوِّعِدْنَا عَلَى الْغُرِّ الرَّضِيِّينَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنْ

اور ہماری بنیادوں کو نورانیوں اور پسندیدہ لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی



التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَشَيْدُ مَقَاصِدِنَا فِي

انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور مضبوط فرما ہمارے مقاصد کو

الْمَجْدِ الْأَثْبَلِ عَلَى أَعْلَى ذُرُورَةِ الْكِرَامَةِ وَعَزَائِمِ أَوْلِي الْعُزْمِ مِنْ

پائیدار بزرگی میں کرامت کے اعلیٰ مقام پر اور اولوالعزم رسولوں کے

الْمُرْسَلِينَ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اِغْتِنَا

عزائم پر لے فریادریں کے فریادرس اور مدد طلب کرنے والوں کے مددگار ہماری امداد فرما

بِأَطْفَانِ رَحْمَتِكَ مِنْ ضَلَالِ الْبُعْدِ وَأَشْمِلْنَا بِنَفْحَاتِ عَنَائِكَ

اپنے الطاف رحمت کے ساتھ دوری والی گمراہی سے اور ہمارا احاطہ فرما اپنی عنایت کے عطیات کے ساتھ

فِي مَصَارِعِ الْحُبِّ وَأَسْعِفْنَا بِأَنْوَارِ هِدَايَتِكَ فِي حَضَائِرِ الْقُرْبِ

محبت کی قتل گاہوں میں اور ہماری امداد فرما اپنے انوار ہدایت کے ساتھ اپنی بارگاہے قرب میں

وَأَيَّدْنَا بِنُصْرِكَ الْعَزِيزِ نَصْرًا مُؤَيَّدًا بِالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بِفَضْلِكَ

اور تائید فرما اپنی غالب نصرت کے ساتھ جو تقویت یافتہ ہو قرآن مجید کے ساتھ بظہیل اپنے فضل و

وَرَحْمَتِكَ بِوَسْعَةِ سَعَةِ مَغْفِرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

رحمت کے بوسیدہ اپنی وسیع تر مغفرت کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَعِمَلِهِ الصَّالِحِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے عمل صالح کے مطابق - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَى النَّاجِحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کی کامیاب رائے کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے ذکر الہی

ذَكَرَهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ شَوْقِهِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر ان کے شوق الہی کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ وَتَوْقِهِ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور آپ کی آل اطہار پر ان کے اللہ پر توفیق اور بحیرہ و سہ کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے توکل کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ جَاهِهِ وَعِلَاهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کی عز و جاہ اور برتری کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کی عزت

كَرَامَتِهِ عَلَي مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

و کرامت کے اپنے مولیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ لَطْفِ اللَّهِ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

کی آل پر مطابق اللہ کے لطف و کرم کے ان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَخْصِيصِ اللَّهِ إِيَّاهُ بِحُبِّهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق مخصوص ٹھہرانے اللہ تعالیٰ کے انہیں اپنی محبت و

قُرْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قرب کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْرَ قِيَامِهِ بِالْعِبَادِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مطابق ان کے قیام کے ساتھ عبودیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ إِعْتِنَائِهِ بِحَقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر مطابق ان کے اہتمام کے ساتھ حقوق ربوبیت کے۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عَظَمَتِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کی عظمت کے

فِي الدَّارَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

دارین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ عُلُوِّهِ فِي قَابِ قَوْسَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر مطابق ان کی بلندی کے قاب قوسین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ مَقَامِهِ فِي عِلِّيِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کے مرتبہ و مقام کے علیین میں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ حُلُوْلِهِ بِقَابِ

و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کے نزول کے قاب

قَوْسَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

قوسین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ قَدْرَ ضِيَاءِ نُورِهِ وَاِشْرَاقِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

مطابق ان کے نور کی ضیاء اور چمک کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ كَرِيْمِ اَخْلَاقِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے اخلاق کریمہ کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ طِيْبِ اَعْرَاقِهِ

سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے اصول کی پاکیزگی کے مطابق

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

قَدْرَ شِيْمَةِ الطَّاهِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ان کی پاکیزہ محصلتوں کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ حَيْمِهِ الظَّاهِرَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر ان کی ظاہر و باہر حکمتوں کے مطابق اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عُلُوْمِهِ الدَّاخِرَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے وسیع علوم کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ طَاعَتِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کی اطاعت کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ مُجَاهَدَاتِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کے مجاہدہ کے مطابق

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَوَكُّلِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے توکل

عَلٰى اللّٰهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

علی اللہ کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ قَدْرَ خَوْفِهِ مِنَ اللّٰهِ وَمُرَاقَبَتِهِ بِاللّٰهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

مطابق ان کے خوف خداوندی اور اللہ تعالیٰ پر نظر کرنے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عَظَمَتِكَ الَّتِي قَاصِرَةٌ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی عظمت کے کہ قاصر ہیں

اِحَاطَتِهَا الْبَصَائِرُ وَالْخِيَالُ اللّٰهُمَّ ذَهَبَتِ الْعُقُولُ وَانْحَصَرَتْ

اس کے احاطہ سے بصیرتیں اور خیالات - اے اللہ غافل ہو گئے عقل اور محدود ہو گئیں

الْاَبْصَارُ وَحَارَتِ الْاَوْهَامُ وَضَاقَتْ الْاَفْهَامُ وَبَعَدَتْ الْخَوَاطِرُ

نگاہیں اور حیرت زدہ ہو گئے اوہام اور تنگ ہو گئے افہام اور بعید ہو گئے خیالات

وَقَصُرَتْ الظُّنُونُ عَنْ اِدْرَاكِ كُنْهِ كَيْفِيَّةِ ذَاتِكَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ

اور قاصر ہو گئے ظنون تیری کیفیت ذات کے ادراک حقیقت سے اور جو ظہور پذیر ہوا



بَوَادِي عَجَائِبِ أَنْوَاعِ أَصْنَافِ قُدْرَتِكَ دُونَ الْبُلُوغِ إِلَى

تیری قدرت کے انواع و اصناف کے نمایاں عجائبات سے بغیر رسائی حاصل کرنے

تِلَاوَةِ لَمَعَاتِ لَمَحَاتِ بَرُوقِ شُرُوقِ أَسْمَائِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

تیرے اسماء کی چمک و دمک کے انوار اور جلووں کی جھلک تک۔ اے اللہ۔ اے میرے رب

إِفْعَلْ بِي وَبِرَبِّمْ عَاجِلًا وَاجْلًا فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ

سلوک فرما ساتھ میرے اور ان کے دین اور دنیا و آخرت میں توری اور تانہیر سے جس سلوک کے تو

لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

لائق سے اور نہ فرما ساتھ ہمارے اے مولیٰ جس سلوک کے ہم لائق ہیں بے شک تو غفور و حلیم

جَوَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ سَرُورٌ وَرَحِيمٌ اللَّهُمَّ يَا مُونِسِي فِي

صاحب جود، اے ابتداء۔ کریم، شہنشاہ، محسن، رؤف و رحیم ہے۔ اے اللہ۔ اے میری تنہائی

وَحُدَّتِي وَيَا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي وَيَا عَظِيمَ الْخَطَرِ وَيَا إِلَهَ الْبَشَرِ

کے مونس اور سختی میں میرا ساتھ دینے والے۔ اے عظیم عظمت والے۔ اے بشر کے معبود برحق

أَدْرِكُنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ اللَّهُمَّ يَا مَنْ تَعَالَيْتَ عَنْ وَسْمَةِ

میرا احاطہ فرما اپنے لطف خفی کے ساتھ۔ اے اللہ۔ اے کہ بالاتر ہے نقص و زوال والے

النَّقْصِ وَالزُّوَالِ وَتَقَدَّسَتْ بِشَيْبَةِ الْعِظْمَةِ وَالْجَلَالِ وَتَنَزَّهَتْ

عیب سے اور مقدس ہے عظمت و جلال کی نخصت کے ساتھ اور منزہ ہے

عَنْ إِدْرَاكِ الْأَوْهَامِ وَالْخِيَالِ وَتَفَرَّدَتْ بِجِيَادِ الْجَلَالِ وَالْفِضَالِ

اوہام و خیالات کے احاطہ سے اور منفرد ہے عمدہ نخصتوں اور فضیلتوں کے ساتھ

نَسَأُكَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْنَا زَوَارِفَ الْعَوَارِفِ بِفَضْلِكَ الْمُتَعَالِ

ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر فیضان فرمائے عطیات کی بارشوں کا اپنے بلند تر فضل کے طفیل

وَتُلْهِمَ حَقَائِقَ الْمَعَارِفِ بِجَزَائِلِ التَّوَالِ وَتُرَشِّحَ مِنْ

اور الہام فرمائے عرفانی حقائق کا عظیم ترین جو دو توال کے ساتھ اور چھڑ کے مشہود



شَابِيبِ الشُّهُودِ مِلًّا السَّجَالِ وَتَجُودٍ مِنْ بَحَارِ التَّوْحِيدِ كُؤُسِ

کی بارشوں سے - بھرپور ڈول - اور جود و کرم فرمائے توحید کے سمندروں سے جامائے

الْوَصَالِ وَتَرْفَعْنَا مِنْ حَضِيضِ التَّدَلُّسِ إِلَى ذُرُورَةِ اللِّقَاءِ الْكِبَالِ

وصل کے ساتھ اور بلند فرمائے ہیں آلودگی کی پستی سے کمال لقاء کی بندی کی طرف

وَتَبْلَغْنَا إِلَى نَيْلِ بَقَاءِ لَا يَزَالُ وَتُكْرِمُنَا بِصَلَاةٍ مَدَارِجِ قَنَاءِ الْمَطْلُوقِ

اور پہنچائے ہیں ایسی بقا کے حصول تک جو لازوال ہو اور عزت بخشے ہمیں قناء مطلق کے مدارج اور

وَالْخِصَالِ بِوَجَاهَةِ مَنْ لَوْلَاهُ لَمَا كُنْصِينَا كِسَاءَ التَّكْيِيسِ وَالْمِثَالِ عَلَيْهِ

نحصال خیر کے وصول کے ساتھ بطفیل آبر و مندی اس محبوب کے کہ وہ موجود نہ ہوتے تو ہمیں لباس وجود اور تعین نہ پہنایا جاتا

صَلَوَاتُ اللَّهِ أَنْ تُرِيدُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَاةِ وَالرَّمَالِ وَعَلَى إِلَهٍ وَصِحْبَةٍ

ان پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہوں کنکریوں اور ذرات ربیک کی تعداد سے بھی زیادہ اور ان کی آل و اصحاب پر

أُولَى الشَّرَفِ وَالْجَمَالِ يَا فَاطِرَ الْجَبْرُوتِ مِلْكُ تَلْدُذِ الْأَلْسِنَةِ بِالْمَقَالِ

جو ارباب شرف و جمال ہیں - اے پیدا کرنے والے جبروت کے تجھ سے ہی ہکلامی کے ساتھ زبانیں لذت پاتی ہیں

يَا مَالِكِ الْمَلَكُوتِ أَنْتَ مُشْرِفُ النُّفُوسِ بِشِرَافَةِ الْحَالِ وَأَنْتَ حَقٌّ

اے ملک عظیم کے مالک تو ہی شرف بخشے والا ہے نفوس کو شرافت حال کے ساتھ اور تو ہی حق ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَمِنْكَ الْبُدَايَةُ وَإِلَيْكَ الْمَالُ

نہیں معبود برحق مگر تو اے عزت و جلال کے مالک اور تجھ سے ابتداء ہے اور تیری طرف ہی بازگشت ہے

بِحَلْبِ الْبِفْصَالِ وَبِتَعَوُّذِ مُخْتَالِ الْمُقْوَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بہت جراتی والے کی کشش کے فریے اور بڑے باتونی کی حیدر گری سے بنام کے ساتھ - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عِبَادَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر اور آپ کی آل پر آپ کی عبادت کے مطابق - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ طَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطاعت پر آپ کی اطاعت کے مطابق - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا





مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ تَبْلِيغُ إِشَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کی تبلیغ و اشاعت کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ سَجُودُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کے سجودات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ رُكُوعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل پر آپ کے رکعات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ خُضُوعُهُ وَخُشُوعُهُ وَصِدْقُ خَبْرِهِ وَيَقِينُهُ

اور آپ کی آل پر مطابق آپ کے خضوع و خشوع اور صدق خبر اور یقین

وَعُرْفَانِهِ وَعُلُوشَانِهِ وَأَيَاتِهِ وَبُرْهَانِهِ وَحَقِيقَةُ إِيْمَانِهِ وَإِقْيَانِهِ

و عرفان اور علوشان اور آیات و برہان اور حقیقت ایمان اور پختگی یقین و ایمان

وَإِيْمَانِهِ وَجَلَالِ مَنْظِرِهِ وَكِبَالِ مَظْهَرِهِ وَكِبَالِ فَخْرِهِ قَدْرٌ رِيْمِنِ

اور جلال منظر اور کمال منظر اور کمال حسن سیرت کے اور مطابق آپ کی برکت

طَلْعَتِهِ وَفَضْلِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِرَبِّهِ وَقَدْرُ عَلَيْهِ وَبِسَاءِ الْقَبِي فِي قَلْبِهِ

دیدار کے اور امت پر فضل و شرف کے اور رب تعالیٰ کی معرفت اور علم کے اور ان کے نعمات کے

وَقَدْرُ سَلَامَةِ صَدْرِهِ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِهِ وَقَدْرُ قُدْرَتِهِ وَمَا رَفَعَتْ لَهُ

اور مطابق ان کے سینہ الوری کی سلامتی کے باطن و ظاہر میں اور مطابق ان کی قدر و منزلت اور رفعت ذکر

مِنْ ذِكْرِهِ وَقَدْرُ جَمَالِهِ الرَّائِقِ وَحُسْنِيَةِ الْفَائِقِ وَقَدْرُ شَفَاعَتِهِ فِي

کے اور عمدہ جمال اور فائق حسن کے اور مطابق ان کی شفاعت کے بندگان

الْعِبَادِ وَقِيَامِهِ بِالْمَقَامِ الْبَحْمُودِيِّ فِي يَوْمِ الْأَشْهَادِ وَقَدْرُ آيَاتِهِ الْعِظَامِ

خداوند تعالیٰ میں اور مطابق ان کے قیام کے مقام محمودی میں بروز قیامت اور مطابق ان کی عظیم آیات

وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمُعْجَزَاتِهِ عَلَىٰ السَّمَاوَاتِ وَقَدْرُ

اور فضل و شرف کے تمام مخلوق پر اور ان کے کامل و اکمل معجزات کے اور مطابق

دُعَايِهِ الْمَقْبُولِ وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الرِّضَا وَالسُّؤْلِ وَقَدْرًا جُرَّ الصَّابِرِينَ

ان کی مقبول دعا کے اور عطا کردہ رضا و مطالب کے اور مطابق احیر تمام صابریں

وَالذَّاكِرِينَ وَجَزَاءَ الْحَسَنِينَ وَقَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ سَوَابِغِ النَّعِيمِ

اور اہل ذکر اور اہل احسان کی جزاء کے اور مطابق عطا کردہ کامل نعمتوں اور

وَمِنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَمِنْ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَطَيْبِ الْأَعْرَاقِ وَ

اور جود و کرم اور اخلاق حسنہ اور پاکیزگی اصول کے اور

فَوْقَ السَّبْعِ الطَّبَاقِ وَمِنْ إِطَاعَةِ الصَّحْبِ وَالرِّفَاقِ وَقَدْرًا مَا

زائد سات طبقات سادہ سے اور صحابہ کرام اور رفقاء عظام کی اطاعت سے اور مطابق اس کے جو

أُعْطِيَ مِنَ الثَّوَابِ الْمَمْدُودِ وَالسَّقْيِ مِنَ الْحَوْضِ الْمَوْرُودِ وَمِنْ

عطا کیا گیا انہیں مسلسل ثواب اور حوض کوثر کی ساقی گری اور

النَّعِيمِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَمِنْ رِضَاءِ الرَّحْمَنِ وَثَوَابِ أَهْلِ الْإِيمَانِ

دار خلد کی نعمتیں ، رضاء رحمن اور اہل ایمان کا ثواب

وَمِنَ الْجَلِيمِ وَالْإِنَابَةِ وَمِنَ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَةِ وَمَا أُعْطِيَ

اور بردباری اور انابت اور مقبول دعوات سے اور مطابق عطا کردہ امداد

مِنَ التَّائِيْدِ عَلَى الْعُدَى وَمِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَمِنْ ثَوَابِ

و امانت کے امداد دین پر اور آیات بینات و ہدایت کے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت

مَنْ آمَنَ وَاهْتَدَى يَا حَلِيمٌ ذُو الْإِنَاءَةِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِّنْ

پانے والوں کے ثواب کے ، اے حلیم۔ مہلت دینے والے ، جس کے برابر نہیں ہو سکتی کوئی شئی اپنی

خَلْقِهِ أَحْلَمُ عَنِّي كُلَّ خَطَرَاتِ نَفْسَانِيَّةٍ حَيَوَانِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ وَكُلِّ

مخلوق سے دور فرما مجھ سے تمام نفسانی و حیوانی اور شیطانہ خیالات کو اور تمام تر

وَسَاوِسَ وَهُوَ أَحْسَنُ وَنِيَّاتِ سَيِّئَةٍ رَدِيَّةٍ وَأَعْمَالٍ لَّيْسَتْ

وسوسوں ، بڑے خیالات ، بری ردی نیا ت اور ناپسندیدہ اعمال اور



بِمَرْضِيَّةٍ وَأَخْلَاقٍ سَبْعِيَّةٍ نَفْسِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ فَإِنَّكَ فِي جَمِيعِ

درندوں والے نفسانی و شیطانی اخلاق کو کیونکہ تو تمام لمحات میں

الْأَنَابَاتِ مُتَّحِلٌّ وَالْعُجْلَةُ شَانُ الْعَاجِزِ قَارُزُقِي التَّوْبَةِ النَّصُوحِ

بردار ہے اور جلد بازی عاجز کی نشانی ہے پس تو مجھے خالص توبہ عطا فرما

وَأَجْعَلْنِي مُسْتَقِيمًا عَلَى ذَلِكَ وَبَدِّلْ خَطَرَائِي بِالْهَامَاتِ كَمَا

اور مجھے اس پر استقامت عطا فرما اور میرے برے خیالات کو الہامات سے تبدیل فرما

تَبَدَّلِ الْحَجَرَ بِالذَّهَبِ وَبَدِّلِ الْأَخْلَاقَ السَّبْعِيَّةَ النَّفْسِيَّةَ

جیسے کہ بدل جاتا ہے پتھر سونے میں اور تبدیل فرما درندگی والے اخلاق نفسانیہ

الشَّيْطَانِيَّةَ بِالْمَلَكِيَّةِ الْجَبْرُوتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فَإِنَّ التَّقْلِيْبَ شَانُكَ

شیطانہ کو ملکی جبروتی الٰہی اخلاق سے کیونکہ یہ انقلاب تیری ہی شان ہے

وَكُلُّ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ فَإِنَّهُ لَا يُعَادِلُكَ شَيْءٌ عَمَّنْ خَلَقَكَ وَإِنْ

اور ہر مشکل تجھ پر سہل ہے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ اگرچہ

بَلَّغَ مَا بَلَغَ مِنَ الْكَمَالِ كَيْفَ وَكَمَا لَكَ بِالذَّاتِ وَكَمَا لَ مَا سَوَّأَكَ

کمال کی آخری حد تک ہی واصل ہو جائے کیوں نہ ہو جبکہ تیرا ہر کمال ذاتی ہے اور ماسوا کا کمال

بِكَمَا لَكَ وَإِنَّهُ بِالذَّاتِ مَعْدُومٌ وَمَرَاتِمًا أَخَذَ الْوُجُودَ مِنْكَ فَكُنْتَ

تجھ سے ہے اور وہ مرتبہ ذات میں معدوم ہے، اس نے صرف اور صرف تجھ سے ہی وجود پایا، تو ہی دراصل ظاہر

بِالْأَصْلِيَّةِ ظَاهِرًا أَوْ مُظْهِرًا الْوُجُودَ مِنْكَ إِنَّمَا حُدُوثٌ مِنِّي وَمِنْ مَا هِيَ بِي

ہے اور ظاہر کرنے والا ہے وجود تجھی سے ہے اور حدوث مجھ سے اور میری مرتبہ ذات میں معدوم ماہیت سے ہے

الْمَعْدُومَةِ بِالذَّاتِ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا سَوَّأَكَ مَعْدُومٌ فَجَمِيعَ السَّيِّئَاتِ عَارِضِيَّةٌ

کیونکہ تمام ماسوا معدوم ہیں لہذا تمام سیئات عارضی ہیں

يَسْهَلُ زَوَالُهَا فَإِنَّ إِزَالََةَ الْعَرِضِيَّاتِ سَهْلٌ كَمَا قُلْتَ مَثَلُ كَلِمَةِ خَيْبَتَةٍ

ان کا زوال سہل ہے کیونکہ عرضیات کا زائل کرنا سہل ہے جیسے کہ تو نے فرمایا کہ خبیثت کلمہ کی لغت

كشجرة خبيثة اجثتت من فوق الارض ما لها من قراره فازل

مانند خبیث پودے کے ہے جو زمین کے اوپر سے اکھیڑ لیا جائے، جس کے لیے مضبوطی نہیں ہے۔ لہذا ہم

عنا جميعا وهي ما سواك واثبت فبتا ذاتك واجعلنا من البعد وبين

ان تمام کو زائل فرما جبکہ یہ تیرے ماسوا ہیں۔ ہم میں اپنی ذات کو ثابت فرما اور ہمارے خاکی مجسموں کو معدوم کرے

كما كنا وكنت انت كما كنت واجعلنا لا يعاد لنا شيء ممن خلقك

جیسے کہ ہم تھے اور تو ہے جس طرح کہ تھا اور ہمیں بنا اس حال میں کہ برابر نہ ہو ہمارے مخلوق سے کوئی شئی

فانك انت ولا موجود الا انت يا رب يا رب انت رب و

کیونکہ تو ہی تو ہے اور صرف تو ہی موجود ہے، یا رب، یا رب، یا رب، تو ہی پروردگار ہے

انا مربوب فربوبيتك يقتضي بان تجعلنا كما كنا وامح عنا

اور میں تربیت یافتہ ہوں پس ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں بنا دے جیسے کہ تھے اور محو فرمائے

جميع عوارضنا حتى انفسنا وكن انت الباقي اللهم انك ان لم

ہم سے ہمارے تمام عوارض حتیٰ کہ ہمارے نفوس کو اور صرف تو ہی باقی رہے۔ اے میرے الہ اگر تو ہمارے

تحكم عنا فكيف نكون والعصيان مرگوز في استعداد اتنا مع ان

ساتھ بردباری سے کام نہ لے تو کس طرح موجود رہ سکتے ہیں جبکہ عصیان ہماری نظری صلاحیتوں میں مرکز ہے علاوہ ازیں

الشياطين اعدائنا يخومون حولنا ولا يعيرون عنا ونحن لانراهم وهم

شیاطین ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے گرد گھومتے ہیں اور غائب نہیں ہوتے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے جبکہ وہ

يرونا وانت قد سلطتهم علينا وهم يبصرون يعيوننا فاصرفهم

ہمیں دیکھتے ہیں اور تو نے انہیں ہم پر مسلط کیا ہے، وہ ہمارے عیوب دیکھتے ہیں لہذا تو انہیں ہم سے

عنا ولا تاخذنا بغتة وتب علينا انك انت التواب الرحيم فارحمتنا

دور فرما اور ہمیں اچانک گرفت میں نہ لینا اور ہم پر نظر رحمت فرمانا بیشک تو ہی توب و رحیم ہے۔ پس ہم پر رحم فرما

واعف عنا ولا تجعل ذنوبنا في عقدتنا وایماننا وسیاتنا خافية

درگزر فرما اور نہ بنا ہمارے گناہ ہمارے عقیدہ و ایمان میں اور ہمارے گناہ ہم سے مخفی ہیں

عَنَّا فَإِنَّكَ إِنْ تَجَعَلْ ذُنُوبَنَا فِي حَقِّنَا فَكَيْفَ نَتُوبُ وَأَنْتَ تُحِبُّ التَّوَابِينَ

اگر تو ہمارے گناہوں کو ہمارے حق میں (لازم) فرمائے تو ہم کیسے توبہ کریں جبکہ تو توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے

فَا حَلَمْنَا حَتَّى تَحْصُلَ التَّوْبَةُ الَّتِي مَحْبُوبَةٌ لَكَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ

پس ہم سے درگزر فرما تاکہ ہمیں توبہ نصیب ہو جو تجھے پسند ہے اور ہم اس کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو

التَّوْبَةَ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ وَتَقْدِيرِكَ وَأَرْزُقْنَا التَّوْبَةَ عَنَّا وَعَنْ وُجُودِنَا

سکتے مگر تیری توفیق اور تقویت سے اور ہمیں نصیب فرما توبہ اپنے آپ سے اور اپنے وجودوں سے

فَإِنَّ وُجُودَنَا ذُنُوبٌ لَا يُقَاسُ فِيهِ ذَنْبٌ آخَرٌ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ بِبَيْدَانَا

کیونکہ ہمارے وجود ہی وہ گناہ ہیں کہ جن کے برابر کوئی گناہ نہیں اور توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے

فَهَذَا أُمَّحْتَصُّ بِكَ وَلَا يُعَادِلُكَ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِكَ الْهَذَا إِنَّكَ تُحِبُّ

بلکہ (دوس کی توفیق) تیرے ساتھ خاص ہے اور مخلوق میں سے کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ اے ہمارے اللہ توبہ

التَّوَابِينَ وَلَا قُدْرَةَ لَنَا عَلَيْهَا فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ الْهَذَا

رکھتا ہے اہل توبہ کو اور ہمیں اس پر اختیار نہیں تو ہم کیسے توبہ کریں اگر تو توفیق نہ دے۔ اے ہمارے اللہ

إِنَّمَا مَعْدُومُونَ فِي الْأَصْلِ وَأَصْلُ الْعَدَمِ ظُلْمَةٌ وَالظُّلْمَةُ مَعَ الظُّلْمَةِ

ہم از روئے اصل معدوم ہیں اور عدم کا اصل ظلمت ہے اور ظلمت ظلمت کے ساتھ

شَبِيهَةٌ فَالْعَصِيَّانُ شَانِنَا وَالْعَفْوُ شَانُكَ وَالْغُفْرَانُ أَمْرُكَ يَا مُعِيدَ أُمَّتِ

مخلوط ہے تو عصیان ہی ہمارا طبعی تقاضا ہے اور عفو تیرے لائق ہے اور مغفرت تیرا کام ہے۔ اے لوٹانے

الْعَائِدُ مَا أَفْنَاهُ الْعِبَادُ مِنَ الْأَوَامِرِ إِذَا بَرَسُوا وَالدَّيْكَ مِنْ مَخَافَتِهِ

والے تو ہی لوٹانے والا ہے بندوں کے فنا کردہ اوامر کو جبکہ وہ ظاہر ہوں گے تیرے ہاں تجھ سے خوفزدہ ہونگے

فِي دُعَائِهِمْ أَعْدُمَ مَافَاتٍ مِنِّي مِنْ خَيْرِ عَمَلٍ وَقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ فِي تَحْصِيلِهِ

اپنی دعاؤں میں لوٹا وہ جو فوت ہوا مجھ سے اچھا عمل یا قول یا اس کے حاصل کرنے کی نیت

بِسَابِقَةِ كِتَابٍ وَعَوَارِضٍ نَسِيبٍ طَارِيَةٍ عَلَيَّ هُوَيْتِي وَشَخْصِي وَ

بسیب ازلی تحریر کے اور عارضی نسبتوں کے جو طاری ہوئیں میرے مجسمہ اور شخص پر اور

بِدَالِ سَيِّئَاتِي بِجَعْلِهَا حَسَنَاتٍ ثُمَّ أَعَدَّنِي وَقْتَ الْحَشْرِ إِلَى هَيْئَةٍ هِيَ

تبدیل فرما میری سیئات کو نیکیوں کے ساتھ۔ پھر میرا اعادہ فرما محشر میں ایسی حالت پر

أَجْمَلُ الْهَيْئَاتِ وَالْإِلَى مَكَانَةٍ هِيَ أَجْدَرُ الْمَكَانَاتِ قَائِمًا مِّنْ مَّرْقَدِهِ

جو سب سے جمیل تر ہے اور ایسے مقام میں جو سب سے موزوں تر ہے درآئیکہ میں اٹھوں اپنے مرقد سے

عَلَى يَمِينِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ وَمِنْ بَعْثٍ أَوْ لَا مَن قَبْرِهِ قَرِيبًا نَّبِيْتُ بِحَيْثُ

عرشِ رحمن کی دائیں جانب اور قریب اس ذاتِ اقدس کے جو سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے قبر انور سے

يَقَعُ نَظْرًا عَلَى كَنَظَرِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَا تَعُدُّ سَيِّئَاتِي مَعَ سَيِّئَاتِ الْخَلْقِ

اس انداز سے کہڑے ان کی نظر مجھ پر مانند ان کی اپنے اصحاب پر نظر کے اور نہ اعادہ فرمانا میرے گناہوں کا مخلوق کے

وَأَثَارُهُ فِي وَجْهِِي وَجَسَدِي فَأَنْتَ سَتَارُ الْعِيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ

گناہوں کے ساتھ درآئیکہ ان کے اثرات میرے چہرہ اور بدن میں ہوں پس تو ہی ستارِ عیوب اور غفارِ ذنوب ہے

فَاَجْعَلْنِي مُطَهَّرًا عَنْهَا بِتَوْفِيقِ تَوْبَةٍ مِّنْ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ بَلْ عَنْ خَطَرَةٍ

لہذا مجھے پاک فرما ان سیئات سے توبہ کی توفیق دے کہ ہر کبیرہ اور صغیرہ سے بلکہ خطرہ و دوسوسہ اور

وَتَرَدُّدٍ لِأَحِقِّ فِي إِعْتِقَادِ بَعْضَةِ اللَّهِ أَنْتَ الْعَاشِرُ لِكُلِّ كَوْنٍ

تردد سے بھی جو بوجہ غفلت میرے اعتقاد میں لاتی ہو۔ اے اللہ تو ہی جمع فرمانے والا ہے ہر موجود شخص کو

شَخْصِيٍّ مِنْ مَّرْكَزِهِ وَمَرْكَزِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِحَالِ أَجْزَائِهِ وَ

اس کے مرکز اور مرکز سے اگرچہ بچھ چکے ہوں اس کے اجزاء اور جدا جدا ہو

تَفَرَّقَتْ عِظَامُ أَجْسَادِهِ وَلِحُومُ أَعْضَائِهِ حَيْثُ صَارَتْ لِحْمًا

چھی ہوں اس کی ہڈیوں اور اس کے اعضاء کا گوشت حتیٰ کہ ہو چکے ہوں گوشت

وَدَمًا لِّجَيَّوَانِ بَرِّيٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ فَأَنْتَ جَمَّاعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَفَرَّاقِ

اور خون کی بری یا بری جانور کا پس تو ہی جمع کرنے والا ہے ان متفرقات کا اور جدا کرنے والا ہے

الْمُتَأَلِّفَاتِ الْمُرَكَّبَاتِ فَيَا إِلَهِي أَنْتَ غَافِرُ الذُّنُوبِ شَدِيدُ

مؤلف و مرکب اشیاء کا۔ اے میرے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے گناہوں کا اور سخت گرفت والا ہے

الْبَطْشِ وَالْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ وَمُرَجِّحِ الْعَدَمَاتِ وَمُقْنِي الْمَوْجُودَاتِ وَ

اور با اختیار فاعل ہے، معدومات کے لیے وجود کو فری قرار دینے والا اور موجودات کو فنا کرنے والا ہے

مُعِيدِ الْأَرْوَاحِ النَّطَاقَاتِ بِيَدِ وَرَجُلِ بَلِّ شَجِرٍ وَحَجَرٍ خُصُوصًا

لِثَمَانِيَةِ وَاللَّهِ أَرْوَاحُ نَاطِقَاتٍ كَمَا تَحْتُوں اور پاؤں میں بلکہ ہر شجر و حجر میں بالخصوص زبانوں کا

الْأَلْسُنِ فِي الْإِنْسِيَّاتِ فَأَعَذُّنِي مِنْ خَوْفِكَ الشَّدِيدِ الَّذِي يُطِيرُ

اعضاء انسانی میں پس مجھے بچا اپنے خوف شدید سے جو اڑانے کا مستحکم

الْجِبَالِ الرَّاسِيَّاتِ كَالْعُهُونِ الْمَنْفُوشَاتِ وَتَخَافُ نَارَهُیْ أَشَدَّ

پہاڑوں کو دھنی ہوئی روٹیوں کی مانند اور خوفزدہ ہے آتش دوزخ (حالانکہ سخت ترین ہے

النَّيِّرَانِ مِنْ بَرَّاقَةِ جَلَالِكَ وَيَخَافُ ثَلْجَهُ هُوَ أَشَدُّ الْبَارِدَاتِ مِنْ

تمام آتشیوں سے تیرے جلال کی چمک سے اور خوف زدہ ہے برف زمہریر (جو تمام اشیاء سے زیادہ ٹھنڈی ہے)

إِضَاءَةِ جَمَالِكَ وَتُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ مِنْ خِيفَةِ قَهْرِكَ

تیرے جمال کی ضیاء سے اور تبدیل ہو جائیں گی زمینیں اور آسمان تیرے قہر و جبر کے

وَجِبْرِكَ وَتَطْلَعُ النَّيِّرَاتُ فِي كُلِّ فَلَكٍ مُضْطَرِّبِينَ مُتَحَرِّكِينَ حَيْثُ

خوف سے اور طلوع ہوتے ہیں روشن اجسام ہر فلک میں مجبوراً حرکت کرتے ہوئے جہاں

أَمَرْتَهُمَا أَعْدُ مَعَارِفِكَ الَّتِي جَعَلْتَ لِرُوحِي وَأَرْوَاحِ الْعَابِرِينَ

تو انہیں حکم دے۔ لڑنا اپنے معارف کو جو تو نے پیدا فرمائے تھے میرے روح اور عارفوں کے ارواح کیلئے

فِي أَوَّلِ النَّشَاةِ فِي إِبْنِي هَذَا وَشَخْصِي مَعَ بَقَاءِ الدَّائِيِّ وَمَا عَانِي

پہلی نشادت میں میرے اندر اس وقت میں اور میرے شخص میں بمع میرے بقاء ذات کے اور جو کچھ میں

فِي الْمَلَا أَعْلَى نَاسِيًا بِعَلَاقَةِ الْبَدَنِ وَالْعَظْمَةِ وَالْكَرَامَةِ إِنَّ

معاہدہ کرتا ہوں ملا اعلیٰ میں در آنجا لیکر میں بھولنے والا ہوں بدنی علاقہ اور عظمت و کرامت کو اگر وہ

فَاتِ وَأَعْدُ صِحَّةً بَعْدَ مَرَضٍ وَسُرُورًا بَعْدَ حُزْنٍ وَفَرْجَةً

ہاتھ سے نکل جائے اور عطا فرما صحت بعد مرض کے اور سرور بعد حزن و ملال کے اور فرانی بعد



بَعْدَ ضَيْقٍ وَبَسْطٍ بَعْدَ قَبْضٍ وَأَخْلَاقًا كَرِيمَةً بَعْدَ ذَمِيمَةٍ وَجَاهًا

تنگی کے اور وسعت بعد کمی اور اخلاق کریمہ بعد برے اخلاق کے اور آبرو

بَعْدَ ذَلَّةٍ وَإِعَانَةٍ وَرَحْمَةٍ بَعْدَ قَهْرٍ وَعِثْقَادَاتٍ زَالَتْ بِأَعْدَائِهِ

بعد ذلت کے اور اعانت و رحمت بعد قہر کے اور اعتقادات جو زائل ہو گئے بسبب عہد شکنیوں کے

وَمَوَانِعَ بَعْدَ تَرُدِّهَا وَإِتِّقَانًا لِلَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

اور موانع بعد تردد اور گمانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَّا أُعْطِيَ مِنَ الْفَخْرِ وَالطُّوْلِ وَمِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق عطا کردہ فخر اور قوت کے اور

تُقُوذِ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَقَدْ رَمَّا أُعْطِيَ مِنَ الْكَلِمَةِ الصَّادِقَةِ

نافذ امر کے فعل و قول سے اور مطابق اس کے جو دئے گئے ہیں کلمات صادقہ سے

وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْفَائِقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جو عطا کئے گئے عمدہ حکمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَّا أُعْطِيَ مِنْ عِظَائِهِ الْأُمُورِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان امور عظیمہ کے جو انہیں عطا کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَّا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر مطابق عطا

أُعْطِيَ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْأَجُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی ہوتی نیکیوں اور ان کے اجروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَّا أُعْطِيَ لَيْلَةَ الْأَسْرَاءِ مِنَ الشُّرُوبِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس سرور اور عطیہ کے جو انہیں شب اسراء

وَالْحَبُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل





مَحْمَدٍ قَدْ رَمَا عَطَىٰ مِنَ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق اس قوت و شجاعت اور قدرت کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَعْلُوكَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنے علو و رفعت کے۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں

اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اسْمُهُ

اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے۔ اللہ کے نام کی برکت سے جس کے نام کے ساتھ ضرر نہیں

شَيْءٌ عَنِّي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اسْأَلُكَ

دیتی کوئی شئی زمین میں اور نہ آسمان میں وہی سننے جاننے والا ہے۔ اے میرے رب میں سوال کرتا ہوں

خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا

بجھ سے اس دن کی خیر کا اور اس کے بعد کی خیر کا اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اس دن اور

الْيَوْمِ وَهَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذَا الْوَقْتَ وَشَرِّ مَا بَعْدَكَ إِلَىٰ أَبَدِ الْأَبَدِ

اس ساعت اور اس وقت کے شر سے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے شر سے

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں سستی اور برے بڑھاپے سے۔ اے رب میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

عذاب نار، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ وَأَعِصْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

اپنے شر نفس اور شر شیطان اور اس کی حقہ داری سے۔ مجھے بچا شیطان

الرَّجِيمِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ اللَّهُمَّ

رجیم سے اپنے نفس پر برائی کے ارتکاب سے یا اسے کسی مسلمان کی طرف کھینچ لانے سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کفر و فقر سے اور عذاب قبر سے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوؤُكَ بِنِعْمَتِكَ

نہیں مبود برحق مگر تو ہی۔ اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری اپنے افعال و صنعت کے شر سے۔ میں تیرے انعامات کا

عَلَى وَأَبُوؤُ بَدْنِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ

کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا پس مجھے بخش دے کیونکہ نہیں بخشتا مگر تو ہی۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اندوہ اور غم اور ملال سے اور پناہ حاصل کرتا ہوں عجز و

وَالْكُسَلِ وَالْفُصْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَ

ستی اور جھانی و دوری سے۔ اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں بزدلی۔ بڑھاپے۔ بخل اور

قَهْرَ الرِّجَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ

لوگوں کے غلبہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں بطفیل تیری ذات کریمہ اور کلمات تامہ کے

مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ

ہر اس چیز کے شر سے کہ تو جس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے اور پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے کہ تو

آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ

جس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری اور تیرے کلمات تامہ اور تمام

الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَعٌ وَبَرٌّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ

اسماء کی ہر اس شئی کے شر سے جسے تو نے پیدا فرمایا اور ایجاد کیا اور ہر شریر کے شر سے اور ہر

شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔ بیشک میرا رب صراط مستقیم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ

اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری رضا کے واسطے سے تیری ناراضگی سے اور بوسیلہ تیری عفو کے تیری عقوبت سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ

اور پناہ حاصل کرتا ہوں بوسیلہ تیری ذات کے تجھ سے۔ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا تو لائق اسی ثنا کے ہے جیسے کہ

نَفْسِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُنزَلَ أَوْ أُزَلَ

تو نے خود کی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں گمراہ ہونے سے یا کئے جانے سے۔ لغزش کھانے سے

أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

یا لغزش دئے جانے سے یا ظلم کرنے سے یا ظلم کئے جانے سے، جاہل بننے یا جہالت کا نشا زبندے جانے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

حاصل کرتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ دَسَائِسِ الصَّدُورِ

اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں گناہ اور ترض سے اور پناہ حاصل کرتا ہوں قلبی دوسوسوں سے

وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اور امور کی پراگندگی اور فتنہ قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں رات میں داخل

يَدْبِجُ فِي اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدْبِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبُتُ بِهِ

ہونے والے کے شر سے۔ اور دن میں داخل ہونے والے کے شر سے اور جس کو ہوائیں اڑائیں اس کے

الرِّيَّاحِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا

شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرنے والا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے عطا کی اور اس کے شر سے

مَنْعْتَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ

جو تو نے روک لی۔ اے اللہ میں طالب پناہ ہوں عذاب نار سے اور آتش کے فتنہ اور

وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ

قبر کی آزمائش اور غنا کے فتنہ و شر سے اور فتنہ فقر کے شر سے اور میں تیرا طالب

بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ

پناہ ہوں (دل کی) سختی اور غفلت۔ محتاجی اور ذلت و مسکنت سے۔ اور تیری پناہ کا

بِكَ مِنَ الْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ

طالب ہوں نافرمانی، مخالفت اور شہرت و ریاہ کاری سے۔ تیری پناہ کا طلب گار ہوں



مِنَ الصَّمِّ وَالْبُكْمِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

برہ بن۔ گونگا بن اور برص و جنون اور کوڑھ سے اور بری بیماریوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْبِرَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس بلاغت اور برتری کے جو انہیں عطا کی گئی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْقَنَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر مطابق اس قناعت کے جو انہیں عطا کی گئی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ السَّمَاحَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اس سخاوت کے جو انہیں عطا کی گئی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْمَلَاخَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس ملاحت و کشش حسن کے جو انہیں بخشی گئی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْبَيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی آل پر مطابق اس بیان کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اس فصاحت کے جو

الْفَصَاحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

انہیں عطا کی گئی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الدَّلَائِلِ الْقَاطِعَةِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر مطابق ان دلائل قطعیہ کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ لے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق ان غالب

أَعْطَى مِنَ الْبَرَاهِیْنِ السَّاطِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

براہین کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْعَمَلِ الْبَارِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان نیک اعمال کے جن کی انہیں توفیق دی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس

مَا أُعْطِيَ مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تسکین و وقار کے جو انہیں بخشا گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَرُحْمَانِهِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر مطابق اس عقلمندی اور اس کے غلبہ کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس حق اور اس کے

مِنَ الْحَقِّ وَبَيَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اطہار کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ عُلُوشَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کی آل پر مطابق اس علوشان کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الرَّحِيقِ وَالْكَوْثَرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس شرابِ خالص اور کوثر کے جو انہیں عطا کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان

أَعْطَى مِمَّا لَاعَيْنُ رَأَتْ وَلَا أذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشِيرٍ

عطا کردہ نعمتوں کے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی بشر کے دل پر دکھیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْكَوْثَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

خیر و کثر کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْفَضْلِ وَعَلَى جَمِيعِ الْبَشَرِ

آپ کی آل پر مطابق اس فضل و شرف کے جو انہیں عطا کیا گیا تمام بشروں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس اجر کے

أُعْطِيَ مِنْ أَجْرٍ مَا بَلَغَهُ عَنْ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو انہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ احکام پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ ثَوَابِ الْكِتَابِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس ثواب کے جو انہیں عطا کیا گیا ان کے دل اقدس پر

الْمُنْتَزَلِ عَلَى قَلْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اتاری ہوئی کتاب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْقَوْلِ الثَّابِتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کی آل پر مطابق اس پائیدار قول کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق نماز پر عطا کئے گئے

أَجْرِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا وَلَا يُخَافُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اجر کے جس نماز میں نہ زیادہ بھر کرتے تھے اور نہ بالکل اخفاء قراءت۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق رفعت قدر کے جو

رَفْعَةَ الْقَدْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنْ ثَوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق لیلۃ القدر کے ثواب کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس فضل عظیم کے جو انہیں

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

عطا کرے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنَ الْعِزِّ وَالْجَدِّ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس عزت و بزرگی کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شکر و حمد

مِنْ ثَوَابِ الشُّكْرِ وَالْحَمْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

کے ثواب کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنْ حُسْنِ الْيَقِيْنِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس حسن یقین کے جو انہیں عطا کیا گیا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْعُلُوْمِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اولین و آخرین کے علوم کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنْ عُلُوِّ الْمَقَامِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اس رفعت مقام کے جو انہیں عطا کی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَّا أُعْطِيَ مِنَ الشَّرَفِ التَّامِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عطا کردہ شرف کامل کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالْحَنَانِ

آپ کی آل پر مطابق اس شفقت و عنایت کے جو انہیں عطا کی گئی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَّا أُعْطِيَ مِنْ رَفْعَةِ الشَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محبوب رفعت شان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنَ الدَّلَالَةِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق محبوب دلہبری اور

الْبُرْهَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

برہان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنْ جَلِيلِ الْقُدْرَةِ فِي سُورَةِ

کی آل پر مطابق محبوب قدر جلیل کے جو سورہ سبحان میں

سُبْحَانَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

مذکورہ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کی آل پر مطابق موہبہ آیات کے۔ اے اللہ صلوات و





سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق عطا کردہ

مِنَ الْمُعْجَزَاتِ وَمِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ وَالْفَضْلِ عَلٰی جَمِيعِ

معجزات اور خصوصیات کے اور تمام کائنات پر

الْكَائِنَاتِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ رَوْقِ الْجِبَالِ وَالْمَجْدِ وَالْكَمَالِ وَ

مفہمت کے اور مطابق محبوب جمال والی روق اور بزرگی اور کمال کے اور

مِنَ الْقُبُولِ وَالْإِقْبَالِ وَمِنَ إِجَابَةِ السُّوَالِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ

قبولیت و اقبال کے اور قبولیت سوال کے اور مطابق محبوب

الْمَقَامَاتِ وَالذَّرَجَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَمَا أُعْطِيَ

مقامات و درجات اور خیرات و برکات کے اور محبوب

مِنَ الشَّهَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

شہادت اور زہد و عبادت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنَ التَّبْلِيغِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق محبوب تبلیغ و

وَالْإِفَادَةِ وَالْفَضَائِلِ السَّنِيَّةِ وَالْمَرَاتِبِ الْعَلِيَّةِ وَمِنْ حُسْنِ

افادہ اور عالی شان فضائل اور بلند مراتب کے اور حسین

الشَّمَائِلِ وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الْعُلُومِ

خصلتوں کے اور ہر خیر کے جو فوری ظاہر ہونے والی ہے یا تاخیر سے۔ اور مطابق محبوب علوم

وَالْمَعَارِفِ وَالْمَنَحِ وَمِنَ اللَّطَائِفِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ كَمَالِ وَصْفِهِ

و معارف اور عطیات کے اور لطائف کے اور محبوب اوصاف کاملہ کے

وَمِنْ جَمِيعِ صُنْعِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ جَمِيعِ لُطْفِهِ وَقَدْ رَحِمَدَهُ

اور مطابق اللہ تعالیٰ کی تمام بھلائیوں کے ساتھ ان کے اور اس کے محبوب تمام ناز و کریم کے اور مطابق

بِاللَّهِ وَتَمَجِيدُهُ بِاللَّهِ وَشُكْرُهُ بِاللَّهِ وَتَحْمِيدُهُ بِاللَّهِ وَقَدْرُ مَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

ان کی حمد خداوندی اور تمجید و شکر اور تحمید کے اور مطابق ان کے اپنے ہاں عظیم قدر و منزلت

لَدَيْكَ وَإِذْلَالِهِ عَلَيْكَ وَقَدْرُ تَعَلُّقِ قُدْرَتِكَ بِمَخْلُوقَاتِكَ وَتَحَقُّقِ

کے۔ اور ان کے ناز محبوبی کے اور مطابق اپنے تعلقات قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کے اور مطابق متحقق

الْمَلِكِ بِإِرَادَتِكَ وَقَدْرُ مَنَزِلَتِهِ وَقَدْرُهُ لَدَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَعِيدُ

ہونے ملک کے ساتھ تیرے ارادہ کے اور مطابق ان کی قدر و منزلت تیرے ہاں۔ اے اللہ تو ہی قادر

الْمُطَلَقُ بِكُلِّ إِعَادَةٍ فَأَعِدْ لِمَا دَعَا هَذَا الدَّاعِيَ فِي حَقِّ أَيِّ مُؤْمِنٍ

مطلق ہر بھلائی پر پس مہربانی فرما جس مومن کے حق میں دعا کی اس

إِعَادَةٍ سَرِيْعَةٍ مَقْرُونَةٍ بِكُنِّ الدَّاعِي هُوَ أَمْرٌ إِجَادِي وَتَكْوِينِي وَإِنْ

دعا گو نے ایسی فوری بھلائی جو مقرون ہو ساتھ کلمہ کن کے جو کہ امر ایجاد و تکوین ہے اگرچہ

كَانَ مِنَ الْمَحَالَاتِ الْعَادِيَاتِ وَالْمُسْتَنْعَاتِ وَأَعِدْ الْأَسْقَامَ الضَّارَّةَ

ہو وہ امر محالات اور مستنعات عادیہ سے اور لوٹا ضرر رساں بیماریوں کو

بَعْدَ الْفُرْجَةِ لِأَعْدَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَصْحَابِ الْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ

کشائش و چھکارا کے بعد اہل اسلام اور قابل ستائش اخلاق والوں کے

وَأَعْدَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالظَّالِمُونَ كَيْفَ يَسْطُونَ الْيَدَ وَالرَّجُلَ بِالْفِعْلِ

اعداء یر اور فقراء کے اعداء یر اور ظالم لوگ کس طرح پھیلاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں ساتھ فعل کے

وَاللِّسَانَ بِالْقَوْلِ وَالْقُدْرَةَ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ فِي مَبْدَأِ الْفِطْرَةِ

اور زبان کو ساتھ قول کے اور قدرت کے جو ان کو حاصل تھی مبداء فطرت میں جو

الْمَقْهُورَةِ مَذَلَّةً مَرْدُودَةً عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا عَزِيزُ الْمُنِيعُ

مقهور و تابع فرمان لڑائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول کے پاس۔ اے غالب،

الْغَالِبُ عَلَى جَمِيعِ أُمْرِهِ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ أَعِزَّنِي بِالْأَحْوَالِ

عالیشان، تمام امور پر غالب کہ کوئی شئی اس کی برابری نہیں کر سکتی مجھے عزت بخش ساتھ ان احوال کے

الْمُرْشِدَةَ إِلَى الْأَحْوَالِ الْقَوِيَّةِ بِالْمَلَكَةِ الْعَرْشِيَّةِ وَالْكُرْسِيِّ الْقَوِيَّةِ

جو رہنمائی کرنے والے ہیں احوال قویہ کی طرف جو عرش و کرسی کے ملائکہ سے تقویت پانے والے ہیں

الْمُفْرَقَةَ الْقِتَالَةَ لِأَعْدَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْتَعِدِّينَ الطَّالِبِينَ لِلْكِمَالَاتِ

جو توڑنا ہیں متفرق کرنے اور قتل کرنے والے ہیں فقراء اور اہل استعداد طالبان کمالات

الْأُخْرَوِيَّةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَالِبُ ذُو الْعِظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ وَالْحِكْمَةِ

اخرویہ کے اعداد کو۔ اے اللہ تو غالب، عظمت والا۔ قدرت کاملہ اور حکمت عالیہ

الْعَالِيَةِ سَدَّتْ أَفْهَامَ الْعُقُولِ وَحَيَّرَتْ النُّفُوسَ عِنْدَ الْمُطَالَعَةِ وَ

والا ہے۔ مسدود ہو گئے عقول کے افہام اور حیرت زدہ ہو گئے نفوس مشاہدہ کے وقت اور

ذَابَتْ الْأَيْدَانُ عِنْدَ الْمَشَاهِدَةِ جَلَّ جَلَالُكَ وَشَرِقَ جَمَالُكَ اجْعَلْنِي

پچھل گئے ابدان معائنہ کے وقت۔ بزرگ سے تیرا جلال اور روشن رہے تیرا جمال مجھے بھی بنا دے

غَالِبًا قَادِرًا عَلَى نَفْسِي الْأَمَارَةِ وَالْعُبُورِ فِي الطَّرِيقِ الْجَادَةِ وَإِنْ غَالِبَ

غالب و قادر نفس امارہ پر اور عظیم شاہراہ کے عبور پر اور اگر کوئی غالب آئے

أَحَدٌ بِالْقَوْلِ وَالْجَارِحِ فَاقْلَعُهُ وَاجْمَعُهُ إِلَى تَفْرِيقِهِ إِنْ كَانَ قَاصِدًا

نفل اور اعضاء کے ساتھ تو اس کو اکھیڑ پھینک اور اس کی جمعیت کو پراگندہ کر اگر قصد کرنے والا ہو

إِلَى السُّوءِ وَالْإِهَانَةِ دَاعِيًا مُرَوِّعًا إِلَى الْإِيذَاءِ إِلَّا أَنْكَ إِنْ كُنْتَ

برائی اور اہانت کا اور بلائے والا ہو طرف ایذا رسانی کے خوفزدہ کرنے والا مگر یہ کہ تو اس پر

رَاضِيًا بِهِ فَإِنِّي أَرْضَى بِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنِيعُ الْغَالِبُ عَلَيَّ كُلِّ أَمْرٍ

راضی ہو تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اے اللہ تو عالیشان ہے، ہر امر پر غالب ہے۔

فَلَا يُقَاوِمُكَ وَلَا يُصَادِمُكَ أَحَدٌ اجْعَلْنِي مِنْبَعًا غَالِبًا عَلَى كُلِّ

نہیں مقابلہ کر سکتا اور نہ مخالفت کر سکتا ہے تیری کوئی شخص مجھے بھی ناقابل تسخیر اور غالب بنا دے

جَنِّي وَسَوْحِي وَرَوْحَانِي حَتَّى تَغَيِّرَ دَعْوَاتِي أَفْعَالَهُمْ إِلَى إِهْمَالِهَا

ہر جن اور روح اور روحانی میری حتی کہ کر دیں میری دعائیں ان کے افعال کو مہمل درآئنا لیکہ

مُنْقَادَةٌ مُطِيعَةٌ زَمَنَةً إِلَى أفعالِهَا إِنْ أَرَادَ عَبْدُكَ الدَّاعِيَ وَإِنْ

وہ فرمانبردار و اطاعت گزار ہوں اور بے دست و پا ہوں اپنے افعال میں اگر تیرا یہ دعا طلب بندہ چاہے

قَصْدَ الْعَلْبَةِ وَالْقَهْرَ فَاسْلُبِ الْبَاعِثَةَ وَالْفِعْلَ مِنْهُ وَعَظِلِ الْقُوَى

اور اگر غلبہ و قہر کا قصد کرے تو اس کا باعث و محرک اور فعل سلب کرے اور اس کے قوائے

الْفَاعِلَةَ الْمُتَحَرِّكَةَ مِنْهُ إِلَى هَذَا الدَّاعِيَ سِوَى الْقَصْدِ بِالْإِحْسَانِ

فاعلہ محرکہ کو معطل فرماوے متوجہ کرتے ہوئے ظن اس عبد داعی کے ساتھ احسان اور

وَالْأَخْلَاقِ وَالْمَدَارِةَ الدِّينِيَّةَ خَالِصَةً لَكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى

حسن اخلاق اور دینی رواداری کے ارادہ کے خالص اپنی ذات کے لیے بغیر

صَدَارَةٍ وَإِذْعَانِ جَاهِ فَيَا إِلَهَ كُلِّ شَجَرٍ ذِي أُصُولٍ قَوِيَّةٍ وَجِبَالٍ

صدارت کے دعویٰ اور عزوجاہ کی پندار کے پس لے اللہ ہر مضبوط جڑوں والے درخت کے اور مضبوط

رَأْسِيَّاتٍ حَتَّى جَعَلْتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَالِبًا عَلَى جُنْدِ قُرْعُونَ

و مستحکم پہاڑوں کے تو نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا فرعون کے لشکر پر

حَتَّى أَمِنَ السَّحْرَةَ وَالتَّقَمَ الْعَصَا لِحَيَاتِ الْبَاطِلَةِ وَالْأَفَاعِي

حتیٰ کہ ایمان لائے جادوگر اور نکل گیا عصائے کلیم باطل ساینوں اور زہریلے اژدہوں

السُّهُومِيَّةَ وَجَعَلْتَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِيعًا عَزِيزًا غَالِبًا

کو اور تو نے بنایا سلیمان علیہ السلام کو عال مرتبت عزیز و غالب تمام

عَلَى كُلِّ إِنْسٍ وَجِنٍّ وَطَيُّورٍ صَافَاتٍ عَلَى رَأْسِهِ مَعَ نُبُوَّةٍ

انسانوں، جنوں اور پرندوں پر جو صفت بستہ ہوتے ان کے سر اقدس پر جمع عطا نبوت

وَسُلْطَنَةٍ وَهَذَا مِنْ غَلْبَتِكَ وَإِقْدَارِكَ الْحَقِيقَةِ وَكُلُّ نَحْتٍ

و سلطنت کے اور یہ درحقیقت تیرا ہی غلبہ اور اظہار قدرت ہے اور ہر شئی تیرے امر اور

أَمْرِكَ وَرِضَاكَ وَإِلَّا فَسُلَيْمَانُ كَانَ بَشَرًا كَسَائِرِ عِبَادِكَ وَصَارَ

رضاکے تحت ہے ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی مخلوق تھے مانند دوسرے مخلوق کے اور ہو گئے

بِأُصْطَفَائِكَ وَالْهَامَاتِكَ وَأَعْطَاكَ سُلْطَانًا وَخَلِيفَةً وَسُلْطَانًا

تیری پسندیدگی اور الہام و عطا سے سلطان و خلیفہ اور صاحب امر سلطان

أَمِيرًا مَنِيعًا فِي خَلْقِكَ فَكَذَلِكَ اجْعَلْ عَبْدَكَ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْكَ

اور عالی مرتبت تمام مخلوق میں پس ایسے ہی بنا دے اپنے بندے کو جو داعی ہے تیری طرف

مِنْكَ مِنْ أُمَّةٍ رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ أَمِيرًا أَوْ جِيهًا غَالِبًا فِي خَلْقِكَ

تیری قومیت سے ہی اپنے رسول و حبیب کی امت میں سے صاحب امر، آبرو مند اور غالب جہانوں

النَّاسُوتِيَّ وَأَمْرَاءَ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَأَمِيرًا أَوْ جِيهًا فِي الْأُرُوجِ وَخَوَاصِّ

میں اور ملکوتی امراء میں اور صاحب امر و آبرو مند ارواح میں اور انحصار الخواص اجسام

فِي الْأَجْسَادِ غَنِيًّا مِّنْ مُّلُوكِ الْأَرْضِ وَعُلَمَاءِ الدُّنْيَا وَمِنَ

میں۔ ملوک ارضی سے بے نیاز اور علماء و دنیا سے بھی اور ان فقراء سے بھی

الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَضَاعُوا أَوْ قَاتَهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَضُوا بِهَا

جنہوں نے اپنے اوقات کو حیات دنیا میں ضائع کر دیا اور اسی پر راضی رہے

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْبَدِينَ

اور وہی ان کا انتہائی علم ہے۔ اور بنا مجھے عبادت گزار علماء اور

وَالْفُقَرَاءِ الرَّاضِينَ الْكَامِلِينَ فِي نَفْسِهِمْ وَالْمَكْبَدِينَ لِغَيْرِهِمْ

ارباب رضا فقراء سے جو بذات خود کامل ہیں اور دوسروں کی تکمیل کرنے والے ہیں

أَمِينَ ۗ وَاجْعَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ

آمین۔ اور بنا دے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کو محبوب تر میرے روح

مِنْ رُوحِي وَجَسَدِي وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَّاسُوتِيٍّ وَمَمْلُوكِيٍّ وَمِنْ

اور جسم سے اور ہر جہانی اور ملکوتی چیز سے اور ہر خواہش

كُلِّ شَهْوَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا هُوَ تَيْبَةٌ سِوَى الْعَلْبَةِ عَلَى الْحَبِّ الْمَطْلُوقِ

سے اگرچہ لا ہوتی ہی ہو سوائے غلبہ کے اوپر حب مطلق صافی

الصَّفْوِ وَالْكُوَّةِ النَّورِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالسُّطُورِ الْجَامِعَةِ لِلْخُطُوطِ

اور حقیقت نوریہ کے طاق و محراب کے اور سطروں کے جو جامع ہیں خطوط

وَالسُّطُورِ وَالنُّقَاطِ التَّفْصِيلِيَّةِ اللَّهُمَّ اجْبُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ

اور سطروں اور تفصیلی نقاط کی ۔ اے اللہ قبول فرما ان دعاؤں کو

يَا صَادِقَ الْوَعْدِ وَالْقَوْلِ إِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَ

اے سچے وعدے اور قول والے کہ میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب بھی دعا کرے

كُلُّ شَيْءٍ مُمْكِنٍ إِلَّا جَابَةَ سِوَى السُّبُوءَةِ وَالْوَجُوبِ وَقَدْ أُعْطِيَتْ

اور ہر چیز کی دعا قابل قبولیت ہے سوائے نبوت اور وجوب الوجود کے اور توڑے عطا فرمائی ہے اپنے

لِمَنْ طَلَبَكَ مِنْ عَزَّتِكَ يَا أَيُّهَا الْأَعْظَمُ مَنْ غَيْرِكَ حَتَّىٰ أَدْعُو

طلب گار کو عزت اپنی طرف سے اے عظیم ترین کون ہے تیرے علاوہ جس کی طرف دعوت دوں

إِلَيْهِ سِوَى الدَّعْوَةِ إِلَىٰ عَظَمَتِكَ وَإِجَابَتِكَ وَهَذَا عَبْدُكَ

سوائے تیری عظمت و اجابت کی طرف دعوت کے ۔ اور یہ تیرا بندہ

قَاصِدٌ فِي اسْتِعْدَادِ طَلَبِكَ وَلَكِنْ رَحِمَتِكَ وَأَسْعَةٌ فَاجِبُ دَعَوَاتِي

ناقص استعداد والا ہے تیری طلب میں لیکن تیری رحمت وسیع ہے، پس قبول فرما میری

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ آمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دعاؤں کو آسمانوں اور زمینوں میں آمین ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا فَعَتَ لَهُ مِنْ ذِكْرِهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کے ذکر کی رفعت کے اور

ثَوَابِهِ وَأَجْرِهِ وَقَدْ رَتَّبْتُكَ بِأَسْبَابِهِ وَقَدْ رَتَّبْتُكَ لِمَوْلَاهُ

ثواب و اجر کے اور مطابق ان کی مباشرت اسباب کے اور اپنے مولیٰ کی عبادت کے

فِي لَيْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

شہائے تارک میں ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَعْبُدِهِ لِمَوْلَاهُ فِي نَهَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

پہر مطابق ان کی عبادت مولیٰ کے روشن دنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ شُغْلِهِ بِرَبِّهِ فِي سَفَرِهِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق ان کی مشغولیت کے ساتھ اپنے رب کے اور ان اپنے سفر کے۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ شُغْلِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان مشغولیت کے ساتھ اپنے

بِرَبِّهِ فِي قَرَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رب کے اپنے زمانہ قرار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ الْوَهَيْتِكَ الْعَامَّةِ الشَّامِلَةِ الَّتِي لَا شَرِيكَ

کی آل پر مطابق اپنی الوہیت عامہ شاملہ کے جس میں کوئی شریک نہیں ہے

لَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

قَدْرَ كُلِّ شَيْءٍ ذَرَّةً ذَرَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق ہر شئی کے ذرہ ذرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عِزَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اپنی عزت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ غَلْبَتِكَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اپنے غلبہ کے۔ اے اللہ

بِتَلَاؤِ نُورِهَا بِهَاءِ حُجْبِ عَرْشِكَ مِنْ أَعْدَائِي اِحْتَجَبْتُ وَ

بوسیدہ تیرے حجابات عرش کے روشن نور کی چمک کے میں نے اپنے اعداء سے پردہ حاصل کیا اور

بِسَطْوَةِ الْجَبْرُوتِ مِمَّنْ يَكِيدُنِي تَحَصَّنْتُ وَبِحَوْلِ طَوْلِ جَوْلِ

بوسیدہ صفات جلال کے غلبہ کے میں نے تحفظ حاصل کیا فریب دینے والوں سے۔ اور بوسیدہ تیری شدید

شَدِيدُ قُوَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ اسْتَعَدَّتْ بِمَكْنُونِ السِّرِّ

قوت و قدرت کی قوت و طاقت اور جولانی کے ہر شیطان کے شر سے پناہ حاصل کی اور بوسیدہ تیرے

مِنْ سِرِّ سِرِّكَ مِنْ كُلِّ هَامَّةٍ تَخَلَّصْتُ وَتَحَصَّنْتُ يَا حَاهِلُ

الذخفی کے جو سر الاسرار سے ہے میں نے خلاصی پائی ہرزہریلے جانور سے۔ اور تحفظ حاصل کیا میں نے اے حامل

الْعَرْشِ عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ يَا حَابِسَ الْوَحْشِ يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ

عرش عرش کے اٹھانے والوں سے اے روکنے والے جنگلی جانوروں کے اے سخت گرفت والے

عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَرَأَيْتُ رَاحِسُ عَيْنِي مَنْ ظَلَمَنِي وَاغْلَبَ

میں نے تجھی پر توکل کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا روک دے مجھ سے مجھ پر ظلم کرنے والوں کو اور تو غالب ہو

عَلَى مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْدَابِنِ أَنَا وَرَسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

مجھ پر غلبہ پانے والوں پر "اللہ نے لکھ دیا ہے ضرور غالب رہوں گا میں اور میرے رسول بیشک اللہ تعالیٰ قوی

عَزِيزٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا

عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اور اللہ بہت عزت والا ہے اپنی تمام مخلوق سے

اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّنْ أَخَافُ وَأَحْدَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ بہت غالب ہے ان سے جن سے میں خوفزدہ ہوں اور ہراساں۔ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی رکھیں مجھ کو

هُوَ مُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

برحق مگر وہی جو روکنے والا ہے ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے مگر ساتھ اس کے اذن سے

مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ

فلاں بندے اور اس کے عساکر اور متبعین و ہادین جن و انس کے

وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا جَلَّ ثَنَاءُكَ

شر سے۔ اے اللہ تو میری پناہ بن ان تمام کے شر سے، بزرگ ہے ثنا تیری

وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تَفَعَّلْ مَا تَشَاءُ

اور عزت والا ہے پرلوسی تیرا اور بابرکت ہے نام تیرا اور نہیں مجھ کو برحق مگر تو، جو چاہے کرتا ہے



وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تو ہر چیز پر قدیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَصْلَاحِكَ فِي أُمُورٍ خَلَقْتَكَ

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اصلاح فرمانے امورِ خلاق کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْ رَغُفْرَانِكَ لِلْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق اپنی مخلوقات کی مغفرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَسْتَحْقَاقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر مطابق ان کے استحقاق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَغْفِرَتِكَ بِحَسَبِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی مغفرت اور باعتبار اپنی صنعت

عُفْرَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عفران کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رَكَبْرِيَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پر مطابق اپنی کبریائی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَكَمَالِ ذَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر مطابق اپنے کمال ذات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَشْرَافَةِ ذَاتِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی ذات مقدسہ کی شرافت

الْمُقَدَّسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرًا حَاطَتْكَ بِأَلْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

پر مطابق اپنے احاطہ کے ساتھ تمام اشیاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ صِفَاتِ حَيَاتِكَ الْقَدِيمِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی حیات قدیمہ کی صفات کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق

قِيَامِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی بقا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ ظُهُورِكَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق اپنے آیات بینات کے ظہور کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عِبَادِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر بمقدار اپنے ان بندوں کے

الَّذِينَ وَفَّقْتَ لَهُمُ الرُّجُوعَ إِلَيْكَ بَعْدَ حَوَاضَاتِ الْفِتَنِ

جنہیں تو نے توفیق بخشی اپنی طرف رجوع کی فتنوں میں داخل ہونے کے بعد۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْرَ رُبُوبِيَّتِكَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

مطابق اپنی ربوبیت خلائق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ رُبُوبِيَّتِكَ عَلَى سَائِرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی رب العالمین

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عِبُودِيَّتِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُمَّ

آل پر مطابق اپنی عبودیت کے سب مہاجرین کے ہاں۔ اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عِبُودِيَّتِكَ  
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی عبودیت کے

عَلَى جَمِيعِ الْأَنْصَارِ وَقَدْرَ قُدْرَتِكَ فِي خَيْرِ الْأَخْيَارِ مِنْ جَمِيعِ

تمام انصار کے ہاں اور مطابق اپنی قدرت کے بہتر لوگوں کی خیر رسائی پر تمام  
الْأَضْرَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي أَثْبَتَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِ  
نقصانات سے۔ اے اللہ تو ہی وہ مومن ہے جس نے ثابت کیا ہے ایمان کو اہل عرفان

أَهْلِ الْعُرْفَانِ وَأُظْهِرْتَ الْإِيْمَانَ عِنْدَ ظُهُورِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ  
کے قلوب میں اور ظاہر کیا ہے ایمان کو امن و امان کے ظہور

وَرَبَّقْتَ الْإِسْتِقَامَةَ لِمَنْ صَحَّتْ لَهُ الْإِقَامَةُ فِي دَارِ

کے وقت اور تو نے ہی استقامت عطا فرمائی انہیں جن کے لیے درست ہو گئی دار  
الرِّضْوَانِ وَأَعْطَيْتَهُمُ الْأَمَانَ مِنْ تَغْيِيرَاتِ الْحَدَثَانِ وَ

رضوان میں اقامت اور تو نے ہی انہیں امان دی تغیرات حوادث سے اور  
أَحْرَزْتَهُمْ مِنْ غَوَايِلِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَقْدِرُ فِي صِحَّةِ الْإِيْمَانِ

پناہ دی شیطانی ہلاکتوں سے جو نقص پیدا کرتا ہے صحیح ایمان میں  
بِسَبَبِ عَطَاكَ لِيْمَانِ وَبِرَّهَانِ سَاطِعِ جُودِكَ وَأَبْرَهَانِ وَطَهَّرْتَهُمْ مِّنْ

ہوا جس کے موجب اسباب اور خیالات فاسدہ سے اور بلند کیا انہیں سلبی عوارض کی قبولیت سے  
هَوَاجِسِ دَوَاعِي النَّزَالِاتِ وَرَفَعْتَهُمْ عَنِ قُبُولِ عَوَارِضِ السَّلْبِيَّاتِ

سَلِّكَ اللَّهُمَّ بِجَمِيعِ مَا فِي غَيْبِكَ مِنْ حَقَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ وَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ بظہیر ان حقائق علمیہ اور دقائق ارادیہ کے



الدَّقَائِقِ الْإِرَادِيَّةِ أَنْ تَجْعَلَنِي أَمِنًا مِنْ خَوْفِ النَّظْرِ الصُّورِيِّ

جو تیرے علم غیب میں ہیں کہ مجھے بے خوف بنا دے نظر صوری کے خوف سے

فِي مَقَامِ النَّفْعِ وَالضَّرْحَتِي أَقْبَلَ إِلَيْكَ فَارِغَ الْقَلْبِ طَيِّبِ

نفع و نقصان کے مقام میں تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہو سکوں سکون قلب اور پاکیزگی

النَّفْسِ وَاثِقًا بِمَوْعُودِ الرَّبِّ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ لِي

نفس کی حالت میں اپنے رب کے وعدہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ اے اللہ کہ بنا میرے

شَيْعًا أَتَمَسَّكَ بِهِ لِلْأَمْنِ مِنَ الْخَلْقِ وَاجْذِبْنِي إِلَيْكَ بِهَدَايَةِ

یہ ایسی چیز جس کے ساتھ چنگل ماروں مخلوق سے امن حاصل کرنے میں اور مجھے پھینچنے سے اپنی طرف

طَرِيقِ الْحَيَاةِ وَالْإِرْشَادِ لِسَبِيلِ النَّجَاةِ يَا مَنْ يَهْبُ الْكَثِيرُ وَ

حیات ابدیہ کی راہ دکھلا کر اور راہ نجات کی رہنمائی فرما کر اے کہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور

يَقْبَلُ الْقَلِيلَ وَتُحِبُّ الْإِحْسَانَ وَتَجُودُ بِالتَّفْضِيلِ عَلَى أَهْلِ

قلیل کو قبول فرماتا ہے، احسان کو پسند فرماتا ہے اور فضیلت و شرف کا جود فرماتا ہے اہل ایمان

الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِسَيِّدِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِكَ

اور اہل احسان پر۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ بظیفیل سید البشر اور شفیع

يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَحَبِيبِكَ الَّذِي بَعَثْتَهُ لِعِبَادِكَ يَوْمَ الْأَرْفَةِ

یوم محشر کے اور تیرے حبیب کے جنہیں تو نے مبعوث فرمایا منفعت عباد کے لیے قیامت کے دن

وَتَبَسُّطِ النَّفْعِ وَتَدْفَعُ الضَّرْسَ وَأَعِزَّنِي مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَأَكْرِمْنِي

اور تو ہی عام کرتا ہے منفعت کو اور دور فرماتا ہے ضرر کو مجھے بچالے ہر مصیبت سے اور مجھے عزت دے

بِخَيْرِ الْعَطِيَّةِ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ بِرَأْفَتِكَ سِرَّ الْبَلِيَّةِ فَأَنْتَ الْمُحْسِنُ لِكُلِّ

بہترین عطیہ کے ساتھ اور نازل فرما مجھ سے بظیفیل اپنی رافت کے معنی بلائیں پس تو ہی احسان فرمانے والا ہے

إِنْسَانٍ الْمُتَفَضِّلِ بِالْجُودِ وَالْإِحْسَانَ بِتَوَاتُرِ جُودِكَ قَبْلَ الدُّعَاءِ

ہر انسان پر اور فضل فرمانے والا ہے ساتھ جود و احسان کے تسلسل و تواتر کے طلب سے بھی پہلے



أَسْأَلُكَ بِجَمَالٍ وَجُهِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ أَنْتَ الَّذِي

میں تیرے جمال ذات کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فضل و کرم سے مشرف فرما، تو ہی ہے جو

تُجَبِّرُ الْكَسِيرَ وَتُنْقِمُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ وَقَدَّرْتَكَ نَافِذَةً فِي جَمِيعِ

ڈٹے ہوئے جوڑتا ہے اور انتقام لیتا ہے ہر متکبر سے۔ اور تیری قدرت موثر ہے تمام

الْجَبَابِرَةِ وَعِزَّتِكَ لِدَفْعِ ضَلَالِ الْمَتَكَاثِرَةِ أَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ

جباروں میں اور تیری عزت اور غلبہ ہی دور کرنے والا ہے ارباب کثرت کی گمراہی کو، تو ہی رب آخرت ہے

يَا جَبَّارٌ وَمَوْئِسُ الْأَبْرَارِ وَبَارَأَ الصَّغَارَ وَالْكِبَارَ وَمُصْلِحُ الْأُمُورِ

اے جبار۔ اے ابرار کے موئس اور چھوٹے بڑوں پر احسان والے اور خلائق کی اصلاح

الْخَلَائِقِ وَمُظْهِرُ سِرِّ الْحَقَائِقِ وَسَامِعُ الرِّقَائِقِ وَالذَّقَائِقِ

فرمانے والے اور اسرار حقائق کو ظاہر کرنے والے اور سننے والے زاریوں کے اور آہستہ کلاموں کے

أَسْأَلُكَ يَا جَابِرُ كُلِّ كَسِيرٍ وَنَاصِرَ الْأَوْلِيَاءِ بِلَا وَرَيْدٍ وَسَافِعَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے ہر ڈٹے کو جوڑنے والے اور مددگار دوستوں کے بغیر وزیر کے اور بلند کرنے والے

كُلِّ صَغِيرٍ وَحَقِيرٍ بِسِرِّ مَا أَوْدَعْتَهُ فِي جَبَلٍ رَحْمَتِكَ مِنْ جَلِيلٍ

ہر صغیر اور حقیر کے ساتھ اس راز کے جس کو دویعت فرمایا ہے تو نے اپنے جبل رحمت میں یعنی اپنی جلیل

قُوَّتِكَ وَعَظِيمِ مَغْفِرَتِكَ وَمَوَادِّ مَحَبَّتِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مُتَوَكِّلًا

توٹ اور عظیم مغفرت اور اپنے مواد محبت کے وسیلہ سے بنا دے مجھے متوکل

عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي نَاطِرًا إِلَيْكَ فِي جَمِيعِ بَوَاطِنِ أَعْمَالِي

اپنی ذات پر میرے تمام امور میں دیکھنے والا طرف تیرے اپنے تمام افعال و اقوال

وَأَقْوَالِي وَاجْعَلْ زِمَامِي بِيَدِكَ وَإِسْلَامِي عَلَيْكَ وَالتَّجَانِّيَ وَمَعَادِي

کے بواطن میں اور میری لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھ اور میری تابعداری کو اپنے لیے اور میری پناہ اور اتجاہ

إِلَيْكَ يَا مَنْ عَزَّ جَنَابُهُ عَنِ الْفَهْمِ وَالْإِدْرَاكِ وَتَعَالَى كِبَرِيَاءُهُ

کو طرف اپنے اے کہ جس کی بارگاہ بالاتر ہے فہم و ادراک سے اور بلند تر ہے کبریائی اس کی

عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْإِمْسَاكِ أَسْأَلُكَ بِزَوَائِدِ فَضْلِكَ وَفَوَائِدِ تَوَاطُرِ

آزادی اور بندش ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے فضل کے اثرات اور مسلسل نعمتوں

نِعْمَتِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي سَعَادَةَ كُلِّ سَعِيدٍ فِي دَارِ السُّرُورِ وَجَنِّبَنِي

کے فوائد کے کہ مجھے نصیب فرمائے ہر سعادت مند کی سعادت دار السرور میں۔ اور مجھے دور رکھے

شَقَاوَةَ كُلِّ شَقِيٍّ فِي دَارِ الْغُرُورِ وَخَصَّصْنِي بِشَهَادَةِ الشُّهَدَاءِ

ہر شقی کی شقاوت سے دار الغرور (دنیا) میں۔ اور مجھے مخصوص ٹھہرائے شہداء کی شہادت کے ساتھ

وَكُلِّ شَهِيدٍ عِنْدَ انْطِصَافِ انْوَارِكَ يَوْمَ الوَعِيدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُتَكَبِّرُ

اور ہر شہید کی شہادت کے ساتھ وقت پھیلنے تیرے انوار کے وعید کے دن میں۔ اے اللہ تو ہی مالک ہے کبریا

الْكَبِيرُ الْمُحِيطُ عِلْمُكَ وَقَدْ أُوجِدْتَ الْأَشْيَاءَ وَأَخْتَرَعْتَ

کا اور کبیر ہے جس کا علم محیط ہے اور تو نے ہی ایجاد فرمایا اشیاء کو اور اختراع کیا ان کی

صُورَهَا بَعْدَ بَسْطِ الْأَسْمَاءِ وَأَنْتَ الْجَامِعُ لِحَقَائِقِهَا فِي ظَاهِرِ

صور کو اسماء کے بسیط کے بعد اور تو ہی جمع کرنے والا ہے ان کے حقائق کو ارض و سما

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ نِعْمَتِكَ وَلَطَائِفَ كَرَمِكَ

کے ظاہر میں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری نعمتوں کا اور کرم کے لطائف کا

وَأَسْرَارَ حَقَائِقِكَ بِوَسْطَةِ جَرِيَانِ قَلْبِكَ أَنْتَ الْكَبِيرُ عَلَى

اور تیرے حقائق کے اسرار کا بواسطہ جاری ہونے تیرے قلم کے۔ تو ہی کبیر ہے

الْإِطْلَاقِ وَالْمَوْصُوفِ بِجَلَالِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُنْعَمِ بِالْعَطَايَا

علی الاطلاق اور اخلاق جلالیہ کے ساتھ موصوف ہے اور سرمدی عطیات کا انعام

السَّرْمَدِيَةِ اللَّهُمَّ أُرِيدُ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَيَّ ظَالِمٌ بِسُوءٍ وَلَا

فرمانے والا ہے۔ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کو مجھ تک برائی کے ساتھ رسائی نہ ہو اور نہ

يَسْطُوا عَلَيَّ مُتَكَبِّرِينَ بِجُورٍ وَأَجْعَلُ غَضَبِي لَكَ وَفِيكَ مَقْرُونًا

حملہ آور ہو مجھ پر کوئی متکبر ساتھ ظلم کے اور بنا میرے غضب کو من اپنی خاطر جو مقرون ہو



بِفَضْلِكَ لِنَفْسِكَ وَأَطْمَسُ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِي وَاشْدُدْ عَلَى

تیرے فضل کے ساتھ تیری ذات کی خاطر اور مسخ فرما میرے اعداء کے چہروں کو اور سختی فرما ان کے

قُلُوبِهِمْ وَأَضْرِبْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ

دلوں پر اور میرے اور ان کے درمیان ایسی دیوار قائم فرما جس میں دروازہ ہو جس کے اندرونی حصہ میں

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ إِنَّكَ شَدِيدُ الْبُطْحِشِ أَلِيمٌ

رحمت ہو اور بیرونی جانب میں عذاب ہو۔ بیشک تو سخت گرفت والا ہے اور المناک

الْعَذَابُ يَا سَمِيعُ أَنْتَ الَّذِي تَسْمَعُ السِّرَّ وَالنَّجْوَى وَأَنْتَ الَّذِي

عذاب والا ہے۔ اے سمیع تو ہی ہے جو سنا ہے لازوں اور سرگوشیوں کو۔ اور تو ہی

تَعْلَمُ الْحُكْمَ وَالتَّقْوَى وَأَنْتَ الَّذِي تُظَهِّرُ فِي قُلُوبِ أَحْبَابِكَ

جانتا ہے حکم اور تقویٰ کو۔ اور تو ہی ہے جو ظاہر فرماتا ہے اپنے احباب کے دلوں میں

سِرَّ التَّجَلَّى وَأَنْتَ الَّذِي تَعْلَمُ مَا هُوَ أَدْقُّ وَأَخْفَى وَتَرَى بَعْدَ عَيْنِكَ

اپنی تجلی کے راز کو۔ اور تو ہی جانتا ہے باریک ترین اور مخفی ترین امور کو۔ اور دیکھتا ہے ساتھ اس آنکھ

الَّتِي لَا تَنَامُ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ دَبِيبُ النَّمْلَةِ السُّودَاءِ عَلَى صَخْرَةٍ

کے جو نہیں سوتی اور نہیں مخفی تجھ پر سیاہ چیموٹی کا ریگنا سخت پتھر پر

الصَّمَاءِ فِي لَيْلَةٍ الظُّلُمَاءِ تَحْتَ طَبَقَاتِ الْغُبَاءِ أَسْأَلُكَ

تاریک رات میں زمین کے طبقات کے نیچے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِلَطَائِفِ مَا أَدْرَجْتَ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَدَقَائِقِ مَا كَتَمْتَ

بطیفیل ان لطائف کے جنہیں تو نے ودیعت فرمایا ہے سمع و بصر میں اور بطیفیل ان دقائِق کے

فِي الْبَصَرِ لِيَقَعَ مَوْقِعَ السَّمْعِ وَبِسَوَابِقِ مَا أَخْفَيْتَ فِي السَّمْعِ

جنہیں چھپایا ہے تاکہ سمع کی جگہ کام دے سکے بوسیلہ ان سابقہ عطیات جن کو چھپایا ہے سمع میں

لِيَقُومَ مَقَامَ الْبَصَرِ أَنْ تَرْتُقِنِي الْأَسْرَارَ الْمُنْدَرِجَةَ فِي إِحَاطَةِ

تاکہ بصر کے قائم مقام ہو سکے کہ مجھے عطا فرمائے وہ اسرار جو درج ہیں احاطہ بصر میں



الْبَصْرِ وَمُشَاهِدَةَ الْأَنْوَارِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ احْتِوََاءِ الْبَصْرِ بِالسَّمْعِ

اور مشاہدہ عطا کرے ان انور کا جو مقرر و ثابت ہیں وقت احاطہ کرنے بصر کے سمع کا اور

وَأَرْزُقْنِي بِنُورِ نَيْتِكَ وَضَوْحِ سِرِّ أَمَانِيَّتِكَ وَذَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ لَهَا

مجھے نصیب فرما بطفیل اپنی نورانیت کے وضاحت سرمانت کی اور دائمی مراقبہ ان امور کا جن کا

تُرِيدُ عَلَيَّ قُدْسِكَ الْأَعْلَى وَإِدْرَاكَكَ الْمَحِيْطِ بِجَوَامِعِ الْأَسْمَاءِ وَ

تو ارادہ رکھتا ہے اپنے اعلیٰ مقدس مقام میں اور اپنے علم میں جو محیط ہے اسماء جامعہ کو اور

أَيِّدُنِي عَلَى فَهْمِ مَطَالِبَةِ النَّفْسِ بِدَفِيقِ الْمُحَاسَبَةِ إِنَّكَ جَامِعٌ

میرے اعانت فرما نفس کے مطالبہ کو سمجھنے میں ساتھ گہرے محاسبہ کے۔ بیشک تو ہر خیر کا جامع

كُلِّ خَيْرٍ وَدَافِعُ كُلِّ ضَيْرٍ يَا مُجِيبُ أَنْتَ الَّذِي تُجِيبُ دَعْوَةَ

ہے اور ہر ضرر کو دور کرنے والا ہے۔ اے قبول کرنے والے تو ہی قبول فرماتا ہے

الْمُضْطَرِّينَ وَأَنْتَ الَّذِي تُغَيِّثُ الْمَلْهُوفِينَ وَأَنْتَ الَّذِي تُبَدِّلُ

بے بسوں کی دعائیں اور تو ہی امداد فرماتا ہے پریشان حالوں کی۔ اور تو ہی ذلیل فرماتا ہے

الْمُنْحَرِفِينَ عَنِ الْهُدَايَةِ وَأَنْتَ الَّذِي تَنْعَمُ بِمَجْلَدِ الْبِرِّ قَبْلَ

ہدایت سے منہ موڑنے والوں کو۔ اور تو ہی انعام فرماتا ہے بزرگتر نعمتوں کے ساتھ فناء سے پہلے

الْفَنَاءِ وَتَتَفَضَّلُ دَرَجَتِي فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَابْسُطْ قَلْبِي فِي أَرْضِ

ازرہ فضل عطا فرما درجہ مقام محمود میں اور وسعت دے میرے دل کو ولایت کبریٰ کی

الْوَلَايَةِ الْكُبْرَى وَأَنْشُرْ سِرِّي لِنَيْلِ حَقَائِقِ أَثَارِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَاجْعَلْنِي


زمین میں اور پھیلا میرے باطن کو اسماء حسنیٰ کے حقائق و آثار حاصل کرنے کیلئے اور نبی مجھے

مَبْسُوطًا بِالْإِنْفَاقِ مُتَصَرِّفًا فِي خَزَائِنِ الْأَرْزَاقِ يَا مَنْ بِيَدِهِ الْحُكْمُ

کشادہ دست خرچ کرنے میں، متصرف ارزاق کے خزانوں میں اے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے علم

عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعِنْدَهُ الْخَلَائِقُ يَا خَافِضُ أَنْتَ الَّذِي خَفَضْتَ رُتَبَ

مطلقاً اور اسی کے قبضہ میں ہے تمام مخلوقات۔ اے پست کرنے والے تو ہی ہے پست کیا ہے





أَهْلِ الْجُحُودِ فِي الدَّرَكَاتِ وَأَنْتَ الَّذِي تَقْبَعُهُمْ بِقَهْرِكَ وَصِفَاتِكَ

منکرین کے رتوں کو درکات جہنم میں اور تو ہی انہیں باز رکھتا ہے اپنے قہر اور اعلیٰ صفات کے

الْمِثْلَاتِ وَأَنْتَ الَّذِي تُعَزِّزُ عَلَيْهِمْ لِمَا أَوْجَدْتَهُمْ بِهِ عِنْدَ انْقِسَامِ

ساتھ اور تو ہی ان پر غلبہ پاتا ہے بسبب ان کو ایجاد کرنے کے ساتھ قہر وغلبہ کے وقت

الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ أَسْأَلُكَ بِسِرِّ الْأَسْرَارِ فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ وَ

تقسیم ہونے حسنات اور سیئات کے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل سرالاسرار کے جو ابرار

الْأَخْيَارِ وَبَنُو الْأَنْوَارِ الْمُنْبَسِطِ فِي الْأَقْطَارِ أَنْ تَجْعَلَنِي حَافِظًا

اور نیکو کاروں کے دلوں میں ہے اور بطفیل نور الانوار کے جو پھیلا ہے تمام اطراف جہان میں کہ مجھے اپنے نفس

لِنَفْسِي وَسِرِّي فِي مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ مُتَخَشَعًا لَكَ عِنْدَ ظُهُورِ

کامافظ بنا اور اپنے سر و باطن کا مقام عبودیت میں خشوع کرنے والا تیری ذات کے لیے وقت ظاہر ہونے

الْتِزَلَاتِ بِسِرِّ الرَّبُوبِيَّةِ وَالْخَطَابِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَأَرْزُقْنِي حَظًّا

مہمانیوں کے ساتھ سر ربوبیت اور انسانی مخاطبت کے اور مجھے نصیب فرما

وَأَفِرًّا مِّنَ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَذَلُّ الْمَجْبَرِيُّ

وافر حصہ معارف الہیہ سے۔ اے اللہ تو ہی ذلیل کرنے والا ہے جباروں کو

وَشَدِيدُ الْبَطْشِ وَالْيَمُّ الْآخِذُ وَعَظِيمُ الْقَهْرِ الْمُتَعَالِ عَلَى جَمِيعِ

سخت مواخذہ والا۔ اور دردناک گرفت والا، عظیم قہر والا اور بالاتر ہے تمام

الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ وَالْمُنْتَزِعُ عَنِ الصَّعَابَةِ وَالْأَوْلَادِ شَانِكَ قَهْرُ

اصداد اور مخالفوں سے اور پاک ہے اصحاب اور اولاد سے تیری شان اعداد کو

الْأَعْدَاءِ وَقَمِعَ الْجَبَّارِينَ تَمَكُّرًا بِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أَسْأَلُكَ

منغلوب کرتا ہے۔ اور جباروں کو روکتا، تو جس کے خلاف چاہے خفیہ تدبیر کرے اور تو بہترین خفیہ تدبیر والا ہے میں تجھ سے

بِاسْمِكَ الَّذِي خَضَعْتُ لَهُ التَّوَاصِي وَانزَلْتُ بِهِ مِنَ الصِّيَاصِي وَ

سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے طفیل جس کی پیشانیاں خم ہو گئیں اور انما انزل نے بسبب اس کے اعداد کو قلعوں سے اور

قَدَفْتُ بِهِ الرَّعْبَ فِي قُلُوبِ الْأَعْدَاءِ وَأَشْقَيْتَ أَهْلَ الشَّقَاءِ

ڈالا اس کے ساتھ قلوب اعداء میں رعب اور بدبخت بنایا اہل شقاوت کو

أَسْأَلُكَ أَنْ تُمِدَّ نِيَّ بِرَفِيقَةٍ مِنْ رَفَائِقِ هَذَا الْأَسْمِ وَأَنْ تُسْرِيَ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری امداد فرمائے اس اسم کے منافع میں سے ایک منفعت کے ساتھ اور اسے جاری

فِي أَعْضَائِي الْكَلْبِيَّةِ وَالْجُرْئِيَّةِ حَتَّى أَتَمَكَّنَ كَيْفَ مَا أُرِيدُ بِمَنْ

کرسے میرے تمام اعضاء کلبیہ اور جزمیہ میں حتیٰ کہ قادر ہو جاؤں جس طرح چاہوں (سلوک کرنا) اپنے

أَمَلٍ أَمَلًا إِلَى وَأَطَاعَ وَمَنْ سَكَنَ فِي مِصْرَ الْعَالِيَةِ أَوْ فِي قَرْيَةِ

ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والوں اور اطاعت گزاروں کے ساتھ اور بلند مرتبت مصر میں یا عبودیت کی بستی

الْعَبُودِيَّةِ اللَّهُمَّ بِسُطُورَةٍ جَبْرُوتٍ قَهْرِكَ وَبِسُرْعَةٍ إِغَاثَةٍ

میں سکونت پذیروں کے ساتھ۔ اے اللہ بظہیر اپنے جبروت قہر کے غلبہ کے اور فوری فریاد رس

نَصْرِكَ وَبِغَيْرَتِكَ لِأَنْتَ هَاكَ حُرْمَاتِكَ وَبِحِمَايَتِكَ لِمَنْ أَحْتَسِي

نصرت کے اور تنگ حرمت پر اپنی غیرت کے اور اپنی آیات کے ساتھ حمایت حاصل کرنے والوں کی حمایت

بِأَيَاتِكَ نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعَ يَا قَرِيبَ يَا مُجِيبَ يَا سَرِيعَ يَا

کے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ۔ یا سمیع۔ یا قریب۔ یا مجیب۔ یا سریع یا

مُنْتَقِمَ يَا شَدِيدَ الْبُطْحِ يَا جَبَّارَ يَا قَهَّارَ يَا مَنْ لَا يُعْجِزُهُ قَهْرُ الْجَبَابِرَةِ

منتقم۔ اے شدید گرفت والے۔ اے جبار۔ اے قہار۔ اے جس کو جباروں کا غلبہ عاجز نہیں کرتا

وَلَا يُعْظَمُ عَلَيْهِ هَلَاكُ الْمُتَمَرِّدَةِ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأَكَاْسِرَةِ أَنْ تَجْعَلَ

اور نہیں گراں گزرتی اس پر سرکشی ملوک اور اکاسرہ کی ہلاکت کہ بنا دے میرے ساتھ

كَيْدٍ مَنْ كَادَنِي فِي نَحْرِهِ وَمَكْرٍ مَنْ مَكَّرَنِي عَائِدًا عَلَيْهِ وَحُفْرَةً مَنْ

مکر کرنے والے کا مکر اسی کے سینہ میں۔ اور میرے ساتھ مکر کرنے والے کے مکر کو اسی پر لوٹنے والا۔ اور میرے لیے گڑھا

حَفَرَلِيَّ وَاقْعَافِيهَا وَمَنْ نَصَبَ لِي شُبْكَةَ الْخَدَايِعِ اجْعَلْ فِيهَا

کھودنے والے کو اپنے گڑھے میں گرنے والا۔ اور جس نے میرے لیے دھوکا بازی کا جال نصب کیا اسے اسی میں پھنسا

يَا سَيِّدِي وَمُسَاقَا إِلَيْهَا وَمُصَادًا فِيهَا وَإِسِيرًا لِدَيْهَا اللَّهُمَّ بِحَقِّ

اے میرے آقا، اسی کی طرف چلایا ہوا، اسی میں شکار اور اسیر کیا ہوا بنا۔ اے اللہ بظیفیل

كَهَيْعَصَ أَكْفَنَاهُمْ الْعُدَا وَنَقَّهْمُ الرِّدَا وَاجْعَلْهُمْ لِكُلِّ حَبِيبٍ فِدَاً

کھینچو یہیں اعداء کے ارادوں سے کفایت فرما اور ان کیلئے ہلاکت کو خالص فرما، اور انہیں اپنے ہر حبیب پر فدا فرما

وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ أَجَلَ النَّقْمَةِ فِي الْيَوْمِ وَالْغَدِ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ

اور ان پر سخت ترین انتقام مسلط فرما آج بھی اور کل بھی۔ اے اللہ ان کی جمعیت کو پرگندہ فرما

اللَّهُمَّ فَزِّقْ جَمْعَهُمُ اللَّهُمَّ أَقْلِلْ عَدَدَهُمُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الدَّائِرَةَ

اے اللہ ان کے اجتماع کو فرقت میں بدل۔ اے اللہ ان کی تعداد کم کر۔ اے اللہ ان پر ہلاکت

عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ أَوْصِلِ الْعَذَابَ إِلَيْهِمُ اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُمْ عَنْ دَائِرَةِ

مسلط فرما۔ اے اللہ عذاب کو ان تک واصل فرما۔ اے اللہ ان کو باہر نکال دائرہ علم

الْحِلْمِ واقْطَعْ عَنْهُمْ مَدَدَ الْإِمْهَالِ وَعَلَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ

اور ان سے قطع فرما مہلت دینے والی مدد۔ ان کے ہاتھ جکڑ۔ ان کے دلوں پر پردے ڈال۔

وَلَا تَبْلِغْهُمْ الْأَمْوَالَ اللَّهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مَزِّقٍ كَمَا مَزَّقْتَ

اور انہیں تکمیل آرزو تک نہ پہنچنے دے۔ اے اللہ ان کو ممکن حد تک ریزہ ریزہ کر دے جیسے کہ تو نے ریزہ ریزہ کیا

أَعْدَانِكَ انْتِصَارًا إِلَّا أَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلِكَ وَأَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ

اپنے اعداء کو اپنے انبیاء و رسل اور اولیاء کا بدلہ لینے کے لیے۔ اے اللہ

انْتِصَرْنَا انْتِصَارَكَ لِأَحْبَابِكَ عَلَى أَعْدَانِكَ اللَّهُمَّ لَا تُنَكِّرَنَّ

ہمارا بدلہ لے مانند بدلہ لینے واسطے اپنے احباب کے اپنے اعداء سے۔ اے اللہ نہ قدرت دے

الْأَعْدَاءَ فِينَا وَلَا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ

اعداد کو ہم پر اور نہ سلط فرما ہم پر بسبب ہمارے گناہوں کے۔ حم۔ حم۔ حم۔

حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ حَمْزٌ

حم۔ حم۔ حم۔ امر کا فیصلہ ہو چکا اور مدد آئنی پس وہ ہم پر مدد نہیں دے جائیں گے

خَمَسَقَ حِمَايَتِنَا مَبَانِخَافِ اللَّهُمَّ اعْطِنَا أَمَلَ الرَّجَاءِ وَ

خَمَسَقَ ہماری حمایت ہے ہر اس شئی سے جس کا ہمیں خوف ہے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری امید و رجاء اور  
فَوْقَ الْأَمَلِ وَالْعَطَاءِ وَفَوْقَ الْعَطَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَاحِبُ  
امید سے زائد۔ عطا فرما اور اس عطا سے زائد، نہیں معبود برحق مگر تو صاحب عطیہ

الْعَطِيَّةِ الْإِلَهِيِّ حَقَّقْ بَاطِنِي بِسِرِّ هُوِيَّتِكَ وَأَفِنِّ مِنِّي أَنَا نَبِيَّتِي

اے میرے اللہ میرے باطن کو پائیدار بنا اپنے سر ہویت کے ساتھ اور نفا فرما مجھ سے میری ناپائید  
إِلَى أَنْ أَصِلَ إِلَى هُوِيَّةِ ذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  
حتیٰ کہ میں واصل ہو جاؤں تیری ذات عالی کی ہویت تک اے کہ جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے

أَفِنِّنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِ ذَاتِكَ وَخَفِّفْ عَنِّي ثِقَلَ كَثَائِفِ

مجھے فانی کر دے اپنی ذات کے علاوہ ہر شئی سے۔ اور ہلکا کر دے مجھ سے موجودات کی کثافتوں کا  
الْمَوْجُودَاتِ وَأَمِّهِ مِنِّي نَقْطَةَ الْغَيْرِيَّةِ لَا شَاهِدَكَ وَلَا أَسْرِي

بروجھ اور مجھ سے محو کر دے غیریت والا نقطہ تاکہ میں بچھ دیکھوں اور غیر کو نہ دیکھ سکوں  
غَيْرِكَ يَا هُوِيًّا هُوًّا لَا سِوَاكَ مَوْجُودًا لَا سِوَاكَ مَعْبُودًا لَا سِوَاكَ

یا ہو۔ یا ہو۔ نہ تیرا غیر موجود ہے۔ نہ تیرا غیر لائق عبادت ہے۔ نہ تیرا غیر مقصود  
مَقْصُودًا يَا وَجِدًا الْوَجُودِ وَيَا وَاجِبَ الْوُجُودِ يَا مَنْ بِفَضْلِهِ

ہے۔ اے وجود کو موجود کرنے والے۔ اے بقا خائے ذات موجود ہونے والے۔ اے کہ جس کے فضل سے  
لِفَضْلِهِ نَسَأَلُكَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْإِلَهِيِّ الْإِجَابَةِ الْإِجَابَةَ يَا

مَنْ أَجَابَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ وَيَا مَنْ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى أَعْدَائِهِ وَ  
جس نے دعائے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں قبول کیا۔ اے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اعداء پر مدد دی  
يَا مَنْ رَدَّ يُوْسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ وَيَا مَنْ كَشَفَ ضُرَّ أَيُّوبَ وَ

اے کہ جس نے یوسف کو یعقوب علیہ السلام پر لوٹایا۔ اے کہ جس نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی

يَا مَنْ اجَابَ دَعْوَةَ زَكْرِيَا وَيَا مَنْ قَبِلَ تَسْبِيحَ يُونُسَ بْنِ مَثَى

اے کہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اے کہ جس نے یونس بن مثنیٰ علیہ السلام کی تسبیح قبول کی

نَسَأَلُكَ بِأَسْرَارِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ أَنْ تَتَقَبَّلَ مَا بِهِ دَعْوَتُكَ

جب بھی ہم تجھ سے سوال کریں ان دعوات کے اسرار کے طفیل قبول فرما جو میں تجھ سے دعا کروں۔

وَأَنْ تُعْطِيَنَا مَا سَأَلْنَاكَ أَنْجِزْ لَنَا وَعْدَكَ الَّذِي وَعَدْتَهُ لِعِبَادِكَ

اور عطا فرما جو ہم تجھ سے سوال کریں، پورا فرما ہمارے لیے اپنا وعدہ جو تو نے اپنے

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ

اہل ایمان بندوں جنوں اور انسانوں مردوں اور عورتوں سے کیا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ

تُنْجِزْ لَنَا وَقَدْ انْقَطَعَتْ أَمَانُنَا وَعِزَّتْكَ إِلَّا مِنْكَ وَخَابَ رَجَائُنَا وَ

پورا فرما ہمارے لیے جبکہ منقطع ہو چکی ہیں ہماری امیدیں مگر صرف تجھ سے تیری عزت کی قسم اور ناکام رہی ہماری امید

حَقِّكَ إِلَّا فِيكَ إِنْ أَبْطَأَتْ غَارَةُ الْأَرْحَامِ وَابْتَعَدَتْ فَأَقْرَبُ الشَّيْءِ

تیرے حق کی قسم مگر تجھ میں۔ اگر مؤخر ہوئی ارحام کی امداد اور بعید ہو گئی تو قریب ترین شئی

مِنَّا غَارَةُ اللَّهِ يَا غَارَةَ اللَّهِ جَدَى السَّيْرِ مُسْرَعَةً فِي حِلِّ عُقْدَتِنَا

ہم سے اللہ تعالیٰ کی امداد ہے۔ اے امداد خداوند تعالیٰ اپنی رفتار میں کوشش کر جلدی کرتے ہوئے ہمارے عقد سے حل

يَا غَارَةَ اللَّهِ تَعْدَى الْعَادُونَ وَجَارُوا وَرَجَوْنَا اللَّهُ مُجِيرًا وَكَفَى

کرنے میں۔ اے امداد باری تعالیٰ تجاوز کیا دشمنوں نے اور جوڑے کام لیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی امید رکھی کافی ہے

بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اللہ تعالیٰ مددگار ہونے کی حیثیت سے اور کافی ہے ناصر ہونے کی حیثیت سے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

لَطَائِفَ بَرَكَاتِكَ وَتَوَاتُرَ احْسَانِكَ لِتُكَمِّلَ بِهَا نَفْسِي فِي الْأَفْعَالِ

تیرے احسان کے لطائف اور تواتر کاتما کہ میری ذات کو کامل کرے افعال میں اور

وَتُكَمِّلَ بِهَا لِسَانِي فِي الْأَقْوَالِ اسْتَجِبْ لَنَا أَمِينَ اللَّهُمَّ

میرے زبان کو کامل کرے میرے اقوال میں۔ قبول فرما ہماری دعا، آمین۔ اے اللہ

إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا أَشْقِيَاءَ فَامُحْهُ وَاكْتُبْنَا سَعْدَاءَ وَإِنْ كُنْتَ

اگر تو نے ہمیں شقی لکھا ہے تو اسے محو فرما اور ہمیں سعادت مند لکھ اور اگر تو نے

كَتَبْتَنَا سَعْدَاءَ فَاثْبُتْنَا فَإِنَّكَ تَهْجُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ

ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اس پر ثابت قدم رکھ کیونکہ تو جو چاہے محو فرماتا ہے اور جو چاہے ثابت رکھتا

أَمْرُ الْكِتَابِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شَقْوَةً أَوْ ذَنْبًا فَامُحْهُ

ہے اور تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بد بختی لکھی ہے یا گناہ تو اسے مٹا دے

فَإِنَّكَ تَهْجُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَاجْعَلْهُ

کیونکہ تو مٹاتا ہے جو چاہے اور ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے اور اس شقاوت

سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَالْإِيمَنِ عَلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ

وگناہ کو سعادت و مغفرت بنا دے۔ اے اللہ، اے احسان والے، اے کرم پر احسان نہیں کیا جاسکتا۔ اے جلال

وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الطُّوْلِ وَالْإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهِيرُ الدَّالِّجِينَ

و اکرام والے، اے وسعت و اکرام والے۔ نہیں معبود برحق مگر تو، مددگار پناہ پہنچانے والوں کا۔

وَجَارِ الْمُسْتَجِيرِينَ وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي

اور پناہ پناہ حاصل کرنے والوں کا اور امان خوفزدگان کی۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے ہاں

عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مُحْرَمًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًا

ام کتاب میں شقی یا محروم یا مردود یا تنگ روزی والا لکھا

عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامُحْهُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاؤَتِي وَحَرَمَانِي

ہے تو اس کو محو فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے میری بد بختی اور

وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي أَمْحَهَا وَاثْبُتْنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ

محرومی۔ دور انگندگی اور رزق کی تنگی کو مٹا اور مجھے اپنے ہاں ام کتاب میں

سَعِيدًا أَمْرًا وَمَوْفِقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ

نیک بخت، کشادہ روزی والا اور خیرات کا توفیق یافتہ لکھ کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول برحق ہے

فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُوا اللَّهُ مَا

اپنی کتاب میں جو نازل شدہ ہے تیرے نبی مرسل کی زبان پر "مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ

يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ إِلَهِي بِالتَّجَلِّيِ الْأَعْظَمِ

جسے چاہے اور ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ہے ام الکتاب۔ اے میرے الہ بظننیل تجلی اعظم

فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ

شعبان مکرم کی پندرھویں رات والی کے جس کے اندر ہر حکمت والے امر کو تقسیم کیا جاتا ہے دکارکنان

حَكِيمٍ وَيُرْمَرُ أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا

تفصلاً و قدر میں اور حتیٰ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دور فرمادے ہم سے ان بلیات کو جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور

أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی بہت عزت و اکرام والا ہے۔ اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أُنِّي بِالْجَهَالَةِ

محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور سلام بھیجے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جہالت کے ساتھ

مَعْرُوفٌ وَأَنْتَ بِالْعِلْمِ مَوْصُوفٌ وَقَدْ وَسَّعْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ

معروف ہوں اور تو علم کے ساتھ موصوف ہے اور تو نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شئی کا

جَهَالَتِي بِعِلْمِكَ فَسَعُ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ كَمَا وَسَّعْتَ بِعِلْمِكَ

میری جہولت میں سے اپنے علم کے ساتھ پس اس کا احاطہ فرما ساتھ رحمت کے جیسے علم کے ساتھ احاطہ

وَاعْفِرْ لِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اللَّهُ يَا مَالِكُ يَا وَهَّابُ

فرمایا ہے اور میرے لیے مغفرت فرمائیے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ۔ یا مالک، یا وہاب

هَبْ لَنَا مِنْ نِعْمَائِكَ مَا عَلِمْتَ فِيهِ رِضَاكَ وَاكْسِنَا كِسْوَةَ

ہمیں عطا فرما اپنی نعمتوں سے جن میں تیری رضا ہو۔ اور ہمیں پہنا وہ پریشاک کہ بجائے

تَقِينَا بِهَا مِنَ الْفِتَنِ فِي جَمِيعِ عَطَايَاكَ وَقَدْ سَأَلْنَا بِهَا عَنْ كُلِّ

ہمیں اس کے ذریعے فتنوں سے اپنی تمام عطاؤں میں اور پاک فرما بسبب اس کے ہر

وَصِفِ يُوجِبُ نَقْصًا مِمَّا اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

موجب نقص وصف سے جس کے علم کے ساتھ تو ہی ممتاز ہے اپنے ماسوا سے

يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيرُ نَسْأَلُكَ الْفَقْرَ مِمَّا سِوَاكَ وَالْغِنَى

یا اللہ - یا عظیم - یا علی - یا کبیر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ماسوا سے فقر کا اور تیری بدولت غنا کا

بِكَ حَتَّى لَا تَشْهَدَ إِلَّا رَأْيَاكَ وَالطُّفَّ بِمَا فِيهَا لَطْفًا حَتَّى عَلِمْتَهُ وَ

حتی کہ ہم نہ مشاہدہ کریں مگر صرف تیرا اور لطف و کرم فرما ہم پر فقر و غنا میں میری غایت علم تک کا لطف

أَصْلِحْ لِمَنْ وَالَاكَ وَاكْسِنَا جَلَابِيبَ الْعِصْمَةِ فِي الْأَنْفَاسِ وَ

اور اصلاح فرما اپنے محبت والوں کی اور ہمیں پہنا عصمت والی کھلی چادریں ہر دم اور ہر

اللَّحْظَاتِ وَاجْعَلْنَا عِبِيدًا لَكَ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ وَعَلِّمْنَا

لحظہ میں - اور ہمیں اپنا بندہ بنا تمام احوال میں - اور ہمیں سکھلا

مَنْ لَدُنْكَ عِلْمًا نَصِيرًا بِهِ كَامِلِينَ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ

اپنے پاس سے علم جس کی بدولت ہم ہو جائیں کامل زندگی اور موت میں - اے اللہ

أَنْتَ الْحَمِيدُ الرَّبُّ الْبَجِيدُ فَعَالَ لِمَا تُرِيدُ تَعْلَمُ فَرَحَنَا بِمَاذَا

تو ہی لائق حمد، پروردگار، بزرگ ہے، کرتا ہے جو ارادہ کرے، تو جانتا ہے ہماری فرحت کس چیز سے ہے

وَلِمَاذَا وَعَلَى مَاذَا وَتَعْلَمُ حُزْنَنا كَذَلِكَ وَقَدْ أَوْجِبْتَ كَوْنُ

اور کس لیے ہے اور کس بنا پر ہے، اور ایسے ہی ہمارے اندر وہ علم کو بھی جانتا ہے اور تو نے ہی اسے لازم کیا

مَا أَرَادْتَهُ فِينَا وَمِمَّا وَلَا نَسْأَلُكَ دَفْعَ مَا تُرِيدُ وَلَكِنْ

پیدا فرما جس کا تو نے ہم میں اور ہم سے ارادہ کیا اور ہم نہیں سوال کرتے تیرے ارادہ کے روکنے کا لیکن

نَسْأَلُكَ التَّائِيدَ بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِكَ فِيهَا تُرِيدُ كَمَا أَيَّدْتَ أَنْبِيَاءَكَ

ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تقویت دینے کا ساتھ اپنی مخصوص روح کے اس میں جس کا ارادہ فرمائے جیسے کرتے

وَرُسُلَكَ وَخَاصَّةً الصِّدِّيقِينَ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

تقویت دی اپنے انبیاء و رسل کو اور اپنی مخلوق میں سے صدیقین کو، بے شک تو ہر شئی پر قادر ہے





قَدِيرُ اللَّهِ فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ہے۔ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، جاننے والے غیب و شہادت کے

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَهَيِّئْ لَنَا مِنْ عَرْفِكَ وَرِضَى بِقَضَائِكَ

تو ہی حکم و فیصلہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ مبارکبادی ہے اس کیلئے جس نے تجھے سچا یا اور راضی

وَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْكَ بَلِ الْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لِمَنْ أَقْرَأَ

ہو اتیری تضا پر۔ اور ہلاکت ہے اس کیلئے جس نے تجھے نہ پہچانا بلکہ ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے

بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ بِأَحْكَامِكَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ

تیری وحدانیت کا اقرار کیا اور تیرے احکام پر راضی نہ ہوا۔ اے اللہ بے شک ایک قوم کو تو نے

حَكَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالذُّلِّ حَتَّى عَزُّوا وَحَكَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْفَقْدِ

حکم فرمایا خاکساری کا یہاں تک کہ انہوں نے عزت پائی اور حکم فرمایا ان پر قلت و کمی کے ساتھ

حَتَّى وَجَدُوا فِكْلًا عَزِيْزًا مِّنْ دُونِكَ فَتَسْأَلُكَ بَدَلَهُ ذُلًّا تَصْحَبُهُ

یہاں تک کہ انہوں نے مال پا لیا۔ پس ہر عزت جو رو کے تجھ سے تو ہم اس کے عوض خاکساری طلب کرتے

لَطَائِفِ رَحْمَتِكَ وَكُلُّ وَجْدٍ يَّحْجُبُ عَنْكَ فَتَسْأَلُكَ عَوْضَهُ

جس کے مصاحب ہوں تیرے لطائف رحمت اور ہر وسعت جو رو کے تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس کے عوض

فَقَدْ اتَّصَحَبَهُ أَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَتِ الشَّقَاوَةُ عَلَى

قلت و تنگدستی کا جس کے ساتھ تیرے انوار محبت ہوں۔ پس تحقیق ظاہر ہوئی شقاوت اس پر

مَنْ غَيْرِكَ مَلَكَةٌ فَهَبْ لَنَا مِنْ مَّوَاهِبِ السُّعْدَاءِ وَأَعْصِنَا مِنْ

جس کا مالک ہو اتیرا عزیز۔ پس ہمیں عطا فرما نیک بختوں کے مواہب سے اور محفوظ فرما ہمیں

مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ عَجَزْنَا عَنْ دَفْعِ الضَّرِّ عَنْ

بدبختوں کے مقامات سے۔ اے اللہ ہم عاجز آچکے ہیں اپنے نفسوں سے مضر دور

أَنْفُسِنَا مِنْ حَيْثُ نَعْلَمُ بِمَا لَا نَعْلَمُ فَكَيْفَ لَا نَعْجُزُ عَنْ ذَلِكَ

کرنے سے جہاں سے جانتے ہیں بسبب اس کے جو نہیں جانتے۔ تو کیسے عاجز نہیں ہونگے اس سے

مِنْ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ وَقَدْ أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا وَ

جہاں کہ نہیں جانتے اور تو نے ہمیں امر فرمایا اور نہی فرمائی اور

الْمَدْحَ وَالذَّمَّ الزَّمَمْنَا فَأَخُو الصَّلَاحِ مَنْ أَصْدَحْتَهُ وَأَخُو

مدح و خدمت کو ہمارے ساتھ لازم فرمایا بہتری والا وہی ہے جس کی تو اصلاح فرمائے اور

الْفَسَادِ مَنْ أَضَلَّتَهُ وَالسَّعِيدُ حَقًّا مَنْ أَغْنَيْتَهُ عَنِ السُّؤَالِ

فساد والا وہ ہے جس کو تو گمراہ کرے اور کما حقہ نیک بخت وہ ہے جس کو تو سوال سے بے نیاز کرنے

مِنْكَ وَالشَّقِيُّ حَقًّا مَنْ أَحْرَمْتَهُ مَعَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ لَكَ

اور کما حقہ بد بخت وہ ہے جسے محروم رکھے بکثرت تجھ سے سوال کرنے کے باوجود

فَأَغْنَيْنَا بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِنَا مِنْكَ وَلَا تَحْرِمْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ

پس ہمیں بے نیاز کر دے اپنے فضل سے اپنے سوال سے اور نہ محروم فرما ہمیں اپنی رحمت سے

مَعَ كَثْرَةِ سُؤَالِنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا شَدِيدُ

باوجود کثرت سوال کے اور ہمیں بخش۔ بے شک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے سخت

الْبَطْشِ يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا حَكِيمُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

گرفت والے۔ اے جبار قہار۔ اے حکیم، ہم پناہ طلب کرتے ہیں تیری مخلوق کے شر سے

خَلَقْتَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةٍ مَا أَبْدَعْتَ وَنَعُوذُ بِكَ

اور ہم پناہ طلب کرتے ہیں تیری ایجادات کی ظلمت سے۔ اور پناہ طلب کرتے ہیں

مِنْ كَيْدِ النَّفْسِ فِيمَا قَدَرْتَ وَأَرَدْتَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

نفس کے مکر سے ان امور میں جن کی تقدیر اور ارادہ فرمایا تو نے۔ اور پناہ طلب کرتے ہیں تیرے

الْحُسَادِ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ وَنَسْأَلُكَ عِزَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا

افادات پر حسد کرنے والوں کے شر سے اور سوال کرتے ہیں دنیاوی عزت کا جیسے کہ

سَأَلْتَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِزَّ الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ

سوال کیا تجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی عزت کا ساتھ ایمان

وَالْمَعْرِفَةَ وَعِزَّ الْآخِرَةِ بِاللِّقَاءِ وَالْمُشَاهَدَةَ إِنَّكَ سَمِيعٌ

و معرفت کے اور اخروی عزت کا ساتھ ملاقات اور مشاہدہ کے بیشک ترسننے والا

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۙ اللَّهُمَّ إِنِّي أَقْدِمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ كُلِّ نَفْسٍ

قرب اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں ہر سانس اور

وَلِحُظَّةٍ وَوَلْمَحَّةٍ وَطَرْفَةٍ يُّطْرَفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ

ہر لحظہ اور آنکھ جھپکنے اور گھلنے سے پہلے جسے کھلیں اہل سموات یا اہل

الْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ ۙ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَأَنَّ أَوْفَدًا كَانَ أَقْدِمُ إِلَيْكَ

ارض اور ہر وہ شئی جو تیرے علم میں پیدا ہونے والی ہے یا موجود ہو چکی ہے

بَيْنَ يَدَيَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ۗ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۗ الْآيَةُ ۗ

ان تمام سے پہلے پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں (تیرا ہی یہ قول) اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم الایۃ

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِبَسْطِ يَدَيْكَ وَكَرَمِ وَجْهِكَ وَنُورِ عَيْنِكَ وَ

میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے ہاتھوں کی فراخی اور تیرے کرم ذات اور نور عین اور

كِمَالِ أَعْيُنِكَ أَنْ تُعْطِينَا خَيْرَ مَا نَقَدْتُ بِهِ مَشِيئَتِكَ وَتَعَلَّقْتُ

کمال نگاہ کی کہ ہمیں عطا فرمائے خیر ہر اس شئی کی کہ نافر کیا اسے تیری مشیت نے اور متعلق ہوئی

بِهِ قُدْرَتِكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَآلِفْنَا شَرْمًا

اس کے ساتھ قدرت تیری اور جاری ہوا ساتھ اس کے تیرا قلم تقدیر اور محیط ہوا اسے تیرا علم اور کفایت فرما ہمیں ان کے

هُوَ ضِدُّ لَذَلِكَ وَآلَمُ دِينِنَا وَأَتَمُّ عَلَيْنَا نِعْمَتِكَ وَهَبْ

افضاد کے شریکے اور ہمارے دین کو کامل فرما اور ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما اور عطا فرما

لَنَا حِكْمَةَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ مَعَ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالْمَوْتَةِ الْحَسَنَةِ

حکمت بالغہ سے حکمت مع حیات طیبہ اور ممات حسنہ کے

وَتَوَلَّ قَبْضَ أَرْوَاحِنَا بِيَدِكَ وَحَلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِكَ فِي الْبَرَزِخِ

اور ہماری روہیں اپنے دست کرم سے قبض فرماتا اور حامل ہونا ہمارے اور اپنے غیار کے درمیان برزخ میں

وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ بِنُورِ ذَاتِكَ وَعَظِيمِ قُدْرَتِكَ وَجَمِيلِ

اور اس سے پہلے اور پیچھے ساتھ اپنے نور ذات اور عظیم قدرت اور فضل جمیل

فَضْلِكَ يَا قَادِرُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

کے اے قدرت والے۔ اے اللہ دوری پیدا فرما میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جیسے کہ

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي الْخَطَايَا

مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ مجھے پاک فرما گناہوں سے

كَمَا يُنَقِّي الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ

جیسے کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطاؤں کو

خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالسَّلْبِ وَالْبَرْدِ وَحُلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

دھو دے ساتھ پانی، برف اور اولوں کے پاکیزہ پانی کے اور حاصل ہو درمیان ہمارے اور

فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ وَالْغَفْلَةِ وَالشَّهْوَةِ وَظَلَمِ

دنیا اور عورتوں کے فتنہ کے اور غفلت و شہوت اور بندوں کے ظلم

الْعِبَادِ وَسُوءِ الْخَلْقِ وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاقْضِ عَنَّا

اور بد خلقی کے درمیان۔ اور ہمیں بخش ہمارے گناہ اور ادا فرما ہماری طرف

نَبَعَاتِنَا وَاكْشِفْ عَنَّا السُّوءَ وَنَجِّنَا مِنَ الْغَمِّ وَاجْعَلْ لَنَا

سے ہمارے تادان اور دور فرما ہم سے برائی اور غم سے نجات دے اور بنا ہمارے لیے

مِنْهُ مَخْرَجًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اس خلاص کا راستہ۔ بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

أَنْ تُسَخِّرَ لِي قُلُوبَ عِبَادِكَ أَجْمَعِينَ كَمَا سَخَّرْتَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ

کہ مسخر فرمائے میرے لیے اپنے تمام بندوں کے دل جیسے کہ مسخر فرمایا اپنے حاملین عرش کو

لِعَرْشِكَ وَكَمَا سَخَّرْتَ الطَّيْرَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ وَكَمَا سَخَّرْتَ الشَّمْسَ

اپنے عرش کے لیے اور مسخر فرمایا پرندوں کو فضا کے آسمانی میں اور مسخر فرمایا سورج اور

وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَكَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِسَيِّدِنَا مُوسَى

چاند کو جبکہ روال ہے ہر ایک مقرر مدت تک کے لیے اور جیسے مسخر فرمایا سمندر کو سیدنا موسیٰ

ابْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ

بن عمران علیہ السلام کے لیے اور پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے

السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ

اور ہوا و شیاطین اور جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے

السَّلَامُ سَخَّرْنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَلِكِ

یے مسخر فرما ہمارے لیے اپنے ہر سمندر کو زمین میں ہے یا آسمان میں اور ملک

وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرِ الدُّنْيَا وَبَحْرِ الْآخِرَةِ وَسَخَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ

ظاہر اور ملک باطن میں ہے اور بحر دنیا اور بحر آخرت کو اور مسخر فرما ہمارے لیے ہر

يَأْمَنُ بِبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ كَهَيْعَتِهِ أَنْصَرْنَا فَإِنَّكَ

شئی کو لے کر جس کے دست قدرت میں ہے ہر شئی کی سلطنت - کھنص - ہماری مدد فرما کیونکہ تو

خَيْرُ النَّاصِرِينَ ؕ وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَاعْفِرْ

بہترین مددگار ہے - اور ہمارے لیے کٹائش فرما کیونکہ تو بہترین کٹائش فرمانے والا ہے اور ہمارے

لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ؕ وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ؕ

مغفرت فرما کیونکہ تو ہی بہترین آمرزگار ہے - اور ہم پر رحم فرما کیونکہ بہترین رحم فرما ہے

وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ ؕ وَاحْفَظْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ

اور ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو ہی بہترین روزی رسال ہے اور ہماری حفاظت فرما کیونکہ تو ہی بہترین

الْحَافِظِينَ ؕ وَأَصْدِحْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُصْلِحِينَ ؕ وَاهْدِنَا

نہمسان ہے - اور ہماری اصلاح فرما کیونکہ تو ہی بہترین مصلح ہے اور ہمیں ہدایت دے

وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ؕ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رِيحًا

اور ظالم قوم سے نجات دے - اور ہمیں اپنے پاس سے عطا فرما پاکیزہ ہوا



طَيِّبَةٌ كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَأَنْشُرَهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ

جیسے کہ تیرے علم میں ہے اور نشر فرما اسے ہم پر اپنے خزانے رحمت سے

وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَةً الْكِرَامَةَ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ

اور اٹھا ہمیں اس کے ذریعے اٹھانا کرامت والا بمع سلامتی کے اور دینی

وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ يَسِّرْ

و دنیوی اور آخروی عافیت کے بیشک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ ہمارے

لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ

امور میں آسانی پیدا فرما بمع قلبی اور بدنی راحت کے اور دینی و دنیاوی سلامتی

وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَنَا صَاحِبِنَا فِي سَفَرِنَا

و عافیت کے۔ اور تو ہمارا ساتھی بن سفروں میں

وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا وَأَطْمَسْ عَلَيَّ وَجُوهَ أَعْدَائِنَا وَأَمْسِخْهُمْ

اور خلیفہ اہل و عیال میں اور مسخ فرما ہمارے دشمنوں کے چہرے اور انہیں منجمد فرمائے

عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمَضَى وَلَا الْمَجِيءَ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ

اپنی اپنی جگہوں پر پس وہ نہ طاقت رکھیں گزرنے کی اور نہ ہماری طرف آنے کی اور اگر ہم چاہیں

لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ

تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیں پس وہ راہ کی طرف سبقت کی کوشش کریں تو کیسے دیکھیں گے۔ اور اگر

نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

چاہیں تو انہیں مسخ کر دیں اپنی جگہ پر پس نہ طاقت رکھیں گزرنے کی اور نہ

يَرْجِعُونَ ۗ يَس ۗ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۗ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

واپس لوٹ سکیں۔ اے سرور جہاں۔ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ بیشک آپ برحق رسولوں میں سے ہیں

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۗ لِتُنذِرَ قَوْمًا

راہ راست پر ہیں۔ قرآن عزیز و رحیم کا اتارا ہوا ہے تاکہ تم ٹھراؤ اس قوم کو کہ



بیت المقدس  
مكة  
المنورة  
المدینة  
المنورة  
المنورة



سَقُّنَا كَهَيْعَتِنَا كَفَايَتِنَا حَمَيْتِنَا فَسَيَكْفِيكَهُمْ

ہماری چھت ہے کھینچنے ہماری کفایت ہے۔ تمہیں ہماری سراسر حمایت ہے پس عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان

اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ عَلَيْنَا وَ

کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اور وہی سننے جاننے والا ہے۔ عرش الہی کا پردہ ہم پر لٹکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی

عَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ الْيُنَابِ بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ

چشم عنایت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی طاقت کی بدولت ہم پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ

وَرَأَيْهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي كُورٍ مَحْفُوظٍ فَاللَّهُ

انہیں پیچھے سے (بھی) محیط ہے۔ بلکہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ پس اللہ

خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

بہتر محافظ ہے اور وہ بہتر رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ سب بڑا ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَقُولُ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي وَعَلَى أَهْلِي وَ

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اپنی ذات اور اپنے دین۔ اپنی اہل اور

عَلَى أَوْلَادِي وَمَالِي وَأَصْحَابِي وَأَدْيَانِهِمْ وَعَلَى أَمْوَالِهِمْ أَلْفَ أَلْفِ

اولاد اموال و احباب پر اور ان کے دین اور ان کے اموال پر ہزار در ہزار

صَلَاةٍ وَسَلَامٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَ

صلوٰۃ و سلام۔ اے اللہ ہمیں بخش۔ ہمارے والدین۔ مشائخ اور

لِأَسَاتِدَتِنَا وَلِأَحْبَابِنَا وَلِأَحْبَابِنَا وَلِمَنْ لَكَ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ

اساتذہ۔ احباب اور دوستوں کو اور ہمارے حقداروں کو اور

لِمَنْ حَقٌّ عَلَيْهِمْ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى

ہمارے حق والوں کو اور تمام مومنین و مومنات کو آغاز دنیا سے لے کر

فَنَائِهَا بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَعَلَى نَفْسِي وَعَلَى أَوْلَادِي بِسْمِ اللَّهِ

اس کے قنا تک کے لیے اللہ کے نام کی برکت میرے دین پر اور ذات پر اور اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت



عَلَىٰ مَالِي وَعَلَىٰ أَهْلِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِسْمِ

میرے مال اور اہل پر۔ اللہ کے نام کی برکت اس کی عطا فرمودہ ہر شئی پر۔ اللہ کے نام

اللَّهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبِّ

کی برکت جو مالک ہے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا اور مالک ہے عرش

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ

عظیم کا۔ اللہ کے نام سے جو بہترین نام ہے زمین و آسمان میں

بِسْمِ اللَّهِ أَفْتَحُ وَبِهِ أَسْتَعِينُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے نام کی برکت سے ہی آغاز کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اختتام۔ اللہ۔ اللہ ہی میرا رب ہے۔ میں اس کیساتھ

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِمَّا أَخَافُ

کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ ہی میرا رب ہے۔ نہیں معبود تھی مگر اللہ جو عزت و جلالت والا ہے اور بڑا ہے ان سے جن

وَأَحْذَرُ بِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ غَيْرِي وَ

سے میں خوفزدہ اور ترسنا ہوں۔ تیرے ساتھ ہی لے اللہ پناہ حاصل کرتا شرف نفس اور شر غیر سے اپنے

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّي وَذَرَأَ وَبَرَاءُ بِكَ اللَّهُمَّ أَحْتَرِسُ مِنْهُمْ

رب کی تمام مخلوق اور پھیلائی ہوئی اور درست پیدا کی ہوئی اشیاء سے۔ اور تیرے ساتھ ہی لے اللہ حفاظت حاصل کرتا

وَبِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِّ رُؤْسِهِمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ أَدْرَأُ فِي

ہوں ان سے۔ اور تیری ہی پناہ حاصل کرتا ان کے شرور سے اور تجھے ہی لے اللہ ان کے مقابل

نَحْوِ رُؤْسِهِمْ وَأَقْدَمُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَسْرَجُ لِيهِمْ

کرتا ہوں اور اپنے آگے اور ان کے آگے کرتا ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو پہلے شب اسراء میں اپنے

مَنَاجَاتٍ مِّنْ نَّبَاةٍ وَالْمَنَادِي يُنَادِي هَذَا عَظِيمُ الْقَدْرِ

نبی بنانے والے کی طرف اور منادی ندا دیتا تھا یہ عظیم قدر و منزلت والے ہیں اللہ



عَلَى اللَّهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِي وَأَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ

کے ہاں اور اسی طرح اللہ کو بناتا ہوں اپنے دائیں اور ان کے دائیں اور اپنے بائیں اور ان کے بائیں

وَأَمَامِي وَأَمَامِهِمْ وَخَلْفِي وَخَلْفِهِمْ وَفَوْقِي وَفَوْقِهِمْ

اور اپنے آگے اور ان کے آگے اور اپنے پیچھے اور ان کے پیچھے اور اپنے اوپر اور ان کے اوپر

وَتَحْتِي وَتَحْتِهِمْ وَمُحِيطٌ بِي وَبِهِمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي

اور اپنی نیچلی سمت سے اور ان کی نیچلی سمت سے اور مجھے محیط اور ان کو محیط بناتا ہوں۔ لے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ الَّذِي لَا يَبْلُغُكَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ

اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کا جس کا صرف تو ہی مالک ہے۔ لے اللہ

اجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ فِي عِبَادِكَ وَعِيَاذِكَ وَجِوَارِكَ وَأَمَانِكَ

بنادے مجھے اور انہیں اپنے بندوں میں اور اپنی پناہ میں اور حفظ و امان میں

وَحِزْبِكَ وَحِزْبِكَ وَكَتِفِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ

اور اپنی جماعت و حفاظت میں اور پہلوئے رحمت میں ہر شیطان اور سلطان

وَأَنْسٍ وَجِنَّ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبْعٍ وَحِيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَ

اور انس و جان اور باغی و حاسد اور درندہ و سانپ اور بچھو اور ہر جانور کے شر سے

دَابَّةٍ أَنْتَ أَخَذْتَ بِنَاصِيَتِهَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ

کہ تو جس کی پیشانی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اور جب تو یاد کرے اپنے رب و امد کو قرآن میں

وَحَدَاةٍ وَلَوْ عَلَيَّ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا

تو وہ اٹکے پھرتے ہیں بھاگتے ہوئے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ لَمْ يُولَدْ

فرمادیں مجھے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور نہیں اس کی مثل کوئی بھی شخص